

فقہی مقالات



جلد ۶

حضرت مولانا مفتی حملہ تحقیقی عثمانی مذکور

ٹریفک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم

دین اور مالی دستاویز کی فروخت

مراکز اسلامیہ کی طرف سے فتح نکاح
اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک

حرمت رضاعت دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟

اسلام میں غلامی کی حقیقت

حدود ترمیمی مل کیا ہے؟

اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

مہر اسلام پبلیشن

العنزو
العنزو

فقہی مقالات

۲

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

ترجمہ و ترتیب

محمد عبداللہ میمن
استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

میمن اسلامک پبلشرز

جملہ حقوق بحق ناشر حفظ ہیں

مقالات	:	شیع الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مذکور
ترجمہ و ترتیب	:	مولانا محمد عبداللہ سیمن صاحب استاد جامعہ دارالعلوم کراچی۔
اشاعت اول	:	2012ء
باہتمام	:	محمد مشہود الحق کیانوی
ناشر	:	سینک اسلام پبلیشورز
کپوزنگ	:	خلیل اللہ فراز 0321-2606274
جلد	:	06
قیمت	:	1 روپے
حکومت پاکستان کا پی رائٹس رجسٹریشن نمبر:		

ملنے کے پتے

- ☆ مسینک اسلام پبلیشورز، کراچی:- 0313-9205497
- ☆ مکتبہ دارالعلوم، کراچی:- ۱۲۔ ☆ مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور۔
- ☆ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی۔
- ☆ ادارہ المعارف، دارالعلوم، کراچی۔
- ☆ مکتبہ معارف القرآن، دارالعلوم، کراچی۔ ۱۲۔
- ☆ کتب خانہ اشرفیہ، قاسم سینٹر، اردو بازار، کراچی۔
- ☆ مکتبہ العلوم، سلام کتب مارکیٹ، بنوی شاون، کراچی۔
- ☆ مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، نزد جامعہ فاروقیہ، کراچی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

الحمد لله "تفہی مقالات" کی چھٹی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے، جو استاذ کرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مذکوم کے فتحہ کے مختلف موضوعات پر لکھے گئے جدید مقالات پر مشتمل ہے، اس جلد میں بھی پیشتر مقالات وہ ہیں جو حضرت والانے "عربی" زبان میں تحریر فرمائے تھے، اور احقر نے ان کو اردو کے قالب میں منتقل کیا، ان مقالات کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

(۱) ٹرینک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم

یہ مقالہ "قواعد و مسائل فی حوادث المروء" کے نام سے حضرت والامد مذکوم نے "اسلامی فتحہ اکیڈمی" کے آنھوں اجلاس منعقدہ بردنائی دارالسلام، ہماری خیم محروم الحرام تاریخ ۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ "بحوث فی قضایا لفقہیہ معاصرۃ" کی جلد اول میں شائع ہوا۔
 (۲) دین اور مالی و ستادیز کی فروخت اور ان کے شرعی تبادل

یہ مقالہ "بعض الدین والأوراق المالية و بدلائلها الشرعية" کے نام سے حضرت والامد مذکوم نے "اسلامی فتحہ اکیڈمی" کے گیارہوں اجلاس منعقدہ منامہ، ہماری بنا تاریخ ۱۵ جنوری ۱۹۸۰ء میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ

”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرة“ کی جلد ثانی میں شائع ہوا۔

(۳) مراکز اسلامیہ کی طرف سے فتح نکاح

یہ مقالہ حضرت والامد ظلہم نے ”فسخ نکاح المسلمين من قبل المراكز الإسلامية في بلاد غير إسلامية“ کے نام سے تحریر فرمایا تھا، یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرة“ کی جلد ثانی میں شائع ہو چکا ہے۔

(۴) اسلامی ملکوں میں غیر مسلوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم

یہ مقالہ حضرت والامد ظلہم نے ”سماعۃ الاحکام الشرعیۃ فی علاقۃ المسلمين بغيرهم“ کے عنوان سے رابط عالم اسلامی کے تیرسے اجلاس منعقدہ مکتبہ المکرمة، سعودی عرب، بتاریخ ۲۷ فروری ۲۰۰۲ء میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرة“ کی جلد ثانی میں شائع ہو چکا ہے۔

(۵) ”حرمت رضاعت“ دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟

یہ مقالہ حضرت والامد ظلہم نے ”تمکملۃ فتح الملهم، جلد اول، کتاب الرضاعت“ میں تحریر فرمایا ہے۔

(۶) اسلام میں خلای کی حقیقت

یہ مقالہ حضرت والامد ظلہم نے ”الرق فی الاسلام“ کے عنوان سے ”تمکملۃ فتح الملهم“ کی جلد اول میں تحریر فرمایا ہے۔

(۷) حدود و ترسیکی مل کیا ہے؟

قوی اسیلی میں ”تحفظ حقوق نسوں مل“ کے نام سے حال ہی میں ایک مل منظور کرایا گیا ہے، اس مل کے قانونی مضررات سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو قانونی باریکیوں کی فہرست رکھتے ہوں، عام لوگوں کو یہ تباہی جارہا ہے کہ اس مل کے نتیجے

میں تم رسیدہ خواتین کو سکھ اور جنین نصیب ہو گا۔ حضرت والا نے اس مقالہ میں اس مل کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، یہ مقالہ ماہنامہ "البلاغ" میں شائع ہو چکا ہے۔

(۸) اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

رابطہ عالم اسلامی نے "فتیقی" کے موضوع پر ایک علمی کانفرنس مکمل کرمہ، سعودی عرب میں بتاریخ ۲۰ محرم ۱۴۳۰ھ منعقد کرائی تھی، اس کانفرنس میں پیش کرنے کے لئے حضرت والا مظہم نے "الفتوی الجماعی" کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر فرمایا، اردو میں اس مقالہ کی تلخیص جناب ابوسفیان سعید صاحب کی ہے، یہ تلخیص پہلے سعودی عرب کے اردو اخبار "روشنی" میں شائع ہوئی، بعد میں یہ تلخیص ماہنامہ البلاغ میں شائع ہوئی۔

ان مقالات سے استفادہ کرنے والوں کو جہاں کہیں کسی بات میں ذرہ برابر شبه محسوس ہو، ان سے درخواست ہے کہ وہ اصل مقالہ کی طرف رجوع فرمائیں اس لئے کہ احتراز نے اگرچہ ترجمہ کی صحت اور نظر ثانی کی پوری کوشش کی ہے، لیکن کہاں بندہ بے علم و عمل، اور کہاں حضرت والا کے وقیع و دقیق علمی مقالات۔ بہر حال: اس ترجمہ میں جہاں کوئی خاتی نظر آئے، اس خاتی کو بندہ کی کم علمی کا نتیجہ سمجھو کو بندہ کو اس سے مطلع فرمادیں تو بندہ انشاء اللہ آپ کا احسان مند ہو گا، اور اس خاتی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔

محمد عبداللہ سیمن

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی
۱۸ ارذی المحبہ ۱۴۳۰ھ

اجمائی فہرست

جلد نمبر : ۶

تفہی مقالات

صفحہ نمبر

عنوان

- | | |
|-----|---|
| ۱۱ | ﴿۱﴾) ٹرینک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم |
| ۷۵ | ﴿۲﴾) دین اور مالی دستاویز کی فروخت |
| ۱۳۹ | ﴿۳﴾) مراکز اسلامیہ کی طرف سے فتح کا حج |
| ۱۴۱ | ﴿۴﴾) اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک |
| ۲۲۱ | ﴿۵﴾) حرمت رضاعت دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟ |
| ۲۳۵ | ﴿۶﴾) اسلام میں غلامی کی حقیقت |
| ۲۶۶ | ﴿۷﴾) حدود ترمیمی مل کیا ہے؟ |
| ۳۰۱ | ﴿۸﴾) اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت |

تفصیلی فہرست

عنوان

صفحہ نمبر

۱۵	۱۔ ڈینیک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم شریعت اسلامیہ میں نقصان اور اس کا تاویں نقصان اور ضمان سے متعلق فقیہی قواعد
۲۰	پہلا قاعدہ : عام راستے سے گزرن اسلامی کی شرط کیما تھے مباح ہے
۲۰	دوسرा قاعدہ : مباشر ضامن ہو گا، اگر چوڑہ تعددی نہ کرے مباشرت کیا ہے؟
۲۲	تیسرا قاعدہ : مسہب ضامن ہو گا اگر وہ متعددی ہو چوتھا قاعدہ
۲۸	پہلا نقطہ
۳۱	دوسراء نقطہ
۳۳	گائزیوں کے حادثات
۴۰	گائزیوں کے ذریعہ ہونے والے حادثہ میں ڈرائیور کی ذمہ داری کی حد پہلی وجہ
۴۱	دوسری وجہ
۴۴	تیسرا وجہ
۴۸	چوتھی وجہ
۴۹	پانچمی وجہ
۴۹	ڈرائیور کو ضامن نہیں کرنے پر استدلال
۵۰	

صفیہ نبیر

عنوان

۲۔ دین اور مالی دستاویز کی فروخت اور ان کے شریٰ تبادل

۷۸	دین کی فروخت کی مختلف صورتیں
۷۹	بیچ اکالی بنا کالی
۸۴	(۲) مدیون سے دین کی بیچ کرنا
۸۹	مدیون کے علاوہ دوسرے کو دین فروخت کرنا
۹۴	غیر مدیون سے دین کی بیچ کے بارے میں مالکیہ کا مذہب
۹۹	شافعیہ کا مذہب
۱۰۳	موجودہ دور کی مالی دستاویزات
۱۰۵	بائڈز (BONDS)
۱۰۹	بل آف ایچنچ (Bill of Exchange)
۱۱۵	بل آف ایچنچ کی بیچ کے حکم کا خلاصہ
۱۱۶	میشیا کے بعض حضرات کا موقف
۱۲۵	”حوالہ“ کی بنیاد پر بل آج ایچنچ کی کثوتی کا حکم
۱۲۶	”بیچ الدین“ کے مکمل تبادل طریقے
۱۲۷	”بل آف ایچنچ“ کی کثوتی کا تبادل
۱۳۰	کپیوں کی طرف سے جاری شدہ ”بائڈز“ کا تبادل
۱۳۱	حکومت کے جاری کردی ”بائڈز“ کا تبادل
۱۳۲	سکوک المشارکہ یا مضاربہ
۱۳۲	سکوک الائچیر

صیغہ نمبر

عنوان

۱۳۳

حکومتی مالیاتی فنڈ

۱۳۵

غیر سودی قرض سٹیفیکٹ

۳۔ مراکز اسلامیہ کی طرف سے فتح نکاح

یعنی غیر اسلامی ممالک میں مراکز اسلامیہ کی طرف
سے مسلمان خواتین کے نکاح فتح کرنے کا حکم

۱۳۵

دوسرے سوال

۱۵۲

مسلمانوں کی جماعت کی تعداد

۱۵۶

جماعتِ اسلامیہ کے اوصاف

۱۵۸

جماعت کے ارکان کے درمیان اختلاف کی صورت میں غل

۱۵۹

فتح نکاح میں "جماعتِ اسلامیہ" کا اختیار

۴۔ اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ

اچھے سلوک کرنے کا حکم

۱۶۵

اہل ذمہ کے ساتھ حسن سلوک

۱۷۴

حالت اُس میں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات

۱۷۷

(۱) عدل و انصاف

۱۸۵

(۲) المواساة (اظہار ہمدردی)

۱۸۹

(۳) اپنے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

۲۰۱

غیر مسلم جنگ جوڑنے کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک

صفیہ نمبر

عنوان

- (۱) جنگ کے مقاصد کی اصلاح
 (۲) جنگ کے دوران چاری طریقوں کی اصلاح
 (۳) جنگ کے دوران عدل و انصاف قائم رکھنا
 جنگزوں کے حل کے لئے صلح کے طریقوں کی فضیلت

۵۔ حرمت رضااعت

دودھ کی کتنی مقدار پر حرمت رضااعت ثابت ہوگی؟

۶۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت

(الرق فی الاسلام)

- کیا "غلامی" کا حکم منسون ہو چکا ہے؟
 تنبیہ

۷۔ حدود ترمیمی مل کیا ہے؟

تحفظ حقوق نسوان مل

- غاشی

- حدود آرڈیننس میں کچھ مزید ترمیمات

- خلاصہ

۸۔ اجتماعی اجتہاد

اور اس کی ضرورت

ٹرینک کے حادثات

اور

ان کا شرعی حکم

(۱)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مذکورہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ میکن

صیمن اسلامک پبلیشورز

(۱) ٹرینیگ کے خادیات اور ان کا شرعی حکم

یہ مقالہ ”قواعد و مسائل فی حوادث المرور“ کے عنوان سے
حضرت والا مسلم نے ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ کے آٹھویں اجلاس
منعقدہ برلنی دارالسلام، ہزارخ ۱۳۷ کیم محروم الحرام تا ۱۴۰۰ محروم الحرام
۱۴۰۰ھ میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ
”بحوث فی قضایا الفہمیہ معاصرۃ“ کی جلد اول میں شائع ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ٹریفک کے حادثات

اور ان کا شرعی حکم

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه
سيدنا و مولانا محمد النبي الأمين ، و على آله و اصحابه
الطيبين الطاهرين ، و على كل من تبعهم باحسان الى يوم
الدين . اما بعد !

”ٹریفک حادثات“ کا موضوع ان فقہی موضوعات میں سے ہے جو موجودہ دور کے حالات، جس میں حادثات کی صورتوں اور اُنکی فروع نے مختلف شکلیں اختیار کر لینے کی وجہ سے گھرے اور پختہ مطالعہ کا تھاج ہے۔ اور جدید اور تیز رفتار وسائل کے استعمال میں اضافے کے نتیجے میں حادثات بھی بڑھ گئے ہیں، اسی وجہ سے اکثر مالک میں ٹریفک کے تو اینیں مرتب اور منضبط کئے گئے ہیں۔

”شريعت اسلامیہ“ جو اپنے احکام میں انصاف اور سلامتی کی ضامن ہے، اس اہم پہلو سے غافل نہیں ہے، بلکہ ”شريعت اسلامیہ“ نے اس کے لئے ایسے اصول اور قواعد وضع کئے ہیں، جن کی روشنی میں ہم جدید پیش آنے والے حادثات

کے احکام بھی جان سکتے ہیں، ہمارے فقہاء معتقد میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان حادثات کے احکام پر ”باب الدیات“ میں بحث کی ہے، اور اس میں ایسے اصول و فروع بیان کئے ہیں، جو حادثات کی تصور کیشی میں ان کی انتہائی وسعت نظر اور ایک حادثے کو دوسرے حادثے سے جدا کرنے میں ان کے تعمق پر دلالت کرتے ہیں، مختلف فقہی مذاہب کے مطالعہ کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ احکام نقیبیہ کا یہ باب ایسا ہے جس میں فقہاء کے درمیان اختلاف بہت کم رہا ہے، اور مختلف مذاہب کی کتابوں میں اس مسئلہ کی مختلف جزئیات کے مطالعے کے دوران غور و خوض کرنے والا اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ سب احکام ایک ہی چراغ سے کل رہے ہیں، اور ایک ہی لڑی میں پروئے گئے ہیں، اور ان کے درمیان اختلاف بہت ستمبوی ہے۔

لیکن یہ نظری بات ہے کہ جس زمانے میں فقہاء نے حادثات کے سائل کو مدقائق اور مرتضب کیا تھا، اس زمانے میں اس طرح کی تیز رفتار سواریاں جیسے گاڑیاں، ریل گاڑیاں اور ہواجی جہاز موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آمد و رفت کا یہ جدید نظام تھا، اسی وجہ سے ان فقہاء نے صرف اپنے زمانے کی سواریوں کے بارے میں کلام کیا ہے، جیسے چوپائے، چھکڑے، کشتیاں اور جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اس ماحول میں آمد و رفت کے جن ذرائع سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان سے کلام کیا ہے، لیکن ان فقہاء کا کلام شریعت اسلامیہ کے اصلی تأخذ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پر مبنی ہے، اور ان کے کلام نے ہمارے لئے ایسے عام اصول بتاتا دیے ہیں جن کو موجودہ دور میں اور آئندہ دور میں وجود میں آنے والے آمد و

رفت کے جدید وسائل پر منطبق کرنا ممکن ہے۔

الہذا موجودہ دور کے فقیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان اصول عامہ سے واقف ہو، اور ان کو موجودہ دور کی زندگی پر منطبق کرے، اور ان احتیازات کا خیال رکھے جو آمد و رفت کے جدید نظام کو قدم نظام سے ممتاز کرنے والے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کی جزئیات اور فروعیات کی واضح تعریف کرے، تاکہ آمد و رفت کے حادثات کی تمام جزئیات میں سے ہر ہر جزوی اور ہر فرع کا حکم دوسری جزوی سے علیحدہ معلوم ہو جائے۔

چونکہ یہ موضوع موجودہ دور کے علماء کی کتابوں میں غور و خوض اور بحث کے اعتبار سے اپنا حق حاصل نہیں کر سکا، اس لئے یہ موضوع بہت اہتمام کے لائق ہے، اور میرا یہ "مقالہ" اس خلا کو پر کرنے کے لئے ایک معقولی اور حقیر کوشش ہے، جس کا بیڑہ اسلامی فقہ اکڈی نے اس خلا کو پر کرنے کے لئے اٹھایا ہے۔ واسط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یوفقی للحق والصواب و یعدنی عن الزلل والخطل و هو المستعان و علیہ التکلال۔

شریعت اسلامیہ میں نقصان اور اس کا تاوان

شریعت اسلامیہ کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے، اور اگر کسی شخص نے اپنے فعل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا تو قانون اور نقصان پہنچانے والا اس نقصان کا ضامن ہو گا، سو اے بعض مخصوص حالات کے، جن کی تفصیل انشاء اللہ آمیگے آجائے

گی۔ یہ ”قانون“ قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔
جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں اس پر سب سے واضح
دلیل یہ آیت ہے :

وَدَازِدَ رَسُولَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ لَفَّشَ فِيهِ
خَنْمَ الْقَوْمَ وَ كُنَّا لِلْحَكْمِ مُ شَاهِدِينَ . فَهَمَّنَا هَا سُلَيْمَانَ
وَ كُنَّا لَا آتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا . (الانیاء : ۷۸)

”النَّفْش“ رات کے وقت چرنے کو کہا جاتا ہے، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ
علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ
اس آیت میں جس کھیت کا ذکر ہے، وہ انگور کی بیتل تھی، جس کے خوشے لکل آئے
بتھے، بکریوں نے اس کو خراب کر دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں انگور کی
بیتل کے مالک کو دینے کا فیصلہ فرمادیا، یعنی انگور والے کا جونقصان ہوا، اس کے عوض
اس کو بکریوں کا مالک بنا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر
میں نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بکریوں کی قیمت انگور کی
بیتل کی قیمت کے قریب ہے، جو خراب ہو گیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
دوسری رائے اختیار کی، انہوں نے فرمایا کہ انگور کی بیتل بکریوں کے مالک کے
حوالے کر دی جائے، وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور اس کی نگرانی کرے، یہاں
تک کہ وہ اس حالت پر آجائے جس حالت پر وہ پہلے تھی، اور یہ بکریاں اس وقت
بیتل والے کو دیدی جائیں تاکہ وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے۔

قرآن کریم کی آیت نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس بھڑے کے

فیلے میں حضرت داکو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی رائے مختلف تھیں، اگرچہ قرآن کریم نے دونوں فیصلوں کی تفصیل بیان نہیں کی، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رائے کے مستحسن ہونے کی عراحت فرمائی ہے۔

تفاسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت داکو اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں سے ہر ایک کی رائے کا مقصد اس شخص کو ضامن بنانا تھا، جس نے انگور کی نیل کو نقصان پہنچایا تھا، تاکہ نقصان اور ضمان کے درمیان برابری ہو جائے۔ پھر دونوں کی رائے اس برابری کی صورت کی خصوصیت سے قطع نظر کرتے ہوئے مختلف ہو گئیں، اس لئے کہ یہ واقعہ جو اس آیت میں مذکور ہے، ایک عام اصول کی خبر دے رہا ہے، وہ یہ کہ جو شخص کسی دوسرے کی جان یا مال کو نقصان پہنچائے گا، وہ شخص دوسرے کے لئے اس نقصان کا ضامن ہو گا۔

جہاں تک حدیث نبوی کا تعلق ہے، تو اس بارے میں سب سے زیادہ صریح حدیث اس معنی کے بیان کے لئے وارد ہوئی ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ:

لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارٌ (۱)

یقیناً اس حدیث نے ضرر دور کرنے اور ضرر کا سبب بننے کی حرمت کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول کو بیان کیا ہے،

(۱) ابن ماجہ، کتاب الاحکام، حدیث نمبر ۲۴۰، مسند احمد ج: ۵، ص: ۳۲۷؛ مؤطا امام مالک، کتاب الانضیل، باب القضاۃ فی المرفق، ج: ۲، ص: ۱۲۲؛ مع توبہ الحوالك، قال ابوصیر فی الرؤالد، ج: ۳، ص: ۴۸؛ السندر رحالہ ثقات، إلا أنه منقطع؛ لأن أحادیث بن الوليد لم يدرك عبادة بن الصامت كمساقاً لترمبذى وأبن عدى، مجمع الزوائد، ج: ۴، ص: ۲۰۵، ولكن للحديث طرقاً آخر سوى ما تقدم، كما في المقاصد الحسنة للسعاری ص: ۴۶۸، حدیث نمبر: ۱۳۱۰۔

اگر ہم اس حدیث میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث نے صرف دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حرام ہونے کے بیان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ حدیث اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جو شخص اس نقصان کا سبب بنا ہے اس پر بھی ضمان واجب ہے، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول "نمی" کے میخ سے بیان نہیں فرمایا جو صرف اس فعل کی حرمت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "نفی جنس" کے میخ سے بیان فرمایا، اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح انسان کے ذمہ یہ واجب ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پر بیز کرے، اسی طرح اس کے ذمہ یہ بھی واجب ہے کہ اگر اس سے اس طرح کا کوئی نقصان صادر ہو جائے تو وہ نقصان رسیدہ شخص سے اس نقصان کو دور کرے، اور اس کی تلافی کرے، یا تو اس کو سابقہ اصلی حالت پر لوٹا کر اس کی تلافی کرے، اگر ایسا کرنا ممکن ہو، ورنہ اس نقصان کا بدلہ دے، اور اس کا ضمان ادا کرے، تاکہ وہ ضمان فوت شدہ چیز کا عوض بن جائے۔

اور مصیبت رسیدہ شخص کے لئے نقصان کا بدلہ واجب ہونے پر "دیات" کے وہ احکام دلالت کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، انہی میں سے بعض احکام ہمارے موضوع کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤٹا کی کتاب الاقضیہ میں بیان کیا ہے کہ :

عن حرام بن سعد بن محیصہ ان ناقۃ للبراء بن عازب

رضی اللہ عنہ دخلت حاتظ رجل، لافسیدت فیہ، فقضی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی اهل الحوائط

حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها.

حضرت حرام بن سعد بن محمد بن جعفر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضرت
براء بن عازب رضي الله تعالى عنه کی اونٹی ایک شخص کے باغ میں داخل ہو گئی، اور
اس باغ کو خراب کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن کے
وقت باغ والوں پر اپنے باغ کی حفاظت ضروری ہے، اور رات کے وقت جو مویشی
باڑ کے اندر نقصان کر دیں تو مویشی کے مالک اس نقصان کے ضامن ہوں گے۔
یہ حدیث تمام دلائل میں سے سب سے صراحت کے ساتھ اس پر دلالت کر
رہی ہے کہ جو شخص دوسرے کے نقصان کا سبب بنا ہو، وہ اس نقصان کا ضامن ہے،
اسی طرح امام دارقطنی نے یہ سنن میں یہ روایت نقل کی ہے کہ :

عن نعمن بن بشیر رضي الله عنهمما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فلأوطأت بيده أو رجل فهو ضامن۔ (۱)

حضرت نعمن بن بشیر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی شخص نے اپنا چوپا یہ مسلمانوں کے
راستوں میں سے کسی راستے میں کھڑا کر دیا، یا مسلمانوں کے بازاروں میں سے کسی
بازار میں کھڑا کر دیا، اور اسکے بعد پائے نے اپنے ہاتھ بیٹھا ڈیں یہ سے کسی کو وند دیا

(۱) سنن دارقطنی ج: ۳ ص: ۱۷۹ - کتاب الدیبات والحدود حریصہ نمبر: ۴۸۵

(اور کوئی نقصان پہنچایا) تو وہ شخص ضامن ہو گا۔

اس حدیث کی سند میں اگرچہ سری بن اسما علیل ہدایت کو فی کشف کی وجہ سے کلام ہے، لیکن اس حدیث کے مضمون پر جبکہ رفقہاء قدیم و جدید سب متفق ہیں۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر فقہاء صحابہ و تابعین و قضاء صحابہ و تابعین نے اس شخص کے خلاف ”ضمان“ کا فیصلہ فرمایا جو اپنے فعل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے، اس حضرات کے فیصلے اور فتاویٰ اس باب میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، کتب حدیث میں ان کی طرف مراجعت کی جا سکتی ہے۔

انہی اصول، فیصلے اور فتاویٰ کی روشنی میں فقہاء متاخرین نے اس باب میں قواعد فقہیہ کے ذریعہ ان کا نچوڑ نکالا ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان قواعد کو انکی تشریع و تفصیل اور تریف کے حداثات پر انکو منطبق کرنے کی کیفیت کو بیان کرنا مناسب ہے۔

نقصان اور ضمان سے متعلق فقہی قواعد

﴿پہلا قاعدہ﴾

عام راستے سے گزرناسلامتی کی شرط کیسا تھا مباح ہے
یہ قاعدہ کئی فقہاء نے ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام راستے سے گزرناسلامتی کا حق نہ ہو جس سے پہنچا ممکن ہو۔ علامہ خالد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

والأصل أن المسوور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة، بمنزلة المشي، لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجهه، وفي حق غيره من وجهه، فالاباحة مقيدة بالسلامة.

وانما تقييدتها بها فيما يمكن التحرز عنه، دون ما لا يمكن التحرز عنه، لأن لو شرطنا عليه السلامة عملاً يمكن التحرز عنه، يتعذر عليه استيفاء حقه، لأنه يمتنع عن المشي والسير مخافة أن يتلى بما لا يمكن أن يتحرز عنه، والتحرز عن الوطء والاصابة باليد أو الرجل والقدم، وهو العرض بمقدم الأسنان، والخطب، وهو الضرب باليد، والصدمة، وهو الضرب بنفس الدابة وما أشبه ذلك في وسع الراكب اذاً من النظر في ذلك، وأما ما لا يمكن التحرز عنه، كما اذا نفتح برجلها، يعني ضربت بحافرها أو ذنبها، فلا يضمن .^(۱)

وتفرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے راستے میں سلامتی کی شرط کے ساتھ گزرنے مباح ہے، اور یہ گزرنا بمنزلہ "چلنے" کے ہے، اس لئے کہ راستے میں گزرنے کا حق تمام لوگوں کے درمیان مشترک حق ہے، لہذا گزرنے والا من وجہ اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے، اور من وجہ غیر کے حق میں تصرف کر رہا ہے، لہذا یہ گزرنا سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہے۔

لیکن یہ سلامتی کی شرط ان افعال میں ہے جن سے بچنا ممکن ہے، نہ کہ ان

(۱) شرح مجلة الأحكام العدلية للأئمـة ج: ۳، ص: ۴۹۴ مادہ نمبر ۹۲۲

افعال میں جن سے پچنا ممکن نہیں۔ اس لئے کہ اگر ہم سلامتی کی شرط ان افعال کے ساتھ بھی لگادیں جن سے پچنا ممکن نہیں تو پھر گزرنے والے کو اپنا حق حاصل کرنا محدود رہ جائے گا، کیونکہ وہ اس صورت میں راستوں میں چلنے پھرنے سے اس ڈر سے زک جائے گا کہ وہ کہیں ایسے عمل میں بتلانہ ہو جائے جس سے پچنا ممکن نہیں، اور روند نے سے، اور ہاتھ کے ذریعہ مارنے سے، چوپائے کے کسی کو اپنی ذات سے ٹکرانے سے، اور اس جیسے دوسرے افعال ایسے ہیں، اگر گہری نظر ڈالی جائے تو سوار کے لئے ان سے پچنا ممکن ہے (لہذا ان صورتوں میں سوار ضامن ہو گا) اور وہ افعال جن سے پچنا ممکن نہیں، جیسے چوپائے کا اپنے پاؤں سے مارنا، یعنی اپنے کمر سے، یا اپنی دم سے مارنا، تو ان صورتوں میں سوار ضامن نہیں ہو گا۔

﴿ دوسرہ قاعدہ ﴾

مباشر ضامن ہو گا، اگر چہ وہ تعددی نہ کرے

اس قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص برآہ راست دوسرے کو نقصان پہنچائے تو وہ شخص اس ضرر کا ضامن ہو گا جو نقصان اس کے فعل سے دوسرے کو پہنچا، اگر چہ اس نقصان پہنچانے والے نے کوئی تعددی نہ کی ہو، یعنی اس شخص کا فعل نی نفعہ منوع نہ ہو، جیسے سونے والا شخص دوسرے شخص پر سونے کی حالت میں پلٹ جائے اور اس کو قتل کر دے، تو اس شخص نے برآہ راست قتل کا ارتکاب کیا، باوجود یہ کہ اس کی

خیندگی نفسہ منوع نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ مقتول کی دیت کا ضامن ہو گا۔
 اسی قاعدے کو دوسرے فقہاء کرام نے اس کے قریب قریب عبارتوں کے
 ساتھ بیان کیا ہے، اور اس قاعدہ کے مضمون پر فقہاء کرام نے اتفاق کیا ہے، اور یہ
 ان اہم قواعد میں سے ایک ہے جن کی "ضرر کے ضامن" کے مسئلے میں پیروی کی جاتی
 ہے۔ لیکن بعض اوقات اس قاعدے کو سمجھنے میں کچھ اشتباہ ہو جاتا ہے، اور بعض
 جزئیات پر اس کو منطبق کرنے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، لہذا اس قاعدے کے صحیح
 مفہوم کو سمجھنے کے لئے اس کا گھرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔

(۱) اس قاعدے پر پہلا اشتباہ اس جہت سے واقع ہوتا ہے کہ بعض

فقہاء نے اس قاعدے کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ :

"المباشر ضامن و ان لم يتعمد"

یہ قاعدہ ان الفاظ کے ساتھ "مجلة الاحکام العدلية، مادہ نمبر ۹۲"^(۱)
 میں مذکور ہے، اور بعض علماء نے اس کی یہ تشریع کی ہے کہ "مبادر" کو ضامن بنانے
 کے لئے یہ شرط نہیں کہ وہ "معتمد" ہو، یعنی تصدی اور ارادے سے اس نے وہ فعل کیا
 ہو، بلکہ اس کو ضامن بنانے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ "تسعیدی" کرنے والا ہو۔

پڑنا پچ شیخ احمد زرقاء اپنی کتاب "شرح القواعد الفقهیہ" میں فرماتے ہیں :

المبادر لل فعل ضامن لما تلف بفعله، اذا كان

متعددا فيه . (۱)

یعنی کسی فعل کا مبادر اس چیز کا ضامن ہے جو چیز اس کے فعل سے ہلاک ہو

جائے، جبکہ وہ "مبادر" تعداد کرنے والا ہو۔

اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مبادر کو ضامن شمارانے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ تعداد کرنے والا ہو۔ باوجود یہ فقہاء کی بڑی تعداد نے یہ بیان کیا ہے کہ مبادر کو ضامن بنا نے کے لئے اس کا تعداد کرنا شرط نہیں۔ چنانچہ امام زیلیع رحمۃ اللہ علیہ "تبیین الحقائق" میں فرماتے ہیں :

وغيره تسبیب، وفيه يشرط التعید، فصار كحفر

البتر في ملكه وفي المباشرة لا يشرط . (۱)

مباشرت کے علاوہ دوسری صورت سبب بننے کی ہے، اور کسی فعل کے سبب بننے کے لئے "تعید" شرط ہے، جیسے اپنی ملکیت میں کنوں کھو دنا، البتہ "مباشرت" میں تعید شرط نہیں۔

ابن حنبل البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

المباشر ضامن، وان لم يعتمد، ولم ي تعد، والمتسبب لا

يضمن الا أن يتعدى . (۲)

"مبادر" نقصان کا ضامن ہوگا، اگرچہ وہ قصد اور ارادہ بھی نہ کرے، اور تعید بھی نہ کرے، البتہ "سبب" نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، الای کہ تعید کرے (اس صورت میں ضامن ہوگا)

شیخ مصطفیٰ زرقاء حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب "الفعل الضار والضمان
فیسه" میں اس تعارض کو رفع فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ "تعید" دو معنی

(۱) تبیین الحقائق للزیلیعی ج: ۶ ص: ۱۴۹

(۲) مجمع الضمانات ص: ۱۶۵ باب نمبر: ۱۲ فصل نمبر ایک

میں استعمال ہوتا ہے، اور ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ (۱)

”تعدی“ کے ایک معنی یہ ہیں کہ کسی دوسرے کے حق کی طرف، یاد دسرے

شخص کی ملکیت مخصوص کی طرف کسی فعل کا متجاوز ہو جانا۔

”تعدی“ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ”عمل“ اپنی ذات میں شرعاً منوع

ہو، اس سے قطع نظر کرو، فعل دوسرے کی حد میں متجاوز ہوا ہے یا نہیں۔

”تعدی“ کے پہلے معنی کے اعتبار سے ”مبادر“ کو ضامن بنانے کے لئے

تعدی کا پایا جانا بھی شرط ہے۔ ”تعدی“ کے دوسرے معنی سے ”مبادر“ کو ضامن

بنانے کے لئے ”تعدی“ شرط نہیں۔ شہزادگر کسی شخص نے اضطراری حالت میں اپنی

جان کو ہلاکت سے بچانے کے لئے دوسرے شخص کا کہانا اس کی اجازت کے بغیر

کھالیا تو اس کا یہ فعل جائز ہے، بلکہ واجب ہے، اب اس شخص سے ”تعدی“ کے

دوسرے معنی کے اعتبار سے ”تعدی“ صادر نہیں ہوتی، لیکن پہلے معنی کے اعتبار سے

”تعدی“ پائی گئی، کیونکہ اس شخص نے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کر لیا، لہذا اس

شخص پر اس کفانے کا خنان آئے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص پھسل گیا، یا اس پر بیویو شی

طاری ہو گئی، اور جس کی وجہ سے وہ دوسرے کے مال پر گر گیا، اور وہ مال ضائع ہو

گیا، تو وہ شخص ضامن ہو گا، اگرچہ اس شخص نے شرعاً منوع عمل نہیں کیا۔

شیخ مصطفیٰ زرقاء۔ حظوظ اللہ تعالیٰ۔ نے جو فرق بیان فرمایا ہے، وہ بہت مددہ

اور واضح ہے، لہذا جن حضرات نے ”مبادر“ پر ضمان آنے کے لئے ”تعدی“ کو شرط

قرار دیا ہے، اور جنہوں نے شرط قرار نہیں دیا، اس فرق کے ذریعہ ان دونوں کے درمیان تعارض دور ہو جائے گا۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ ”مبادر“ جب کبھی نفس مخصوص میں، یا بدن مخصوص میں، یا مال مخصوص میں نقصان پہنچائے تو وہ ”مبادر“ ضامن ہو گا، اگرچہ ”مبادر“ کا وہ فعل نفہ مباح ہو، اور قصد و ارادہ کے بغیر صادر ہوا ہو۔

(۲) دوسرا استثناء بعض اوقات اس قاعدے کو سمجھتے میں یہ پیش آتا ہے کہ بعض فقهاء نے ایک دوسرا قاعدہ بھی ذکر کیا ہے، جو بظاہر مندرجہ بالا قاعدہ کے معارض معلوم ہوتا ہے، وہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ :

الجواز الشرعي باتفاق الضمان

یعنی کسی فعل کا شرعاً جائز ہونا ضمان کے منافی ہے، یہ ”قاعدہ“ شرح مجلہ الاحکام کے مادہ نمبر ۱۹ میں مذکور ہے۔

اس قاعدے کا ظاہر اس قاعدے کے معارض ہے جس میں مبادر کو ضامن قرار دیا گیا ہے، جبکہ مبادر کے فعل مباح کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قاعدہ کا اجراء ان حقوق مطلقہ پر ہوتا ہے جو سلامتی کے وصف کے ساتھ مقید نہیں ہیں، لیکن وہ حقوق جو سلامتی کی قید کے ساتھ مقید ہیں، مثلاً راستے میں گزرنے کا حق، ایسے حقوق میں صرف اس فعل کافی نفسہ جائز ہونا ضمان واجب ہونے کے منافی نہیں ہے، علامہ شمس الدین سرخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق اس مسئلہ کے تحت بیان فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا ہو، اور اس کے ذریعہ دوسرا کو نقصان پہنچائے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ :

و اذا قعد الرجل في مسجد لحديث، أو نام فيه في

غير صلاة، أو مر فيه فهو ضامن لما أصاب، كما يضمن في الطريق الأعظم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف ومحدث رحمهما الله تعالى: لا ضمان عليه، لأنَّه لو كان مصليناً في هذه البقعة لم يضمن ما يُعْطَ بِهِ، فَكَلَّا لَكَ ماذا كان جالساً في غير الصلاة،
ابْرَيْزَلَةُ الْجَالِسِينَ فِي مَلْكِهِ
 مطلقاً، والماباح المطلق لا يكون سبباً لوجوب الضمان على الحر، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: المسجد معد للصلوة، والفعود والنوم فيه لغير الصلاة مقيد بشرط السلامة وان كان ذلك مباحاً أو مندوبياً اليه . (۱)

اگر کوئی شخص بات چیت کے لئے مسجد میں بیٹھا، یا مسجد میں غیر حالت صلاۃ میں سوکیا، یا مسجد سے گزرا، ایسے شخص سے جونقصان پہنچ گا وہ اس نقصان کا ضامن ہو گا، جیسا کہ کسی بڑے راستے سے گزرنے کی صورت میں پہنچنے والے نقصان کا امام ابو حنيفة رحمه اللہ علیہ قول کے مطابق ضامن آتا ہے، امام ابو يوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اس شخص پر ضامن نہیں آئے گا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہوتا، اور اس دوران اس سے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو اس کا ضامن نہ آتا، اسی طرح اگر وہ غیر صلاۃ کی حالت میں مسجد میں بیٹھا تو اس کا بھی یہی حکم ہو گا، اور وہ شخص ایسا ہے جیسے اپنی ملکیت کی جگہ میں بیٹھا..... لہذا اس کا وہاں بیٹھنا مطلقاً مباح ہو گا، اور مطلق مباح فعل کسی آزاد انسان پر ضامن کے واجب ہونے کا سبب

(۱) مبسوط السرخسى ج: ۲۷ ص: ۴۵ باب ما يحدُث في المسجد والسوق

نہیں بن سکتا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد نماز کے لئے ہائی گنی ہے، لہذا مسجد میں غیر حالت صلاۃ میں بیٹھنا اور سونا سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہو گا..... اگر چہ وہاں بیٹھنا اس کے لئے مندوب اور مباح ہے۔

مباشرت کیا ہے؟

مندرجہ بالا دونقطوں کی وضاحت کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ”مباشر“ کو ضامن بنانے کے لئے کوئی شرط نہیں، مگر یہ کہ مباشر کا وہ فعل محل معصوم میں تحقیق ہوا ہو، چاہے وہ فعل فی نفس مباح ہو، یا ممنوع ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ کی طرف توجیہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس قاعدہ کو مطبق کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مباشر کی ”مباشرۃ“ اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ تحقیق ہوئی ہو۔ لہذا ”مباشرۃ“ کا صحیح مفہوم سمجھنا ضروری ہے، چنانچہ فقہاء کرام نے اس کی مندرجہ ذیل تعریف کی ہے :

حد المباشر ان يحصل التلف بفعله من غير ان يتخلل

بین فعله والتلف فعل المختار . (۱)

مباشر کی تعریف یہ ہے کہ اسکے فعل کے نتیجے میں ہلاکت اس طرح پائی جائے کہ اسکے فعل اور ہلاکت کے درمیان کسی فاعل مختار کا فعل حاصل نہ ہو۔ لہذا کوئی شخص نقصان کا ضامن نہیں ہو گا، مگر اس وقت جب کہ نقصان اور ہلاکت کی نسبت اس شخص کے فعل کی طرف کرنا درست ہو، اور اسکے فعل اور ہلاکت کے درمیان کسی فاعل مختار کا فعل حاصل نہ ہو۔ اگر کسی فاعل مختار کا فعل درمیان میں حاصل ہو گیا تو مباشرۃ تحقیق نہ ہوگی، لہذا مباشر ضامن نہ ہو گا، اور اس معنی کی وضاحت بہت سی

(۱) شرح الاشباه و النظائر للحسنوی ج ۱ ص ۱۹۶ عزرا الى الولوجية

جزئیات میں ہو جاتی ہے، جن کو فقیہاء کرام نے باب الجمایع میں ذکر کیا ہے۔

(۱) علامہ خالد اتناسی رحمۃ اللہ علیہ شرح الجملۃ میں فرماتے ہیں:

وَإِن الدَّاهِبَةَ إِذَا وُطِنَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا، وَهُوَ رَاكِبًا،
يُضْمَنُ وَلُوْفٌ فِي مَلْكَهُ، لَأَنَّ هَذَا مُبَاشِرَةٌ يَضْافُ التَّلْفَ إِلَى
تَسْيِيرِهِ وَعَدْمِ ضَبْطِهِ، إِلَّا إِذَا جَمِحَتْ بِعِيْثٍ لَيْسَ فِي
امْكَانَهُ رَدْهَا . (۱)

یعنی اگر جانور اپنے ہاتھ سے یا اپنے پاؤں سے کسی کورونڈے، اور وہ شخص اس جانور پر سوار ہو، تو وہ سوار ضامن ہو گا، اگرچہ وہ اس کی ملکیت ہو، کیونکہ یہ "مبَاشِرَةٌ" ہے، جس کے نقصان کی نسبت اس جانور کو چلانے اور اس کو قابو میں نہ رکھنے کی طرف کی جائے گی، الایہ کہ وہ جانوبدک جائے کہ اس جانور کو روکنا اس کے امکان اور قدرت میں نہ ہو۔

اس مسئلہ کی اصل علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے "مجموع الضمادات" میں بیان فرمائی ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا :

سَلَلُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيُّ : سَكْرَانُ جَمْعِ بَهْ فَرْسَه
فَاصْطَدَمَ انسَانٌ لِفَمَاتِهِ، أَجَابَ : إِنَّ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى
مَنْعِهِ فَلَيْسَ بِمُسِيرٍ لَهُ، فَلَا يَضْافُ سَيْرَهُ إِلَيْهِ، فَلَا يُضْمَنُ،
قَالَ : وَكَذَا غَيْرُ السَّكْرَانِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَنْعِ . (۲)

(۱) شرح المحلۃ للأناسی ج: ۱ ص: ۲۶۰ مادہ نمبر: ۹۴

(۲) مجموع الضمادات للبغدادی ص: ۱۸۹ باب نمبر: ۲ فصل نمبر: ۵

امام ابوفضل کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نشر کی حالت میں گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کا گھوڑا بدرک گیا، اور کوئی انسان اس گھوڑے سے مگر اکرم رجاء (تو اس کا کیا حکم ہے؟) جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اس گھوڑے کو روکنے پر قادر نہیں تھا، تو وہ شخص اس گھوڑے کو چلانے والا انہیں ہو گا، اور اس گھوڑے کو چلانے کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، لہذا وہ سوار ضامن نہیں ہو گا۔ پھر فرمایا کہ یہی حکم غیر نشر کی حالت والے شخص کا ہے، جب وہ بھی اس جانور کو روکنے پر قادر نہ ہو (یعنی وہ بھی ضامن نہ ہو گا)

فقیہاء حنابلہ میں سے علامہ ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ان غلبت الدابة را کبہا بلا تفريط لم یضمن . (۱)

اگر جانور سوار کی کوتا ہی کے بغیر اس پر غالب آجائے تو سوار پر ضمان نہیں آئے گا، اور علامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ نے "النصاف" ج: ۱ ص: ۳۶ پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جزム ہے فی "الترغیب" و "الوجیز" و "الحاوی الصغیر" یعنی "ترغیب" اور "وجیز" اور "الحاوی الصغیر" میں اس پر جزム کیا ہے، اور حنفیہ میں سے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصابت

فی فورها ذلك للاضمان عليه، لقوله عليه السلام:

"العجماء جبار" أى البهيمة جر حها جبار، لأنه لا صنع له

فی نفارها و انفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها،

فالمتولد منه لا يكون مضموناً . (۲)

(۱) الفروع لابن مفلح ج: ۶ ص: ۶

(۲) بدائع الصنائع للکاسانی ج: ۷ ص: ۲۲۲

یعنی اگر کسی کا جانور بھاگ جائے، اور قابو سے باہر ہو جائے، تو اس حالت میں وہ جانور جو تقصیان کرے گا، اس کا مظاہن مالک پر نہیں آئے گا، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "العجماء جبار" یعنی جانور کا کسی کو زخم پہنچانا معاف ہے، کیونکہ اس جانور کے بد کرنے، اور قبضہ سے نکلنے میں اس شخص کے فعل کو کوئی دخل نہیں ہے، اور جانور کے فعل سے پچنا بھی ممکن نہیں، لہذا جانور کے فعل سے ہونے والا تقصیان مضمون نہیں۔

اس مسئلے میں "فقہ شافعیہ" میں وقول ہیں، جن کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ

نے بیان فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا:

ولو غلبتهمَا الدَّابِتُانَ، فَجُرِيَ الْأَقْتِطَادُمْ وَالرَاكِبَانَ
مَغْلُوبَانَ، فَالْمَدْهُبُ أَنَّ الْمَغْلُوبَ كَفِيرَ الْمَغْلُوبِ كَمَا
سَبَقَ، وَفِي قَوْلِ اُنْكَرِهِ جَمَاعَةُ أَنَّ هَلَاكَهُمَا وَهَلَاكَ
الدَّابِتِينَ هُدُرٌ، إِذَا لَمْ يَصُنِّعْ لَهُمَا وَلَا اخْتِيَارٌ، فَصَارَ
كَالْهَلَاكَ بِآفَةِ سَمَارِيَةٍ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ
غَلَبَتِ الدَّابِتَةُ وَأَكَبَهَا أَوْ سَاقَهَا۔ (۱)

یعنی اگر دو جانور اپنے سواروں پر غالب آ جائیں، اور بے قابو ہو جائیں، اور دونوں میں تصادم ہو جائے، اور سوار مغلوب ہو جائیں، تو مسلک شافعی میں مغلوب کا حکم غیر مغلوب کی طرح ہے، جیسے پہلے گزر چکا۔ ایک دوسرے قول میں ہے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ان دونوں سواروں کی ہلاکت، اور ان

(۱) روضۃ الطالبین للنحوی ج: ۱ ص: ۲۲۱

دونوں جانوروں کی ہلاکت ہر ہے، اسلئے کہ ان دونوں سواروں کا کوئی اختیار اور عمل دخل نہیں تھا، اور ان کی ہلاکت ایسی ہے جیسے آفت سادی سے ہلاک ہوتا، اور اختلاف تو اس صورت میں ہوتا ہے جب جانور اپنے سوار یا پنگانے والے پر غالب آجائے۔
اس جزئیہ میں ہم نے دیکھا کہ جانور جو چیز روندوالے، سوار اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ جانور کے بد کئے اور بے قابو ہو جانے کے نتیجے میں وہ جانور اپنے چلنے پھرنے میں مستقل اور آزاد ہوگا، اور اس صورت میں مباشرۃ کی نسبت راکب کی طرف کرنا ممکن نہیں۔

(۲) اسی طرح فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر سوار کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جانور کو اکسانے (اور اس کے نتیجے میں جانور کوئی نقصان کر دے تو) مٹان اکسانے والے پر آئے گا، راکب پر نہیں آئے گا۔ چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ :

(و من سار على دابة فى الطريق، فضربها رجل أو نسخها، فنفتحت رجلاً أو ضربته بيدها، أو نفرت فصدمته فقتله كان ذلك على الناكس دون الراكب)
هو المروى عن عمر و ابن مسعود رضي الله عنهمَا، و لأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناكس، فاضيف فعل الدابة اليه، كأنه فعله بيده، و لأن الناكس متعدد في تسبيه، والراكب في فعل غير متعدد، فيترجح جانبها في التغريم للتعدي، حتى لو كان واقفاً دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والنافس نصفين،

لأنه متعدد في الإيقاف أيضاً (و ان نفتح الناخص كان
دمه هدر) لأنه بمنزلة الجاني على نفسه ولو
وثبت بنخسه على رجل أو وطنته، فقتله كان ذلك
على الناخص دون الراكب، كما بيناه . (۱)

اگر ایک شخص جانور پر سوار ہو کر راستے سے گزر رہا تھا، کسی دوسرے شخص نے
اس جانور کو بارا، یا اس کو اکسایا، اس کے نتیجے میں وہ جانور کسی شخص کو اپنے کھر سے
مار دے، یا کسی کولات مار دے، یا وہ جانور بدک جائے، اور کسی شخص سے ٹکرا کر اس
کو قتل کر دے تو اس کا تادان اکسانے والے پر ہو گا، سوار پر نہیں ہو گا، حضرت عمر اور
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی مروی ہے، اسلئے کہ جانور اور
سوار دونوں اس اکسانے والے کے اکسانے کے نتیجے میں اپنی جگہ سے ہٹائے
گئے، لہذا اس جانور کے فعل کو اکسانے والے کی طرف منسوب کیا جائیگا، گویا کہ اسی
اکسانے والے نے ہی اپنے ہاتھ سے یہ نقصان کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اکسانے
والا اس فعل کے سبب بننے میں متعدد ہے، اور وہ سوار اپنے فعل میں غیر متعدد ہے،
لہذا متعدد کی وجہ سے تادان واجب کرنے میں اکسانے والے کی جانب کوتیریج دی
جائیگی۔ البتہ اگر اس سوار نے جانور کو راستے میں کھڑا کیا ہوا ہوتا (اور پھر اکسانے
والے نے اسکو اکسایا) تو راکب اور اکسانے والے دونوں پر نصف نصف مثان
آتا، اسلئے کہ راستے میں جانور کو کھڑا کرنے کے نتیجے میں وہ سوار بھی متعدد ہے
(اور اگر وہ جانور اس اکسانے والے ہی کو روندے تو اس کا خون ہدر ہے) اسلئے کہ
اس صورت میں وہ اکسانے والا خود اپنے نفس کے خلاف جنایت کرنے والا

شمار ہو گا۔ اگر اس شخص کے اکسانے کے نتیجے میں وہ جانور کسی شخص پر کو دپڑے، یا کسی کوروندے، اور اس کو ہلاک کر دے تو اکسانے والے پر خشان آئے گا، سوار پر نہیں آئے گا۔

اس بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے،

جسے امام عبدال Razاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں بیان کیا ہے، چنانچہ فرمایا :

اقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقت

على دابة، فنخس الرجل الدابة، فرفعت رجلها، فلم

تحطى على الجارية، فرفع الى سلمان بن ربيعة الباھلي،

فضم من الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال: على

الرجل، انما يضمن الناحس . (۱)

یعنی ایک شخص قادر ہے ایک باندی لے کر آیا، راستے میں وہ ایک سوار کے پاس سے گزرا، جو ایک جانور کے اوپر سوار تھا، کسی شخص نے اس جانور کو اکسادا یا اس جانور نے اپنے پاؤں اٹھائے، اور سیدھے اس باندی پر اس کے پاؤں پڑے (اور وہ باندی ہلاک ہو گئی) باندی کا مالک اپنا تقسیہ سلمان بن ربیعہ کے پاس لے گیا، انہوں نے سوار کو ضامن ثہرا یا، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کی خبر پہنچتھا آپ نے فرمایا کہ اس شخص پر لازم تھا کہ وہ اکسانے والے کو ضامن بنائے۔

مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں اس کی تخریج کی ہے، اسی

طرح امام شریع اور امام شعی نے اس کی تجزیہ کی ہے، جیسا کہ نصب الرایل للویلی عی میں ہے، اور شوافع کے نزدیک بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے، جیسا کہ مفہی المحتاج میں ہے۔ (۱) بہر حال! اس مسئلہ میں بھی راکب کو ضامن قرار نہیں دیا گیا، اس لئے کہ جانور نے جو عمل کیا، اس کی نسبت راکب کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اتنا لف کی مباشرت کا تحقق راکب کی طرف سے نہیں ہوا۔

علامہ بندرادی رحمۃ اللہ علیہ "مجمع الضمانات" میں فرماتے ہیں :

جاء راعی أحمره بها ليعبرها - أى النهر - وجاء من جانب آخر صبي غير بالغ مع العجلة، فقال له الراعي : أمسك الشور مع العجلة حتى تمر الأحمرة، فلم يمكنه امساكه، فمضى وقع الحمار في النهر لم يضمن، و كلما جاء الراعي اذا لم يمكنه امساك الحمار، و الا يضمن . (۲)

گدوں کا ایک چوہا گدوں کو نہر پار کرنے کے لئے (نہر کے پل کے اوپر) لا یا، دوسری طرف سے ایک نابالغ بچہ ایک بیل گاڑی لے کر آگیا، چوہا ہے نے بچے سے کہا کہ ذرا بیل گاڑی کو روک لے، تاکہ گدھے راستے سے گز رجائیں، لیکن بچے کے لئے روکنا ممکن نہ ہوا، چنانچہ وہ بیل گاڑی پل کے اوپر آگئی، اور اس کی وجہ سے ایک گدھ نہر میں گر گیا تو وہ بچہ ضامن نہ ہو گا، اسی طرح چوہا بھی ضامن نہ ہو گا، اگر چوہا ہے کے لئے ان گدوں کو روکنا ممکن نہیں تھا، ورنہ (اگر

(۱) نصب الرایل ج: ۴ ص: ۳۸۹، ۳۸۸ و مفہی المحتاج ج: ۴ ص: ۲۰۴

(۲) مجمع الضمانات للبندرادی ص: ۱۴۸

روکنا ممکن تھا، پھر بھی نہیں روکا) ضامن ہو گا۔

یہاں بھی بچے کی بیل گاڑی کے نتیجے میں جو گدھ انہر میں گر گیا، وہ بچہ اس کا ضامن نہیں ہوا، اس لئے کہ باوجود یہ وہ بچہ اس بیل گاڑی پر سوار تھا، گدھ کو انہر میں گرانے کی نسبت بچے کی طرف کرنا درست نہیں، لہذا "مباشرۃ" تحقیق نہ ہوئی۔

(۲) اسی طرح فتحاء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر وہ جانور جس پر راکب سوار تھا، مرنے کی حالت میں گر جائے، اور اس کے گرنے کے نتیجے میں کوئی انسان ہلاک ہو جائے، یا کوئی چیز تلف ہو جائے، تو راکب پر ضمان نہیں آئے گا، علامہ شریفی خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لو سقطت الدابة میتة، فتلف بها شیء ، لم يضمنه، وكذا
لو سقط هو ميتا على شیء و أتلفه ، لا ضمان عليه ، فقال
الزرکشی : وينبغی أن يلحق بسقوطها میتة سقوطها
بمرض أو عارض ریح شدید و نحوه . (۱)

یعنی اگر کوئی جانور مرنے کی حالت میں گرے، اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز تلف ہو جائے، تو اس کا ضمان سوار پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر سوار مرنے کی حالت میں کسی پر گر جائے، اور اسے ہلاک کر دے تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ مرنے کی حالت میں گرنے کے مسئلے کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ملا لیا جائے کہ اگر وہ شخص کسی پیاری کی وجہ سے، یا شدید تیز ہوا کی وجہ سے گر جائے (تو بھی ضمان نہیں آئے گا)

مندرجہ بالا صورت میں راکب اس لئے خاص نہیں ہو گا کہ خود اس کی موت واقع ہونے میں اس کے اختیار اور اس کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہے، لہذا اس راکب سے ہلاک کرنے کی "مباشرۃ" متعلق نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر راکب کا سقط کسی آفت سادی، مثلاً بیماری کی وجہ سے، یا تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہوا (تو اس میں بھی راکب کے اختیار اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہے) جیسا کہ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

(۵) اسی طرح فقہاء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر دو کشتیاں آپس میں مکرا جائیں، تو ان دونوں کا مکرانا اتا دوساروں کے مکرانے کے ماندہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک پر دوسرے کا ضمان آئے گا۔ لیکن علامہ شریف بن الخطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

محل هذا التفصیل اذا كان الاصطدام بفعلهما، أو لم يكن و قصرا فى الضبط، أو سيرا فى ریح شديد، فان حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الا ظهر، بخلاف غلبة الدابة - أى على أحد قولى الشافعية - فان الضبط ثم ممکن باللجم و نحوه و ان تعمد أحدهما او فرط دون الآخر فلكل حکمه . (۱)

یعنی مندرجہ بالامثلہ کی تفصیل اس صورت میں ہے جب یہ مکرا اداں دونوں کے اپنے فعل کی وجہ سے ہو، یا اپنے فعل کی وجہ سے تو نہ ہو، لیکن دونوں نے تابو

کرنے میں کوتایہ کی ہو، یا تیز ہوا کے اندر ان دونوں نے اپنی کشتیاں چلائی ہوں۔ لہذا اگر ہوا کے غلبے کی وجہ سے آپس میں ٹکراؤ ہو تو اظہر قول کے مطابق ان پر ضمان نہیں آئے گا۔ بخلاف جانور کے غالب آجائے کے، شافعیہ کے ایک قول کے مطابق۔ اس لئے کہ جانور کو لگام وغیرہ سے قابو کرنا ممکن ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے ٹکرانے کا تصدیکیا ہو، یا ایک نے زیادتی کی ہو، جبکہ دوسرا نے زیادتی نہ کی ہو تو ہر ایک پر اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔

یہ مسئلہ کتاب الام میں اور روضۃ الطالبین میں، اور تحفۃ الحجاج میں بھی مذکور ہے۔ اور علامہ مردو اوی رحمۃ اللہ علیہ نے "الانصاف" میں فرمایا:

وَإِنْ أَصْطَدْمَتْ سَفِيْتَانْ فَقُرْقَتَا، ضَمْنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَفِيْنَةَ الْآخِرِ وَمَا فِيهَا، هَكُلَا أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِنَ الاصْحَابِ، قَالَ الْمُصْنَفُ وَغَيْرُهُ: مَحْلُهُ إِذَا فَرَطَ، قَالَ الْحَارِثِيُّ: إِنْ فَرَطَ ضَمْنَ كُلَّ وَاحِدٍ سَفِيْنَةَ الْآخِرِ وَمَا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَفْرَطْ فَلَا ضَمْنَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا..... وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَحْدُورَةً، فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمْنَ الْمَصْعُدَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلْبَةُ رِيحٍ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَيْبِهَا..... وَقَالَ فِي الْمَغْنِيِّ: إِنْ فَرَطَ الْمَصْعُدَ، بَانَ أَمْكَنَهُ الْعُدُولُ بِسَفِيْتَهُ، وَالْمُنْحَدِرُ غَيْرُ قَادِرٍ وَلَا مُفْرَطٌ، فَالضَّمْنَ عَلَى الْمَصْعُدَ، لِأَنَّهُ الْمُفْرَطُ . (۱)

یعنی اگر دو کشتیاں آپس میں ٹکراؤ جائیں، اور دونوں عرق ہو جائیں، تو ہر کش

(۱) الانصاف للمردوی ج: ۶ ص: ۲۴۴، و کتاب الغضب، و راجح لبعض "الشرح الكبير" لابن قدمۃ مع المغنی ج: ۵ ص: ۴۵۶، کتاب الام ج: ۶ ص: ۸۶، و روضۃ الطالبین ج: ۹ ص: ۲۳۶، و تحفة السخاج ج: ۹ ص: ۲۲.

والا دوسرے کی کشتو اور کشتی میں جو سامان ہوگا، اس کا ضامن ہوگا۔ بہت سے فقہاء نے اسی طرح مطلق حکم بیان کیا ہے، مصنف وغیرہ نے فرمایا کہ یہ حکم کوتا ہی کی صورت میں ہے، علامہ حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوتا ہی کی ہے تو ہر ایک کشتی والا دوسرے کی کشتی اور اس کے اندر جو مال تھا، اس کا ضامن ہوگا، اور اگر کوتا ہی نہیں کی تو دونوں میں سے کسی پر بھی ضمان نہیں آئے گا۔ اور اگر ایک کشتی دوسری کشتی کے نیچے گھسنے والی ہو تو نیچے گھسنے والی کشتی کے مالک پر اوپر والی کشتی کا ضمان آئے گا، الایہ کہ ہوا غالب آنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، اور وہ کشتی والا اپنی کشتی کو قابو میں رکھنے پر قادر نہ ہو (اس صورت میں ضمان نہیں آئے گا)..... "المغنى"

میں فرمایا کہ اگر اوپر والی کشتی کے چلانے والے نے کوتا ہی کی ہو کہ اس کے لئے اپنی کشتی کو اس جگہ سے ہٹانا ممکن تھا (لیکن اس نے نہیں ہٹائی) اور نیچے والی کشتی کو چلانے والا اپنی کشتی کو ہٹانے پر قادر نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی کوتا ہی کی تو اس صورت میں ضمان اوپر والی کشتی کے چلانے والے پر ہوگا، اس لئے کہ وہی کوتا ہی کرنے والا ہے۔

مالکیہ کے نزدیک اس مسئلہ کا خلاصہ وہ ہے جو علامہ حطاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، چنانچہ فرمایا:

قال أبو الحسن : مسألة السفينة والفرس على ثلاثة أوجه: إن علمَ أن ذلكَ مِنْ الرِّيحِ فِي السُّفِينَةِ، وَ فِي الْفَرْسِ مِنْ غَيْرِ رَاكِبٍ، فَهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، أَوْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سَبْبِ النَّوَافِيَةِ فِي السُّفِينَةِ، وَ مِنْ سَبْبِ

الراكب في الفرس، فلا إشكال أنهم ضامنون، وإن
أشكل الأمر حمل في السفينة على أن ذلك من الربح
وفي الفرس أنه من سبب راكيه . (۱)

ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کشتی اور گھوڑے کا مسئلہ تین صورتوں پر
مشتمل ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ کشتیوں میں
تصادم ہوا کی وجہ سے، اور گھوڑے کا تصادم راکب کے فعل کے علاوہ کسی اور وجہ
سے ہوا ہے تو اس صورت میں کسی پر بھی خہان نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ ہے
کہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ کشتی کا تصادم ملاحوں کی وجہ سے، گھوڑے کا تصادم
راکب کی وجہ سے ہوا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ سب ضامن
ہوں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے (اور کسی وجہ کے بارے
میں یقینی علم نہ ہو) تو کشتی والے مسئلے میں تصادم کو ہوا کے چلنے پر محول نہیں کیا جائے
گا، اور گھوڑے والے مسئلے میں کہا جائے گا کہ وہ راکب کے سبب سے ہوا ہے۔

لہذا فقهاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کشتی کے ملاح نے کشتی کے روکنے میں
کوئی کوتا ہی نہیں کی تو کشتی کے تصادم کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، اس نقصان کا
ضمان ملاح پر نہیں آئے گا، اس لئے کہ باد بانی کشتی کمکمل طور پر ملاح کے اختیار میں
نہیں ہوتی، بلکہ اس کے چلنے میں ہوا کا بڑا دھل ہوتا ہے، لہذا اگر ہوا غالب آجائے
تو اس صورت میں نقصان کی نسبت ملاح کی نظر نہیں کی جائے گی، لہذا ملاح سے
”مبادرہ“، تحقیق نہیں ہوئی۔

مندرجہ بالا فقہی نصوص ”مباشرۃ“ کے پائے جانے کے بارے میں فقہاء کرام کی انتہائی گھری نظر پر دلالت کرتی ہے، اور ”مباشرۃ“ کے پائے جانے کے بارے میں یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور گاڑیوں وغیرہ کے حادثات کے بے شمار مسائل میں عنقریب اس کا فائدہ سامنے آجائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

﴿تیسری قاعدہ﴾

مسبب ضامن ہوگا اگر وہ متعدد ہو

یہ قاعدہ علامہ بندرادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجموعہ الضمانات“ میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ ”المسبب لا یضمن الا ان یتعد“ (۱) یعنی مسبب ضامن نہیں ہوگا، الیہ کہ وہ تعدد کرے، اور ”تبیین الحقائق“ سے امام زیلیع رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت قاعدہ ثانیہ پر کلام کرتے ہوئے ہم بیان کرچکے ہیں۔

”مسبب“ کی تعریف علامہ جموی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ :
حد المسبب هو الذى حصل التلف بفعله، و تخلل بين فعله و التلف فعل مختار۔ (۲)

”مسبب“ کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس کے فعل سے نقصان ہوا ہو، اور نقصان اور اس کے فعل کے درمیان کسی فاعل مختار کا فعل حائل ہو۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کنوں کھودا، اور ایک شخص اس کنوں

(۱) مجموع الضمانات ص: ۱۶۵

(۲) شرح الاشباء و النظائر ج: ۱ ص: ۱۹۶

میں گر گیا، تو اس مثال میں کنوں کھونے والا اس شخص کے گرنے کا "سبب" ہے، لہذا اگر اس شخص نے کنوں کھونے میں تعدی کی ہے تو وہ ضامن ہو گا، اور اگر اس نے تعدی نہیں کی، تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔

"مجلة الاحکام العدلية" میں اس قاعدے کی تعبیر میں تابع ہوا ہے، وہ اس طرح کہ مادہ نمبر ۹۳ میں یہ قاعدة ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ "المسبب لا يضمن الا بالتعمد" یعنی مسبب ضامن نہیں ہو گا، الایہ کہ وہ تعتمد یعنی قصد و ارادہ کرے۔ حالانکہ یہ بات جمہور فقهاء کے بیان کردہ قاعدے کے خلاف ہے، اس لئے کہ نقصان پہنچانے کا قصد و ارادہ "سبب" کو ضامن ہنانے کے لئے شرط نہیں۔ اسی لئے اگر کسی شخص نے دوسرا کی ملکیت کی زمین میں کنوں کھودا، اور اس کنوں میں کوئی شخص گر گیا، تو اس صورت میں کنوں کھونے والا ضامن ہو گا۔ اگرچہ اس نے اس نیت سے نہ کھودا ہو کہ اس میں کوئی آکر گرے۔ لہذا اس قاعدے کی صحیح عبارت وہ ہے جو ہم نے بیان کی کہ "المسبب لا يضمن الا بالتعدى" اگرچہ اس شخص کا نقصان اور تعدی کا ارادہ نہ ہو۔

"مجلة الاحکام العدلية" میں تعبیر کی اس فلسفی پر فضیلۃ الشیخ مصطفیٰ زرقام حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (۱) میں توجہ دلائی، اور فرمایا کہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ "المسبب لا يضمن الا بالتعدى" اور یہ تعبیر تمام کتب فقہیہ کے موافق ہے۔ اور قاعدة ثانیہ پر کلام کرتے ہوئے میں نے بیان کیا تھا کہ شیخ موصوف حفظہ اللہ

(۱) راجع المدخل الفقہی العام ف: ۶۵۸ و الفصل الضار و الضمان فيه ص: ۷۷ - ۷۸

تعالیٰ نے "تعدی" کے دو معانی کے درمیان بہت باریک فرق کیا ہے، اور "مباشرہ" کے موضوع پر ان کا کلام ایسا ہمہ ہے، جس نے بہت سے اشکالات دور کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزاً خیر عطا فرمائے، آمین۔ لیکن "تبہب" کے موضوع پر انہوں نے جو بیان کیا ہے، اس پر مجھے ایک بنیادی اشکال ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موصوف مدظلہم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ "تعدی" جو مسبب کو ضامن بنانے کے لئے شرط ہے، بعینہ یہ وہی "تعدی" ہے جو "مباشرہ" کو ضامن بنانے کے لئے شرط ہے، وہ تعدی کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کی ملکیت کی طرف، یا دوسرے شخص کے حق کی طرف تجاوز کر جانا، چاہے وہ تجاوز ایسے فعل کے ذریعہ ہو، جوئی نفسہ مباح ہو، یا ایسے فعل کے ذریعہ نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ شیخ موصوف مدظلہم نے جو بات بیان کی ہے، اس کے نتیجے میں "مسبب" اور "مباشرہ" کے درمیان فرق باقی نہیں رہتا، جبکہ تمام فقهاء نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ "مباشرہ" ضامن ہوگا، اگرچہ وہ تعدی نہ کرے، اور "مسبب" ضامن نہیں ہوگا، الایہ کہ وہ تعدی کرے۔ لہذا صحیح بات جو فقہاء کرام کے کلام سے تبادر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ "تعدی" جو "مسبب" کو ضامن بنانے کے لئے شرط ہے، وہ تعدی بالمعنى الثانی ہے، اور معنی الثانی یہ ہیں کہ جو فعل ضرر کا سبب ہتا ہے، وہ فعل فی نفسه منوع ہو۔ اور اس معنی کے اعتبار سے تعدی "مباشرہ" کو ضامن بنانے کے لئے شرط نہیں۔

﴿چو تھا قاعدہ﴾

اگر کسی فعل میں "مباشرہ" اور "مسبب" دونوں جمع ہو جائیں تو جنم کی نسبت

”مباشر“ کی طرف کی جائے گی۔

یہ قاعدة علامہ ابن حبیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاشباء والنظراء“ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے (۱) اور ”محلہ الاحکام العدلیة“ مادہ نمبر: ۹۰ میں اشباء ہی سے یہ قاعدة لیا گیا ہے۔ پھر علامہ ابن حبیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدة کی شرح ان الفاظ سے کی ہے۔

فلا ضمان على حافر البشر تعديا بما اتلق بالقاء غيره
یعنی کنوں کھوئے والے پر تحدی کرنے کی وجہ سے اس چیز کا ضمان نہیں جو
چیز کسی دوسرے شخص نے اس کنوں میں ڈال کر تلف کر دی ہو۔

اس مثال میں کنوں کھوئے والا ”سبب“ ہے، اور جس شخص نے وہ چیز کنوں
میں ڈالی، وہ ”مباشر“ ہے، لہذا ”مباشر“ ”سبب“ پر مقدم ہو گا، اور اس چیز کو ہلاک
کرنے کی اضافت ”مباشر“ کی طرف کی جائے گی، اور وہی ضامن ہو گا۔

لیکن اس قاعدے کے بہت سے مستثنیات ہیں، اور ہمارے موضوع سے
متعلق مستثنیات کا نچوڑ ہم دونوں میں بیان کریں گے۔

پہلا نقطہ :

پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر ”سبب“ کی تاثیر ”مباشر“ کی تاثیر سے زیادہ قوی ہو تو
حکم کی نسبت ”سبب“ کی طرف کی جائے گی۔ یہ قاعدة کتب فقہ میں ان الفاظ کے
ساتھ ذکر نہیں ہے، لیکن چوتھے قاعدے کے مستثنیات میں فقهاء کرام نے جو متعدد

(۱) الاشباء والنظراء ج: ۱ ص: ۲۹۶ قاعدة نمبر: ۱۹

جزئیات بیان کئے ہیں، یہ قاعدہ ان کا خلاصہ اور نجوڑ ہے۔ چنانچہ علامہ علی حیدر رحمۃ اللہ علیہ "محلہ" کی شرح میں فرماتے ہیں :

"اما اذا كان السب مما يفضي مباشرة الى التلف، فيترتب الحكم على المسبب،مثال ذلك لو تماسك شخصان، فامسک بلباس الآخر، فسقط منه شيء، كمساعة مثلاً، فكسرت، فيترتب الضمان على الشخص الذى أمسك بلباس الرجل، رغمما من كونه متسبباً، والرجل الذى سقطت منه المساعة مباشرة، لأن السبب هنا قد أفضى الى التلف مباشرة، دون ان يتوسط بينهما فعل قاعل آخر" (۱)

یعنی اگر "سب" ایسا ہو جو کسی چیز کی ہلاکت کی طرف "مباشرہ" مفہوم ہو جائے تو اس صورت میں حکم کا ترتیب متسبب پر ہوا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دو شخص آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، اور ایک شخص دوسرے کو کپڑے سے پکڑ لے، جس کے نتیجے میں کوئی چیز مثلاً گھٹری گر کر ثوٹ جائے، تو اس صورت میں ضمان اس شخص پر آیا گا جس نے کپڑے سے پکڑا تھا، باوجود یہ کہ وہ شخص "متسبب" ہے، اور جس شخص کی گھٹری گری وہ "مباشرہ" ہے، لیکن اس مثال میں "سب" ہلاکت تک مباشرہ مفہوم ہو گیا، اس کے بغیر کسی تیرے شخص کا فعل ان کے درمیان حائل ہو۔ اس سے زیادہ واضح مثال وہ ہے جو فقیہاء حنفیہ نے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کسی کے قتل پر اکراہ ملکیتی کے ساتھ مجور کیا، تو اس صورت میں

(۱) درر الحکام علی حیدر ج: ۱ ص: ۸۱

قصاص "مکرہ" پر آئے گا، "مکرہ" پر نہیں آئے گا، چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

فاما المکرہ علی القتل فان کان الا کراہ تاما فلا قصاص
علیہ عند ابی حنیفة و محمد رحمہمَا اللہ تعالیٰ، ولكن
یعزر، و یجب علی المکرہ . (۱)

یعنی جس شخص کو قتل کرنے پر مجبور کیا گیا، اگر اکراہ تام تھا تو اس صورت میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک "مکرہ" پر قصاص نہیں آئے گا، البتہ اس کو تحریر دی جائے گی، اور "مکرہ" پر قصاص واجب ہو گا۔

اس مثال میں بظاہر "مکرہ" اسی قتل کا "مبادر" ہے، اور "مکرہ" کی اس میں کوئی حیثیت نہیں، سو اس کے کار کو "سبب" قرار دیا جائے، لیکن ممان "سبب" پر آرہا ہے، "مبادر" پر نہیں آرہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مثال میں "سبب" کے فعل کی تاثیر "مبادر" کے فعل کی تاثیر سے زیادہ تو ہے، اس لئے کہ وہ "مکرہ" کی تو "مکرہ" کے ہاتھ میں ایک آل کی حیثیت ہو چکی تھی۔

اسی طرح ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایسے جانور کا اکسایا جس پر کوئی سوار تھا، اور اس کے نتیجے میں اس جانور نے کسی کو رومنڈا لा، تو ممان اکسانے والے پر آئے گا، سوار پر نہیں آئے گا۔ باوجود یہ کہ اکسانے والا "سبب" ہے، اور سوار بظاہر "مبادر" ہے، لیکن اکسانے والے کی تاثیر قتل کرنے میں راکب کی تاثیر کے مقابلے میں زیادہ تو ہے، اسی لئے ممان واجب کرنے میں "سبب"

کو "مباشر" پر مقدم کیا گیا۔

مندرجہ بالا جزئیات بظاہر چوتھے قاعدے سے خارج نظر آرہے ہیں، لیکن سابق میں قاعدة ثانیہ کے تحت "مباشرة" کی جو تفسیر ہم نے میان کی ہے، اور یہ کہ "مباشرة" کا اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ پایا جانا تعددی کے بغیر بھی ممان واجب ہونے کے لئے شرط ہے، اگر ہم ان دونوں باتوں میں غور کریں تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ مندرجہ بالا تینوں مثالوں میں جس شخص پر لفظ "مباشر" بولا گیا ہے، وہ حقیقت میں "مباشر" ہی نہیں ہے کہ معقول وجہ کے ساتھ اس کی طرف اخلاف کی نسبت کرنا درست ہو، اس جہت سے ہلاک کرنے کا خان اس پر نہیں ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ یہاں "سبب" کو "مباشر" پر مقدم کیا گیا ہے۔

چنانچہ دوسرے شخص کے کپڑے پکڑنے سے جس شخص کی گھڑی گر کر ٹوٹ گئی اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ گھڑی کے گرانے میں وہ "مباشر" ہے، اس لئے کہ "مباشرة" کسی عمل کے پائے جانے کا تقاضہ کرتی ہے، اور اس شخص نے کوئی عمل نہیں کیا، لہذا کپڑے پکڑنے والا شخص بغیر کسی مراحم کے گھڑی گرانے کا سبب بن گیا، اور چونکہ یہ کپڑے پکڑنے والا شخص کپڑے پکڑنے میں "متعددی" بھی ہے، اس لئے وہ خان سے بری نہیں ہو گا۔ اسی طرح دوسری مثال میں "مکرہ" اگر چہ قتل کے لئے مباشر ہے، لیکن چونکہ وہ "مکرہ" کی طرف سے اکراه کی وجہ سے مجبور ہونے کے حکم میں ہے، اور وہ "مکرہ" کے ہاتھ میں آلہ شخص ہے، اس لئے خان واجب کرنے میں اس کی مباشرۃ معتبر نہیں ہو گی۔

اسی طرح اکسانے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ جانور کے

بد کئے کا سبب تھا، جس نے جانور کو راکب کی قدرت سے نکال دیا تھا، وہ ”راکب“ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کا کوئی فعل اور اختیار ہی نہیں، لہذا اس ”راکب“ کو مباشر کہنا درست نہیں، اب سبب کسی مزاحم کے بغیر رہ گیا، لہذا ہلاکت کی نسبت سبب کی طرف کی جائے گی، اور وہ ضامن ہو گا۔

پھر میں نے اس موضوع پر ایک نقش بحث علامہ خالد اتاسی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی جو اسی بات کی تائید کرتی ہے جو بات ہم نے کہی، ہم انہی کے الفاظ میں یہ بحث یہاں ذکر کر دیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ :

ال مباشر هو الذي حصل التلف مثلاً بفعله بلا واسطة،
فكان هو صاحب العلة يضاف اليه التلف، و المتسبب
ما حصل التلف لا ب مباشرته و فعله، بل بواسطة هي
العلة، لحصول المعلوم، وهي فعل فاعل مختار، و أما
فعله فلا تأثير له سوى أنه مفض اليه، فان اجتمعا فكما
صرحت المادة يضاف الحكم الى المباشر ، لأنه
صاحب العلة، وهي أقوى

اعلم أنه متى كان المتوسط بين السبب والمعلوم صالحًا لاضافة المعلوم اليه، يكون السبب حينئذ سبباً حقيقياً - أي محضًا - بمعنى أنه لا مزية له سوى الاضفاء إلى حصوله، و عرفوه بأنه ماتوسط بينه وبين الحكم علة، وذلك المتوسط هو العلة، وهذا هو المبحث عنه في القاعدة، ومتى كان المتوسط غير صالح لذلك، فالحكم يضاف إلى السبب، ويكون حينئذ في

معنى العلة، و معرفة هذا الضابط ينفعك في كثير من الواقع.

و صور اجتماعية ما ذكر في المادة: فان ملقي الحيوان مباشر تلفه بالذات، و حافر البتر متسبب، لأن حفريه أفضى إلى التلف، فالضمان على المباشر

و اذا انفرد السبب - وذلك فيما لو كان الحال المتوسط بينه وبين الحكم - اعني المعلول - غير صالح لاضافة الحكم اليه - يكون المتسبب ضامناً - كسوق الدابة، فإنه غير موضوع للتلف، ولا هو مؤثر فيه، بل طريق للوصول اليه، والعلة للتلف المتوسط بينه وبين السوق، وهو وطء الدابة انساناً او مالاً بقوتها و ثقلها، ولكن لما لم يكن هذا المتوسط فعل فاعل مختار اضيف الحكم الى السبب، وهو السوق الواقع من السائق، فكانه دافع للدابة على ما وطنت عليه، في ضمنه لأنه سبب فيه معنى العلة . (١)

يعني "مباشر" وہ ہے جس کے فعل سے بلا واسطہ نقصان پہنچ، لہذا وہ "مباشر" صاحب "العلة" ہوتا ہے جس کی طرف ہلاکت کی نسبت کی جاتی ہے، اور "سبب" وہ ہے کہ اس کی مباشرت اور اس کے فعل کی وجہ سے نقصان نہ ہوا ہو، بلکہ اس واسطے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے جو "علت" ہے، تاکہ معلول حاصل ہو جائے، اور وہ "علت" کسی با اختیار فاعل کا فعل ہوتا ہے، اور سبب کے فعل کی اس کے علاوہ کوئی

تاشیر نہیں ہوتی کہ وہ اس نقصان تک پہنچانے والا ہوتا ہے، لہذا اگر مباشر اور سبب دونوں جمع ہو جائیں تو جیسا کہ مادہ میں اس کی صراحت کی ہے کہ حکم کی نسبت مباشر کی طرف کی جائے گی، کیونکہ مباشر ہی صاحب الحلة ہے، اور وہ زیادہ قوی ہے۔
 جان لیں! کہ جب سبب اور معلول کے درمیان کوئی درمیانی واسطہ معلول کو سبب تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس صورت میں ”سبب“ سبب بحض بن کر رہ جائے گا، اس معنی میں کہ معلول کے حصول تک پہنچانے کے علاوہ کوئی اضافی حیثیت اس کے اندر نہیں رہے گی، اور فقهاء کرام نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ سبب اور حکم کے درمیان جو علت واسطہ بنے، وہ درمیانی چیز ہی علت ہے، اور قاعدہ مذکورہ میں اسی علت سے بحث کی گئی ہے، اور جب یہ درمیانی چیز میں سبب کو حکم تک لے جانے کی صلاحیت نہ ہو، تو اس وقت حکم کی نسبت سبب کی طرف کی جائے گی، اور اس وقت وہ ”سبب“ علت کے معنی میں ہو گا، اور اس قاعدے اور ضابطے کا علم آپ کو بے شمار و اعماق میں فائدہ دے گا۔

سبب اور علت کے ایک ساتھ جمع ہونے کی صورت وہ ہے جو مادہ میں بیان کی ہے کہ جانور کو کنوں میں پھینکنے والا ”مباشر“ ہے، اس لئے کہ اس نے جانور کو بالذات برآہ راست تلف کیا ہے، اور کنوں کھونے والا ”سبب“ ہے، اس لئے کہ اس کے کنوں کھونے نے اس جانور کو ہلاکت تک پہنچایا، لہذا اس صورت میں ”مباشر“ پر ضمان آئے گا۔

اور اگر کسی جگہ صرف ”سبب“ تہا پایا جائے، اور یہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں سبب اور حکم یعنی معلول کے درمیان کوئی ایسا واسطہ حاصل ہو کہ اس حکم کی نسبت اس

واسطہ کی طرف کرنا درست نہ ہو، اس صورت میں وہ سبب ہی علت موثرہ کے معنی میں ہو گا، اور حکم کی اضافت اسی سبب کی طرف کی جائے گی، اور سبب ضامن ہو گا۔ جیسے جانور کو ہائکنا، اب جانور کو ہائکنا ایسا فعل ہے جو کسی چیز کی ہلاکت کے لئے وضع نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ فعل ہلاکت میں موثر ہے، بلکہ ہلاکت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ہلاکت کی علت وہ ہے جو ہائکنے اور ہلاکت کے درمیان وائر ہے، وہ ہے جانور کا کسی انسان کو یا مال کو اپنے پیروں سے یا اپنے بوجھ سے روند ڈالنا، لیکن یہ درمیانی واسطہ کسی قابل مختار کا فعل نہیں (بلکہ جانور کا فعل ہے) اس لئے حکم کی اضافت یہاں "سبب" کی طرف کی جائے گی، وہ "سبب" ہائکنے والے کا جانور کو ہائکنا ہے، گویا کہ یہی سبب جانور کو روند نے کی طرف لے جانے والا ہے، لہذا "سبب" ضامن ہو گا، اس لئے کہ یہ ایسا "سبب" ہے جس میں علت کے معنی پائے جاری ہے ہیں۔

دوسرانقطہ :

دوسرانقطہ یہ ہے کہ جب کسی واقعہ میں "سبب" تعددی کرنے والا ہو، اور "مبادر" تعددی کرنے والا نہ ہو۔ یہ صورت "قادہ رابعہ" کے مستثنیات میں سے ہے، جس کو بعض فقہاء نے یہاں بیان کیا ہے، وہ یہ کہ "سبب" اپنے فعل میں متعددی ہو، اور "مبادر" اپنے فعل میں غیر متعددی ہو، اس صورت میں "حکم" کی نسبت "سبب متعددی" کی طرف کی جائے گی۔ صاحب ہدایہ نے یہ قاعدہ اس مسئلے کے تحت ذکر کیا ہے، جس میں کوئی شخص کسی جانور کو اکسائے، جس کے نتیجے

میں وہ جانور کسی کو مار دا لے تو اس صورت میں ضمان "ناخس" پر آئے گا؛ "راکب" پر نہیں آئے گا۔ اس کی پوری عبارت ہم نے قاعدہ ثانیہ کے تحت ذکر کر دی تھی، اور اس عبارت میں یہ تھا کہ :

و لأن الناخص متعدد في تسببيه، والراكب في فعله غير

متعدد، فيترجح جانبہ في التغريم للتعدي . (۱)

چونکہ "ناخس" جانور کو نقصان کا سبب بنانے میں تعددی کرنے والا ہے، اور راکب اپنے فعل میں غیر متعدد ہے، اس لئے تعددی کی وجہ سے ضمان واجب کرنے میں ناخس کے جانب کو ترجیح دی جائے گی۔

صاحب "ثانیہ" نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس مسئلہ میں "مبادر" کا غیر متعدد ہوتا اس کو "ضمان" سے بری نہیں کر سکتا، لہذا صاحب ہدایت کی بیان کردہ یہ علت اس مسئلہ میں درست نہیں جس میں وہ جانور کسی کو رومند دا لے۔ لیکن اس اعتراض کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ کہ "مبادر" ضامن ہو گا، اگرچہ وہ متعدد ہے، اس قاعدہ پر اس جگہ عمل کیا جائے گا جہاں اس کے ہلاک کرنے میں صرف ایک سبب "مبادر" کی مبادرت ہی ہو۔ لیکن جہاں کوئی دوسرا سبب بھی ہو، اور وہ دوسرا "سبب" سبب بننے میں متعدد بھی ہو، اور "مبادر" اپنے فعل میں غیر متعدد ہو تو اس صورت میں "مسبب" کو مبادر پر مقدم کیا جائے گا۔ ہاں! اگر کسی واقعہ میں "مسبب" اور "مبادر" دونوں متعدد ہوں، تو اس جگہ "مبادر" کو "مسبب" پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائید ایک دوسرے مسئلے سے

(۱) المهدیۃ مع فتح القدير ج: ۹ ص: ۲۶۷

ہوتی ہے، جس کو علامہ بندادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجمع الاضمانتاں“ میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا :

قصار أو قف دابة في الطريق، وعليها ثياب، فقصد منها راكب، ومزق بعض الثياب التي كانت على الدابة، قال الشيخ أبو بكر البليخي رحمه الله تعالى : إن رأى الراكب الدابة الواقفة ضمن، وإن لم يصر لا يضمن؛ ولو مر رجل على ثوب موضوع في الطريق وهو لا يصره فتخرق، لا يضمن . (۱)

ایک دھوپی نے اپنا جانور راستے میں کھڑا کر دیا، اس جانور پر کپڑے لدا ہوئے تھے، کسی سوار نے اس جانور کو فکر مار دی، اور اس جانور پر جو کپڑے تھے، اس میں سے بعض کپڑے پھاڑ دیے۔ شیخ ابو بکر بیخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر اس سوار نے دھوپی کے جانور کو کھڑا ابھاد کیا تھا، تب تو وہ سوار ضامن ہو گا، اور اگر اس نے نہیں دیکھا تھا تو ضامن نہیں ہو گا۔ اسی طرح اگر راستے میں پڑے کپڑوں کے بعد پر سے کوئی شخص گزرے، اور اس گزرنے والے نے ان کپڑوں کو نہیں دیکھا تھا، تو وہ کپڑے پھٹ گئے تو اس گزرنے والے پر خمان نہیں آئے گا۔

لہذا وہ دھوپی جس نے اپنا جانور راستے میں کھڑا کر دیا تھا، کپڑوں کے پہنچنے ”مبہب“ ہے، اور وہ ”متعدد“ بھی ہے، کیونکہ راستے میں اس نے اپنا جانور

کھڑا کیا تھا، اور جو آدمی دوسرے جانور پر سوار تھا، وہ مباشر ہے، اب اگر دوسرے سوار کو دھوپی کا جانور نظر نہیں آیا تو وہ سوار متعددی نہیں، لہذا اس پر ضمان نہیں آئیگا۔ اور کپڑوں کے چھاڑنے کی نسبت "سبب" کی طرف کی جائے گی، وہ "دھوپی" ہے، کویا کہ اس دھوپی نے اپنے کپڑے خود چھاڑے، لہذا کوئی دوسرے شخص ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسرے جانور پر سوار شخص نے دیکھ لیا تھا کہ دھوپی کا جانور کھڑا ہے، اس کے باوجود اس سے ٹکرایا تو اس صورت میں وہ سوار متعددی ہوگا۔ اور جس جگہ پر "سبب" کی تعدادی اور "مباشر" کی تعدادی جمع ہو جائیں تو وہاں ضمان کا ذمہ دار "مباشر" ہوگا۔ اسلئے دوسرے جانور پر سوار شخص دھوپی کو کپڑوں کا ضمان ادا کرنے گا۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے راستے میں کپڑے رکھ دیے، تو وہ کپڑے رکھنے والا شخص کپڑوں کے چھاڑنے کا "سبب" ہے، اور وہ متعددی بھی ہے، کیونکہ عام لوگوں کے گزر نے کاراستہ کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور جو شخص راستے سے گزر رہا ہے وہ کپڑے چھاڑنے میں "مباشر" ہے، اب اگر اس کو کپڑے نظر آئے تھے (اس کے باوجود وہ ان کپڑوں پر چڑھ گیا) تو وہ گزر نے والا متعددی نہ ہے، لہذا اس پر ضمان آئے گا، اور اگر اس نے کپڑے نہیں دیکھے، تو اس صورت میں وہ متعددی نہیں، لہذا اس پر ضمان نہیں آئے گا۔

علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک مسئلہ اور ذکر کیا ہے، فرمایا:
مر ب حمار علیہ حطب، و هو يقول : الیک الیکا.....
الا ان المخاطب لم یسمع ذلك، حتى اصحاب ثوبه و
تخرق یضمن، و ان سمع الا انه لم یتهیأ له التنجی بطrol

المدة فکذلک، و اما اذا امکنه و لم ینج لا یضمن . (۱)

ایک شخص گدھے پر لکڑیاں لے کر گزرا، اور یہ کہتا جا رہا تھا، پھو! پھو!.....
لیکن مخاطب (راستے گزرنے والے) نے اس کی آواز نہیں سنی، یہاں تک کہ اس
کے کپڑے لکڑیوں میں الجھ کر پھٹ گئے، تو گدھے والا ضامن ہو گا، اور اگر اس نے
آواز سن لی تھی، لیکن اس عرصہ میں اس کو بچنے کا موقع نہیں ملا، تب بھی یہی حکم ہے
(یعنی گدھے والا ضامن ہو گا) لیکن اگر مخاطب کے لئے اس گدھے سے دور ہٹنا
ممکن تھا، اور پھر بھی نہیں ہٹا تو اس صورت میں گدھے والا ضامن نہیں ہو گا۔

اس مسئلے میں گدھے والا "مبادر" ہے، ان فقیاء کے قول کے مطابق جو
سائق (بیچھے سے ہنکانے والے) اور قائد (آگے سے کھینچنے والے) کو مبادر قرار
دیتے ہیں، اور جب اس گدھے والے نے "بچو! بچو!" کی آواز لگائی تو وہ متعدد نہیں
تھا، لیکن جب مخاطب نے اس کی آواز نہیں سنی تو وہ "متعدد" "بن گیا، اور نقصان کا
ضامن بن گیا۔ اسی طرح اگر مخاطب نے آواز تو سن لی تھی، لیکن اس کو دور ہٹنے کا
موقع نہیں ملا (اور گدھا اس سے گمرا گیا، تو گدھے والا ضامن ہو گا) لیکن اگر اس
مخاطب کو دور ہٹنے کا موقع مل گیا تھا، اس کے باوجود وہ نہیں ہٹا، تو اس صورت میں وہ
مخاطب "مبوب" "متعدد" ہے، لہذا نقصان کا ضامن بھی اسی پر آئے گا۔

بہر حال! صاحب ہدایہ کے قول کے مطابق اور مندرجہ بالا جزئیات پر نظر
کرتے ہوئے مندرجہ ذیل صورتیں سامنے آئیں :

(۱) اگر نقصان کا واحد سبب "مبادر" ہو تو وہی ضامن ہو گا، چاہے وہ متعدد ہو، چاہے وہ متعدد نہ ہو، اس معنی میں متعدد نہ ہو کہ اس نے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جو فی نفسہ منوع ہو۔

(۲) جب کسی معاملے میں "مبادر" اور "سبب" دونوں جمع ہو جائیں اور "تعدی" کی مندرجہ بالا تعریف کے اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی متعدد نہ ہو تو اس صورت میں ضمان "مبادر" پر آئے گا۔

(۳) جس جگہ "مبادر" اور "سبب" دونوں جمع ہو جائیں، اور مبادر متعدد ہو، اور "سبب" متعدد نہ ہو تو ضمان "مبادر" پر آئے گا۔

(۴) جس جگہ "مبادر" اور "سبب" دونوں جمع ہوں، اور دونوں متعدد ہوں، تو اس صورت میں بھی ضمان "مبادر" پر آئے گا۔

(۵) جس جگہ "مبادر" اور "سبب" دونوں جمع ہوں، اور "سبب" متعدد ہو، اور "مبادر" متعدد نہ ہو تو ضمان "سبب" پر آئے گا۔

بہر حال! یہ ثریفک کے حادثات سے متعلق ضمان کے واجب ہونے نہ ہونے کے قواعد کا خلاصہ ہے جو فقہاء کی کتب سے سامنے آیا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

گاڑیوں کے حادثات

مندرجہ بالا قواعد کی تہذید اور تشریع کے بعداب ہم "گاڑیوں کے حادثات" کی طرف آتے ہیں، اور ان حادثات کو مندرجہ بالا قواعد اور ان سے متعلق فقہی جزئیات کی جو تشریع ہم نے اور پر بیان کی ہے، اس کی روشنی میں بیان کریں گے۔

گاڑیوں کے ذریعہ ہونے والے حادثہ میں ڈرائیور کی ذمہ داری کی حد

قانون یہ ہے کہ گاڑی چلانے کے دوران جو کوئی حادثہ اس گاڑی سے پیش آئے، اس گاڑی کا ڈرائیور اس حادثہ کا ذمہ دار ہے، اس لئے کہ گاڑی اس ڈرائیور کے ہاتھ میں محض ایک آلہ ہے، اور وہ ڈرائیور اس کو کنٹرول کرنے پر قادر ہے، لہذا اس گاڑی سے جو حادثہ پیش آئے گا، ڈرائیور اس کا ذمہ دار ہو گا۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاڑی اور جانور میں ایک بڑا فرق بھی ہے، وہ یہ کہ جانور بذات خود بھی حرکت کر سکتا ہے، بخلاف گاڑی کے کہ وہ ڈرائیور کی حرکت دیے بغیر خود بخود حرکت نہیں کر سکتی۔ اس جہت سے جب میں دیکھتا ہوں کہ فقہاء کرام نے جانور کے منہ اور ہاتھ سے پہنچنے والے نقصان اور جانور کے پاؤں یا دم سے پہنچنے والے نقصان کے درمیان جو فرق کیا ہے، یہ فرق گاڑی کے مسئلے میں نہیں چلے گا، جانور میں تو یہ فرق کیا ہے کہ یہی قسم کے اعضاء سے جو نقصان ہو، اس کا ضامن سوار کو ظہر ریا ہے، اور دوسری قسم کے اعضاء سے پہنچنے والے نقصان کا ضامن سوار کو قرار نہیں دیا، اس لئے کہ جانور پر جو شخص سوار ہے، اس کیلئے یہ ممکن نہیں کہ وہ جانور کے پاؤں اور دم سے پہنچنے والے نقصان کو بچا سکے۔

جہاں تک گاڑی کا تعلق ہے، چونکہ وہ بذات خود حرکت نہیں کرتی، لہذا پوری گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے، اور وہ ڈرائیور اس کے اجزاء پر کمکل کنٹرول رکھنے پر قادر ہے، اس لئے کہ گاڑی کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور گاڑی کے کسی حصے کی دوسرے حصوں کو چھوڑ کر علیحدہ اپنی کوئی حرکت

نہیں ہے۔ لہذا گاڑی کا ڈرائیور ہر نقصان کا ذمہ دار ہو گا جونقصان بھی گاڑی کے ذریعہ پہنچے، چاہے وہ نقصان گاڑی کے اگلے حصے سے پہنچے، یا گاڑی کے پچھلے حصے سے پہنچے، یا دائیں اور بائیں جانب سے پہنچے، اسلئے کہ گاڑی کے تمام کل پر زے ڈرائیور کے تصرف میں ہیں، اور گاڑی کا کوئی کل پر زہ بھی خود بخود حرکت نہیں کرتا۔

اب ضابطہ یہ ہوا کہ گاڑی کا ڈرائیور ہر اس نقصان کا ضامن ہو گا جو گاڑی کے پہلوں کے ذریعہ پہنچے، یا اس کے اگلے حصے سے، یا اس کے پچھلے حصے سے، یا دونوں طرف سے پہنچے، اس لئے کہ گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں آکر بخشن ہے، لہذا اس گاڑی سے پہنچنے والے نقصان کی نسبت ڈرائیور کی طرف کی جائے گی۔

اگر گاڑی کا ڈرائیور گاڑی چلانے میں متعدد ہو کہ وہ ٹرینک کے قوانین کے خلاف گاڑی چلا رہا ہو۔ مثلاً وہ گاڑی اتنی تیز رفتاری سے چلا رہا ہو کہ اس جگہ پر اتنی رفتار سے چلانے کی اجازت نہ ہو، یا اس نے سڑک کی خاص لائن پر چلانے کا التزام نہ کیا ہو۔ یا ان کے علاوہ دوسرے کسی ٹرینک کے قانون کی خلاف درزی کی ہو، تو اس صورت میں اس بارے میں کوئی شک نہیں کرو ڈرائیور ہی ضامن ہو گا۔ اس لئے کہ اس ڈرائیور کی تعداد کی وجہ سے نقصان ہوا، اور متعدد ہر حال میں ضامن ہوتا ہے۔

لیکن اگر وہ ڈرائیور گاڑی چلانے میں متعدد نہ ہو، بلکہ وہ ٹرینک کے تمام قوانین کی پابندی کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہو، پھر بھی اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو کیا وہ ڈرائیور اس حالت میں اس نقصان کا ضامن ہو گایا نہیں؟

ہمارے زمانے میں اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہیں، بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ وہ ڈرائیور ضامن ہو گا، کیونکہ وہ مباشر ہے، اور مباشر ضامن ہوتا ہے، اگرچہ وہ متعدد نہ ہو، جبکہ دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہو گا، اس لئے کہ ٹرینیک کے تمام قوانین کی پابندی کے باوجود جب حادثہ پیش آگیا تو یہ حادثہ کا دو ہو گا، جس سے بچنا ممکن نہیں تھا، اور مباشر اس وقت ضامن ہوتا ہے جب اس کے لئے بچنا ممکن ہو، اور نہ کہ اس جگہ پر جہاں اس کے لئے بچنا ممکن نہ ہو۔

وہ قواعد اور فقہی جزئیات جو گزشتہ صفحات میں میں نے بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں جو بات مجھے ظاہر ہوئی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ وہ یہ کہ ڈرائیور اس نقصان کا ضامن ہو گا جو نقصان اس نے مباشرہ کیا ہو، اگرچہ وہ متعدد نہ ہو، اس لئے کہ فقہاء کے اجماع سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ”مباشر“ کو ضامن ٹھہرانے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ”متعدد“ بھی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ”مباشر“ یقینی طور پر اس طرح ثابت ہو جس کی تفسیر ہم نے قاعدہ ثانیہ کے تحت بیان کی ہے، لہذا ڈرائیور کو نقصان کا ضامن قرار دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ معمول طور بغیر پر کسی مزامن کے اس کی طرف مباشرۃ کی نسبت کرنا صحیح ہو۔ مندرجہ بالا بیانات کو پیش نظر رکھنے کے نتیجے میں مندرجہ ذیل صورتوں میں ڈرائیور ضامن نہیں ہو گا۔

(۱) ایک ڈرائیور ٹرینیک کے تمام قوانین کی پابندی کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہو، لیکن اچانک کوئی آدمی دوسرے آدمی کو گاڑی کے سامنے دھکا دیدے۔

اس طرح کہ ڈرائیور کے لئے اس شخص سے تکرار نے سے پہلے گاڑی روکنا ممکن نہ ہو،

اور گاڑی اس شخص سے لکر آجائے تو اس صورت میں ڈرائیور ضامن نہیں ہو گا۔ بلکہ دھکا دینے والا شخص ضامن ہو گا۔ یہ صورت ایسی ہے جیسے کوئی شخص کھڑے جانور کو اسائے اور وہ جانور کسی کو مار دے، تو ضمناً ”اس کا نے والے“ پر ہو گا، سوار پر نہ ہو گا، اسی طرف یہاں پر فعل کی مباشرۃ گاڑی کے ڈرائیور کی طرف کرنا درست نہیں، کیونکہ یہاں دھکا دینے والے کی تاثیر ڈرائیور کی تاثیر سے زیادہ قوی ہے۔ یا جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ دھکا دینے والا متعدد ہے، اور ڈرائیور غیر متعدد ہے۔

(۲) اگر ڈرائیور نے سکلن پر گاڑی روک دی، اور سکلن ہلانے کا انتظار کرنے لگا، اس دوران پیچھے سے کسی گاڑی نے اس کو لکر مار دی، اور اس کو آگے کی طرف دھکیل دیا، جس کے نتیجے میں وہ گاڑی اگلی گاڑی سے لکر آگئی، تو اس صورت میں آگے والی گاڑی کے ڈرائیور پر ضمناً آئے گا، بلکہ اس گاڑی کے ڈرائیور پر ضمناً آئے گا جس نے پیچھے سے لکر مار کر آگے دھکلیلا تھا، اس لئے کہ آگے والی گاڑی کی طرف مباشرۃ کی نسبت کرنا درست نہیں، اس لئے وہ تو پیچھے والی گاڑی کی طور آل کے دھکیلی ہوئی ہے، چنانچہ سعودی عرب کی ”اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء“ نے اپنی قرارداد میں اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور یہ قرارداد ”مجلة البحوث الإسلامية“ کے عدد نمبر ۲۶ / ۹۴۱ / ۵ میں شائع ہو چکی ہے۔

مندرجہ بالا صورت اس مسئلہ پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے جسے فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو اسائے، اور وہ کسی کو نقصان پہنچائے تو

ضمان اکسانے والے پر ہوگا، سوار پر نہیں ہوگا۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جسے علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجمع الفضمانات“ میں ذکر فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ :

فَإِنْ عَشَرْ بِمَا أَحْدَثَهُ فِي الطَّرِيقِ رَجُلٌ، فَلَوْقَعَ عَلَى آخِرِ
فَسَمَاتِ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي أَحْدَثَهُ فِي الطَّرِيقِ، وَ
صَارَ كَانَهُ دَفْعَ الَّذِي عَشَرَ بِهِ، لَأَنَّهُ مَدْفُوعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ،
وَالْمَدْفُوعُ كَالَّاتِةِ . (۱)

اگر راستے میں کسی شخص کے پاخانہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص پھسل گیا، اور پھسل کر دوسرے شخص پر گرا، اور دوسرا شخص مر گیا، اس صورت میں اس شخص پر ضمان آئے گا، جس نے راستے میں پاخانہ کیا تھا، گویا کہ پاخانہ کرنے والے شخص نے اس کو دھکا دیا، اور وہ پھسل گیا، کیونکہ وہ پہنچنے والا شخص اس حالت میں دھکا دیا ہوا ہے، اور دھکا دیا ہوا شخص بجز لہ آللہ کے ہوتا ہے۔

اس مثال سے ظاہر ہوا کہ وہ شخص جو دوسرے شخص پر گرا ہے، وہ بلاک کرنے کیلئے ”مبادر“ ہے، لیکن ضمان ”مبوب“ پر آئے گا، اسلئے کہ وہ ”متعدد“ ہے، اور دوسرے اس لئے کہ اس کی تاثیر زیادہ تو ہے، کیونکہ گرنے والے شخص کا کوئی اختیاری فعل نہیں تھا، لہذا مبادرہ کی نسبت گرنے والے کی طرف نہیں کی جائے گی، سبکی معاملہ ہمارے مذکورہ مسئلہ میں ہے۔

(۳) اگر گاڑی چلانے سے پہلے وہ بالکل درست حالت میں تھی، اور ڈرائیور

نے چلانے سے پہلے معروف طریقے پر اس کی جانچ پڑتاں کر لی تھی، پھر گاڑی کے چلنے کے دوران اچانک گاڑی کے پروں میں سے کسی پرزوے میں خرابی پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ گاڑی ڈرائیور کی قدرت اور کشرون سے باہر ہو جائے، اور کسی انسان سے ٹکرایا جائے تو اس کے بارے میں سعودی عرب کی "اللجنة الدائمة للبحوث واللتاء" نے یہ فتوی دیا ہے کہ اس صورت میں ڈرائیور پر ضمان نہیں آئیگا، اسی طرح اگر وہ گاڑی اسی سبب کی وجہ سے کسی انسان پر یا کسی چیز پر الٹ جائے، اور وہ انسان مر جائے، اور وہ چیز ضائع ہو جائے تو ڈرائیور پر ضمان نہیں آئے گا۔ (۱)

مندرجہ بالآخری اس مسئلہ پر بھی لگانا ممکن ہے جو مسئلہ ہم نے "قاعدہ ثانیہ" کے تحت فقهاء کرام کی نص میں ذکر کیا تھا کہ اگر جانور بدک جائے، اور سوار کی قدرت اور اختیار سے نکل جائے تو پھر سوار پر ضمان نہیں آئے گا۔ اسی طرح گاڑی کے ڈرائیور کے کشرون سے نکلنے کے بعد اس گاڑی کے کسی حصے سے کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس کی نسبت ڈرائیور کی طرف کرنا درست نہیں، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ڈرائیور اس ہلاکت کا "مبادر" ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ڈرائیور ہلاکت کا "سبب" ہے، اس لئے کہ حقیقت میں تو گاڑی وہی چلا رہا تھا۔ اور چونکہ وہ "سبب" ہے، لہذا اس کو ضامن قرار دینے کے لئے "تعدى" شرط ہو گی، اب اگر اس نے گاڑی کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا، اور ٹریک کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے معمول کی رفتار سے وہ گاڑی چلا رہا تھا، تو اس صورت میں عدم

تعدی کی وجہ سے اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ ہاں! اگر اس ذرا بیور نے ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوتا ہی کی تھی، مثلاً یہ کہ اس نے چلانے سے پہلے گاڑی کو چیک نہیں کیا تھا، یا کسی پر زے میں ظاہری خلل کے باوجود اس نے گاڑی چلانی شروع کر دی تھی، یادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی تو ذرا بیور ضامن ہو گا، اس لئے کہ وہ تعدی کر کے اس گاڑی کے قابو سے باہر نکلنے کا "مسبب" ہے۔

بعض اوقات اس فتویٰ کے لئے وہ جزئیہ شاہد بن سکتا ہے، جو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع میں ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ :

و كذلك (يضمـن) اذا كان يمشي في الطريق حاملاً
سيفـاً، أو حجـراً، أو لبـنة، أو خـشبـة، فـسـقـطـ منـ يـدـهـ فـقتـلهـ،
لـوـجـودـ مـعـنـىـ الـخـطـافـيـهـ، وـ حـصـولـهـ عـلـىـ سـبـيلـ المـباـشـرهـ،
لـوـصـولـ الـآـلـهـ لـلـبـشـرـةـ الـمـقـتـولـ، وـ لوـكـانـ لـاـبـسـاـ سـيـفـاـ،
فـسـقـطـ عـلـىـ غـيـرـهـ فـقتـلهـ، أوـ سـقـطـ عـنـهـ ثـوـبـهـ، أوـ رـدـائـهـ، أوـ
طـيـلـسـانـهـ، أوـ عـمـامـتـهـ، وـ هـوـ لـاـبـسـهـ عـلـىـ اـنـسـانـ فـتـعـلـلـ بـهـ
فـتـلـفـ، فـلـاـ ضـمـانـ عـلـيـهـ أـصـلـاـ، لـاـنـ فـيـ الـلـبـسـ ضـرـورـةـ، اـذـاـ
الـنـاسـ يـحـتـاجـونـ إـلـىـ لـبـسـ هـذـهـ، وـ التـحـرـزـ عـنـ السـقـطـ
لـيـسـ فـيـ وـسـعـهـمـ، فـكـانـتـ الـبـلـيـةـ فـيـهـ عـامـةـ، فـتـعـذرـ
الـتـضـمـينـ، وـ لـاـ ضـرـورـةـ فـيـ الـحـمـلـ، وـ الـاحـتـراـزـ عـنـ سـقـطـ
الـمـحـمـولـ مـمـكـنـ أـيـضاـ - وـ اـنـ كـانـ السـدـىـ لـبـسـ مـمـاـ لـاـ
لـبـسـ عـادـةـ فـهـوـ ضـامـنـ . (۱)

یعنی اگر کوئی شخص راستے میں تکوار اٹھا کر چل رہا ہو، یا پتھر، یا اینٹ، یا لکڑی اٹھا کر چل رہا ہو، اور راستے میں ان میں سے کوئی چیز گرد جائے، اور اس کے نتیجے میں کوئی آدمی سر جائے تو یہ اٹھانے والا شخص ضامن ہو گا، اس لئے کہ اس میں خطاۓ کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں، اور اس شخص کا یہ عمل علی سبیل المباشرۃ پایا جا رہا ہے، اس لئے کہ وہ آلہ مقتول کے جسم تک پہنچ گیا..... اور اگر وہ شخص تکوار کو گلے میں لٹکائے ہوئے تھا، پھر وہ تکوار دوسرے شخص پر گر گئی، اور اس کو قتل کر دیا، یا اس شخص کا کپڑا، یا اس کی چادر، یا اس کا چند، یا اس کا عمامہ جن کو وہ شخص پہنچ پہنچ ہوئے تھا، ان میں سے کوئی کپڑا دوسرے شخص پر گرا، اور وہ شخص اس میں الجھ کر ہلاک ہو گیا، تو اس کپڑے والے پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس لئے کہ ان کپڑوں کا پہننا ایک ضرورت ہے، اور لوگ ان کپڑوں کو پہننے کے محتاج ہیں، اور ان کپڑوں کو گرنے سے بچانا انسان کی وسعت اور قدرت میں نہیں، لہذا اس کے اندر بلوی عام ہے، جس کی وجہ سے پہننے والے کو ضامن بنا جائز ہے (جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جن کو وہ اٹھا کر راستے میں چل رہا تھا) ان کو اٹھا کر چلانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان چیزوں کو گرنے سے بچانا بھی ممکن تھا (اس کے باوجود اس نے گرنے سے نہیں بچایا، اس لئے اس شخص پر ضامن آئے گا) البتہ اگر کوئی شخص ایسا لباس پہن کر راستے میں چلے جو عادۃ نہیں پہنا جاتا (اور وہ لباس ہوا سے اذکر دوسرے شخص پر گر جائے، اور وہ الجھ کر ہلاک ہو جائے) تو وہ شخص ضامن ہو گا۔

مندرجہ بالا مسئلہ کی تائید اس مسئلے سے بھی ہوتی ہے جو ہم نے ”قاعدہ ثانیہ“

کے تحت ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی جانور مر کر جائے، یا بیماری کی وجہ سے، یا شدید تیز ہوا کی وجہ سے وہ جانور گرفتار جائے، اور اس کے گرنے کی وجہ سے کسی چیز کا نقصان ہو جائے، تو سوار اس نقصان کا ضامن نہ ہو گا۔ (۱)

(۲) اگر کوئی انسان شارع عام پر مقررہ رفتار سے لظم کے مطابق، لائن کی پابندی کرتے ہوئے، اور ٹریک کے قوانین کے مطابق دیکھتے ہوئے گاڑی چلائے، اچانک کوئی آدمی اس کی گاڑی کے سامنے چھلانگ مار دے، اور بریک وغیرہ کے ذریعہ گاڑی کو روکنے کے باوجود گاڑی اس شخص سے گمراہ جائے، تو اس کے بارے میں سعودی عرب کی "اللجنة الدائمة للبحوث والابحاث" نے مختلف احتمالات ظاہر کئے ہیں، اور کسی ایک کو حقی قرار نہیں دیا، چنانچہ اس "لجنة" نے مندرجہ ذیل ترجیحات منظور کی ہے :

امکن ان یقال بتضمن السائق من مات بالصدم أو كسر مثلًا، بناء على ما تقدم من تضمين الراكب أو القائد أو السائق ما وطنت الدابة بيديها، وقد ينافي ذلك ببعض الدابة و ضبطها أيسير من ضبط السيارة . ويتمكن أن یقال بضمان كل منها ما تلف عند الآخر من نفس و مال، بناء على ما تقدم من الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في تضمين المتصادمين . ويتمكن أن یقال بضمان السائق ماتلف من نصف الديه أو نصف الكسور، لغير طبه بعدم احتياطه بالنظر لما أمامه من

بعيد، وبضمان المتصدوم نصف ذلك لاعتداله
بالمرور فجالة امام السيارة دون الاحتياط لنفسه، بناءً
على ما ذكره الشافعى وذفرو عثمان البتى ومن
والقىهم فى تضمين المتصادمين - ويحتمل ان يقال : أنه
هدر، لأنفراده بالتعدي . (١)

(اس "لجنہ" نے چار اختیارات بیان کئے ہیں، پہلا اختیال یہ ہے کہ) جو
شخص اکسٹینٹ کی وجہ سے مر جائے، یا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں تو ممکن ہے
ڈرائیور کو ضامن قرار دیے جانے کے بارے میں کہا جائے، اس بنیاد پر کہ جو مسئلہ
ماقبل میں گزر چکا کہ اگر جانور کسی کو اپنے ہاتھوں سے رومنے تو سوار کو، یا جانور کے
کھینچنے والے کو، یا جانور کے اک انسے والے کو ضامن قرار دیا جائے گا۔ البتہ اس پر یہ
اعتراف ہوتا ہے کہ جانور کو تابوکرنا گاڑی کو کنٹرول کرنے کے مقابلے میں آسان ہے
..... (دوسرा اختیال یہ ہے کہ) ممکن ہے کہ کہا جائے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے
کی جان و مال کا ضامن قرار دیا جائے، جیسا کہ حفیہ، مالکیہ، حنابہ اور حن
حضرات نے ان کی موافقت اختیار کی ہے، ان کا یہ قول ما قبل میں گزر چکا کہ
متصادین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا ضامن قرار دیا جائے گا..... (تیسرا اختیال
یہ ہے کہ) ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ڈرائیور پر نصف دیت اور نصف تاوان کا خامن
لگایا جائے، اس لئے کہ اس ڈرائیور نے اپنے سامنے دور سے دیکھنے میں احتیاط نہ
کرنے میں کوتا ہی کی ہے اور جو شخص اس گاڑی سے نکلا یا ہے اس پر نصف خامن

اور نصف دیت لگائی جائے، اس لئے کہ اس شخص نے اچانک گاڑی کے سامنے آئے اور اپنی ذات کے لئے عدم احتیاط کی وجہ سے تعددی کی ہے۔ اس حکم کی بنیاد وہ مسئلہ ہے جو امام شافعی، امام زفر اور شیخ عثمان الحنفی رحمہم اللہ تعالیٰ اور ان کے موقوفین نے آپس میں بکرانے والے دونوں پر نصف نصف ضمان واجب کیا ہے..... (چوتھا احتمال یہ ہے کہ) اچانک سامنے آنے والے شخص کا خون ہدر ہے، اس لئے کہ وہ شخص تعددی کرنے میں منفرد اور اکیلا ہے۔

مندرجہ بالا مسئلہ میں مجھ پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ وہ شخص جس نے گاڑی کے سامنے چھلانگ لگائی، اگر اس نے اتنی قریب سے چھلانگ لگائی ہو کہ معمول کی رفتار سے چلنے والی گاڑی کو اس جیسی جگہ میں بریک کے ذریعہ گاڑی کو روکنا ممکن نہ ہو، اور اس شخص کا چھلانگ لگانا بھی اتنا اچانک ہو کہ احتیاط سے دیکھ بھال کر چلانے والے ڈرائیور کو بھی پہلے سے اس کی توقع نہ ہو، تو اس جیسی صورت حال میں اس ہلاکت اور نقصان کو گاڑی کے ڈرائیور کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ڈرائیور ہلاکت اور نقصان کا ”مبادر“ ہے، لہذا وہ ڈرائیور ضامن نہ ہو گا، اور چھلانگ لگانے والا شخص اپنے کو ہلاک کرنے کا ”مسئب“ ہو گا۔ اور اس کی مندرجہ ذیل وجہوں ہیں :

پہلی وجہ

پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس صورت میں ڈرائیور کو ضامن مٹھرا کیسیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ایک شخص خود کشی کرنے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا پختہ

ارادہ کر لے، اور پھر اپنے کو ہلاک کرنے کے لئے کسی گاڑی یا ریل کے سامنے چھلانگ لگادے تو کیا اس کی ہلاکت کا ضامن ڈرائیور ہو گا؟ یہ بالکل بدابہت کے خلاف ہے۔

دوسری وجہ

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم پیچھے "قادہ ثانیہ" کی تشریع میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ "مبادر" پر ضمان لازم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی شک کے بغیر "مبادر" سے ہلاک کرنے کی مباشرۃ ثابت ہو، لہذا جہاں کہیں "مسبب" کی تاثیر "مبادر" کی تاثیر سے زیادہ تو ہو گی، یا مباشر کا اختیار کسی دوسرے شخص کے فعل کی وجہ سے منعد ہو چکا ہو، جیسا کہ جانور کو اکسانے کے مسئلہ میں پیچھے گز رچکا، تو ایسی صورت میں "مبادر" کو اتنا لف کے لئے "مبادر" شمار نہیں کیا جائے گا، لہذا اس پر ضمان بھی واجب نہیں ہو گا۔

تیسرا وجہ

تیسرا وجہ یہ ہے کہ "مبادر" کسی دوسرے کی وجہ سے اس فعل کے کرنے پر مجبور ہو، جیسا کہ اکراہ کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس مباشر کو قتل کے لئے یا اتنا لف کے لئے حقیقی مباشر نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اتنا لف کی نسبت اس شخص کی طرف کی جائے گی جس نے اس کام کے کرنے پر مجبور کیا ہو گا۔ جیسے کسی شخص نے دوسرے کو کسی انسان کے قتل کرنے پر اکراہ کیا، اور اس مکرہ نے اکراہ ملجمی کی حالت میں اس انسان کو قتل کر دیا تو اس صورت میں قاتل مکرہ پر ضمان نہیں

آئے گا۔ اس لئے کہ مباشرۃ قتل کی نسبت مکڑہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ جبکہ ہمارے زیر بحث مسئلہ میں مباشرۃ الالٹاف کی نسبت ڈرائیور کی طرف بطریق اولی نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ مکڑہ کو اس فعل سے بچنے کی جو قدرت حاصل ہے، وہ اس اکارہ اس قدرت کو محدود نہیں کرتا، لہذا یہ ممکن ہے کہ مکڑہ اپنی جان کی قیمت پر دوسرا کو قتل کرنے سے رُک جائے، اسی وجہ سے مکڑہ قاتل قاتل کرنے پر تعزیری سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ برخلاف ہمارے زیر بحث مسئلہ میں ڈرائیور کے پاس چھلانگ لگانے والے شخص کو گاڑی کی ٹکرے سے بچانے کیلئے کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہوتا۔

چوتھی وجہ

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم صاحب بدایہ کی طرف سے یہ بات ماقبل میں بیان کرچکے ہیں کہ اگر کسی واقعہ میں "سبب" متعدد ہو، اور "مباشر" غیر متعدد ہو تو اس صورت میں "مباشر" کے مقابلے میں "سبب" نہان ادا کرنے کا زیادہ مستحق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے زیر بحث مسئلہ میں چھلانگ لگانے والا متعدد ہے، اور ڈرائیور غیر متعدد ہے، لہذا چھلانگ لگانے والا ہمیں اپنے فعل کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔

پانچویں وجہ

پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں کم از کم ڈرائیور کے مباشر ہونے اور اس کے ضمن میں شک واقع ہو چکا ہے، اس شک کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ "اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء" جس کا ذکر یہ چھے گز رچکا، اس

”الجنة“ نے ڈرائیور پر ضمان واجب کرنے میں تردود کا اظہار کیا ہے، اور شک کی صورت میں ضمان واجب نہیں ہوتا۔ چنانچہ علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ”مجمع الضمانات“ میں فرماتے ہیں :

رجل حفر بترافی الطریق، فسقط فیها انسان و مات،
فقال الحافر : انه ألقى نفسه فيها، و كذبه الورثة في
ذلك، كان القول قول الحافر في قول أبي يوسف
الآخر، وهو قول محمد، لأن الظاهر أن البصیر يرى
موقع قدمه، و ان كان الظاهر أن الانسان لا يوقع
نفسه، و اذا وقع الشك، لا يجب الضمان بالشك (۱)
ایک شخص نے راستے میں کنوں کھو دا، ایک انسان اس کنوں میں گر کر مر گیا،
اب کنوں کھو دنے والے نے کہا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو خود کنوں میں ڈالا
ہے، لیکن مر نے والے کے دربارے اس کی یہ تکذیب کر دی تو اس صورت میں امام
ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے قول کے مطابق کنوں کھو دنے والے کا قول
معتبر ہو گا، اور یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس لئے کہ ظاہر یہ ہے کہ بیٹا
انسان اپنے قدم رکھنے کی جگہ کی طرف دیکھتا ہے، دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ
انسان خود سے اپنے آپ کو نہیں گراتا، چونکہ اس میں شک پیدا ہو گیا، لہذا شک کی
وجہ سے حافر پر ضمان واجب نہیں کیا جاسکتا۔

ڈرائیور کو ضامن ٹھہرانے پر استدلال

بعض اوقات مندرجہ بالا واقعہ میں ڈرائیور کو ضامن قرار دینے پر مندرجہ

(۱) مجمع الضمانات للبغدادی ص: ۱۸۰ باب: ۱۲ فصل: ۲

ذیل دلائل سے استدلال کیا جاتا ہے :

(الف) تمام فقہاء کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ چلنے کے دوران اگر جانور کسی کو روندے تو اس جانور کے سوار کو اس نقصان کا ضامن قرار دیا جائے گا، اور اس مسئلہ سے اس صورت کا استثناء نہیں کیا کہ اگر کوئی شخص جانور کے سامنے چھلانگ لگادے (تو اس صورت میں سوار ضامن نہیں ہوگا) استثناء نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرات فقہاء اس کے قائل ہیں کہ اس صورت میں بھی سوار ضامن ہوگا۔

یہ دلیل درست نہیں۔ اس لئے کہ فقہاء نے اس استثنائی صورت کو ضمان واجب کرنے کے لئے نہ فیاض ذکر کیا ہے، اور شہادات اثباتاً ذکر کیا ہے، اور فقہاء کا اس صورت سے مجرد سکوت ضمان کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اس لئے کہ ساکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ خاص طور پر اس وقت جبکہ فقہاء کرام نے دوسرے جزئیات کے ضمن میں ایسے اصول ذکر فرمائے ہیں جو اس صورت میں ضمان واجب نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ شاید فقہاء نے اس صورت کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس زمانے میں یہ صورت نادر تھی، کیونکہ جانور کو قابو کرنا گاڑی کو قابو کرنے کے مقابلے میں آسان ہے، اس لئے کہ جانور از خود حرکت کر سکتا ہے، بعض اوقات جانور اپنے چلنے کے دوران راستے میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس سے ایک طرف کو ہو جاتا ہے، برخلاف گاڑی کے (کہ وہ خود سے ایک طرف کو نہیں ہو سکتی) اور دوسرے یہ کہ اس زمانے میں شہری راستے اصل میں پیدل چلنے والوں کے لئے بنائے جاتے تھے، اس لئے ان راستوں پر جانور تیزی سے

نہیں چل سکتے تھے، برخلاف گاڑیوں کے، کہ وہ ایسے راستوں پر چلتی ہیں، جو تمیز رفتار گاڑیوں ہی کے لئے بنائے جاتے ہیں۔

(ب) اور کبھی دلیل کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سونے والا شخص دوسرے شخص پر پلٹ جائے تو اس کے نتیجے میں جونقصان ہو گا، سونے والا شخص اس نقصان کا ضامن ہو گا، حالانکہ سونے والا شخص غیر مکلف ہوتا ہے، لیکن فقہاء کرام نے بالاجماع اس سونے والے پر حکمان کا حکم لگایا ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ مباشر ضامن ہوتا ہے، اگرچہ وہ فعل اس سے غیر اختیاری طور پر صادر ہوا ہو، لہذا مناسب یہ ہے کہ ذرا بیور بھی ضامن ہو، اگرچہ بغیر اختیار کے ہلاکت صادر ہوئی ہو۔

مندرجہ بالا استدلال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ہلاکت میں صرف ”مبادر“ ہی تھا سبب ہو تو اس صورت میں ہلاکت کا ضامن وہی ہو گا، اگرچہ اختیار کے بغیر وہ ہلاکت اس سے ہوئی ہو، البتہ اس سے وہ صورت مستثنی ہو گی جس میں پچنا ممکن ہی نہ ہو، اور اس میں عموم ہلوی ہو۔ جیسا کہ ہم نے مابقی میں ”بدائع الصنائع“ سے یہ مسئلہ نقل کیا تھا کہ اگر کوئی شخص تکوار مغلے میں لٹکا کر جا رہا ہو (اور وہ تکوار کسی کے اوپر گر جائے، اور وہ ہلاک ہو جائے) تو وہ شخص ضامن نہیں ہو گا۔ لیکن اگر کسی مسئلہ میں کوئی دوسرا شخص مختار ہو، اور ہلاک کرنے کی نسبت مباشر کی طرف کرنے میں وہ شخص مزاحم ہو، اور اس شخص کے فعل کی تاثیر ”مبادر“ کے فعل کی تاثیر سے زیادہ قوی ہو تو اس صورت میں ہلاکت کی نسبت اس دوسرے شخص کی طرف کی جائے گی، جیسا کہ ماقبل میں ہم ایک سے زیادہ مثالوں میں ذکر کرچے ہیں، اور

خاص طور پر جانور کو اکسانے کے مسئلے میں۔ اور اس مسئلہ میں جس میں کوئی راستے میں پڑے ہوئے پتھر کی وجہ سے کسی دوسرے شخص پر گرجائے (اور وہ ہلاک ہو جائے) تو گرنے والا ضامن نہ ہو گا، بلکہ راستے میں پتھر کرنے والا ضامن ہو گا۔

جہاں تک سونے والے مسئلہ کا تعلق ہے (کہ سونے والا شخص اگر دوسرے شخص پر گرجائے تو سونے والا ضامن ہو گا) تو وہاں سونے والے کی طرف اہلاک کی نسبت کرنے میں کوئی مراحم نہیں ہے۔ برخلاف گاڑی کے زیر بحث مسئلے کے، کہ یہاں چھلانگ لگانے والا شخص اہلاک کی نسبت ڈرامیور کی طرف کرنے میں مراحم ہے، اور وہ چھلانگ لگانے والا تعدی کی وجہ سے اہلاک کی نسبت کا اس ڈرامیور کی طرف نسبت کرنے کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے، جس نے قوانین کی پابندی کی تھی، اور اس کے پاس اختیار بھی نہیں تھا۔

اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر زیدیہ دیکھ کر عمر و سور ہا ہے، اور قریب ہے کہ عمر دسوتے ہوئے پلٹ جائے (اور یعنی گرجائے) چنانچہ زیدیہ نے ایک پچھا اس کے نیچے لا کر رکھ دیا، تاکہ وہ سونے والا اس پچھے پر پلٹ جائے، اور اس کو ہلاک کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صورت میں ہمان سونے والے پر نہیں ہو گا، بلکہ اس شخص پر ہو گا جس نے وہ پچھے لا کر اس کے نیچے رکھا۔ باوجود یہ کہ ظاہری اعتبار سے وہ سونے والا مباشر ہے، وہ اس کی یہ ہے کہ پچھے کو نیچے رکھنے والا شخص ہلاکت کی نسبت سونے والے کی طرف کرنے میں مراحم ہے، اور اس کے فعل کی تاثیر سونے والے کے فعل کی تاثیر سے زیادہ قوی ہے، اس لئے کہ پچھے کو نیچے رکھنے والا

خوارجی ہے، اور متعدد بھی ہے۔ بخلاف سونے والے کے (نہ وہ مقنار ہے، اور نہ وہ متعدد ہے) یہی صورت حال ہمارے زیر بحث مسئلے میں ذرا سیور کی ہے۔

الحمد لله، اللہ جل شانہ کی توفیق سے یہاں تک میں نے ٹرینیک کے حادثات کے ان اہم مسائل کو بیان کر دیا جن میں ہمارے اس دور میں اشتباہ یا جاتا ہے، اور ان قواعد اور اصولوں کو بھی بیان کر دیا جن پر اس طرح کے مسائل تھی ہیں، اور اب اس باب سے متعلق دوسرے مسائل کو اس بنیاد پر نکالنا ممکن ہو گیا، اور اس مختصر بحث میں وقت کی تنگی کی وجہ سے اور دوسرے اہم کاموں کے لظیم میں شامل ہونے کی وجہ سے، خواہش کے باوجود میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ اس باب سے متعلق تمام جزئیات کو جمع کر دوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اس مختصر بحث میں جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے وہ انشاء اللہ دوسری صورتوں کے احکام کے انتخراج اور اتنباط کے لئے مدد کار اور مصیبن مثبت ہو گا۔

وَاللَّهُ سَبَّحَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمَهُ أَتَمُ وَأَحْكَمُ
وَآخِرُ دُعَوَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

دین اور مالی دستاویز کی فروخت

اور ان کا شرعی تبادل

(۲)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ سعید

میمن اسلامک پبلیشورز

(۲) دین اور مالی وسٹاویز کی فروخت اور ان کے شرعی تبادلہ یہ مقالہ ”بیع الدین والأوراق المالية و بداولها الشرعیة“ کے عنوان سے حضرت والا مظہم نے ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ کے گیارہویں اجلاس منعقدہ منامہ، بھرین بتارخ ۱۰ ربیعہ ۱۴۳۷ھ میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرۃ“ کی جلدیانی میں شائع ہوا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

دین اور مالی دستاویز کی فروخت

اور

ان کے شرعی تبادل

یہ مقالہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مذکور ہے۔ بھریں کے شہر منامہ میں "بعض الدین" الاسلامی کے گیارہویں اجلاس منعقدہ رجب ۱۳۷۹ھ کے موقع پر پیش فرمایا۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وختام النبيين وامام المتقين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد!

یہ آف ایچچنگ کی کٹوتی، تریڑی بزرگی نیلامی، انویسٹمنٹ سرٹیکیٹس، ذمیث سرٹیکیٹس اور دیگر مالیاتی دستاویز کی "اشاک ایچچنگ" میں خرید و فروخت کی صورت میں "دین" کا لین دین سرمایہ دارانہ نظام کی نمایاں خصوصیت بن چکا ہے، اس قسم کے تمام معاملات کا حاصل "دین" کوفس و ٹیلو سے کم یا زیادہ پر فروخت کرتا ہے، بعض ماکی اور شافعی علماء کے اقوال میں "بعض الدین" کے جواز کا

ذکر ہے، ہمارے دور کے کچھ لاگوں نے اس کی ایک غلط تحریر لے لی، اور اس کی بنیاد پر ”دین“ کو فیض و پیسو سے کم یا زیادہ پروفروخت کرنے کو جائز قرار دیدیا۔

چنانچہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دین کی فروخت اور اس کی تمام اقسام کا شرعی حکم بیان کر دیا جائے، نیز اس موضوع پر فقہاء کرام کے مذاہب کی وضاحت کی جائے، اسی غرض کی تجھیل کے لئے یہ تحقیقی مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ فرش و گمراہی سے بچائے،

انہ تعالیٰ سمیع قریب مجیب الدعوات۔

دین کی فروخت کی مختلف صورتیں

دین کی فروخت کی مختلف صورتیں ہیں، جن پر فقہاء نے کلام کیا ہے :

- (۱) دین کی فروخت اس دین کے عوض جو خریدنے والے کے ذمہ ہے۔
- (۲) دین کی فروخت اس دین کے عوض جو کسی تیرے شخص کے ذمہ ہے۔

ان دونوں قسموں کو ”بیع الکالی بالکالی“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

- (۳) کسی سامان کے عوض دین فروخت کرنا اُسی شخص کو جسکے ذمہ دین ہے۔

(۴) نقد کے عوض دین فروخت کرنا اُسی شخص کو جس کے ذمہ دین ہے۔

ان دونوں قسموں کو ”بیع الدین ممن علیہ الدین“ (دین کی فروخت اس

شخص کو کرنا جس پر دین ہے) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

- (۵) جس شخص کے ذمہ دین ہے اس کے علاوہ کسی اور کو سامان کے عوض

دین فروخت کرنا۔

(۶) جس شخص کے ذمہ دین ہے اس کے علاوہ کسی تیرے شخص کو نقدی کے عوض فروخت کرتا۔

ان دونوں صورتوں کو ”بیع الدین من غیر من علیہ الدین“ کہا جاتا ہے۔

ذیل میں ان تمام اقسام میں سے ہر ایک پر علیحدہ گفتگو کریں گے۔

بیع الکالی بالکالی

چہاں تک ”دوین کی فروخت دین کے عوض“ کا تعلق ہے، جسے بیع الکالی بالکالی بھی کہا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں (۱) عقد بیع خود مدیون کے ساتھ کیا جائے (۲) یا تیرے فریق کے ساتھ عقد بیع ہو۔

پہلے کی مثال: ایک آدمی دوسرے سے یہ کہہ میں تم سے ایک شن گندم دو ہزار روپے کے بد لے خریدتا ہوں، اس طرح کے دونوں عوض ایک ماہ بعد ایک دوسرے کے حوالے کئے جائیں گے۔ اس عقد کے نتیجے میں ایک شن گندم باائع کے ذمہ دین ہو گئی، اور دو ہزار روپے مشتری کے ذمہ دین ہو گئے، اور ایک دین کے عوض دوسرے دین کی فروختی عمل میں آگئی۔

اسی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ زید نے ایک شن گندم بیع سلم کے طور پر فروخت کی، لیکن مقررہ وقت پر زید مشتری کو وہ ایک شن گندم ادا نہیں کر سکا، تو زید نے مشتری سے کہا کہ وہ گندم جو میرے ذمہ ہے، اسے مجھے تین ہزار روپے میں فروخت کر دو، اور یہ تین ہزار روپے میں ایک ماہ بعد ادا کروں گا، اس طرح جو گندم باائع کے ذمہ دین تھی، وہ باائع نے خود اس نقد کے عوض خرید لی، جو نقد اس کے ذمہ

دین ہے۔ جبکہ فقہاء کا اس بیان کے شرعاً منوع ہونے پر اتفاق ہے، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے :

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبھی عن الیبع الکالی
بالکالی . (۱)

اس حدیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے تمام طرق میں ضعف پایا جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن عمر اور رافع بن خدنج رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مردی ہے، اور ان دونوں طرق کا مدار موسیٰ بن عبیدہ الرہبی پر ہے، اور یہ جمیل محمد شین کے نزدیک ضعیف ہیں، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان سے روایت کرنا حلال نہیں، جب ان سے کہا گیا کہ شعبہ قوام سے روایت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر شعبہ کو وہ بات پڑتے چل جائے جو دوسروں کو معلوم ہے تو وہ بھی روایت کرنا چاہوڑا ہے۔ (۲)

یاد رہے حاکم اور دارقطنی نے یہ حدیث موسیٰ بن عبیدہ کے بجائے موسیٰ بن

(۱) یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مردی ہے، جیسا کہ حاکم نے مسند کی مختصر تاریخ کی ہے، ۲۵۰:۲، حدیث نمبر ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۳، اور صفحہ ۲۲۴، اور صفحہ ۲۲۵، حدیث نمبر ۲۲۳، مطبوعہ بیرونی، ۱۹۷۴ء، اور دارقطنی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، ۱:۱۳، ۲:۷، ۳:۷، نمبر ۲۷۹، کتاب الحیر میں، اور یعنی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، ۲۹۰:۵، باب ماجھاء فی السنہ عن الیبع الدین بالدین، عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ۹۰:۸، ۹۰:۸، ۹۰:۵، ایں اپنی شیرفے اپنی مصنف میں ۵، ۵۹۸:۶، حدیث نمبر ۲۱۶، مطبوعی نے شرح معانی الآثار میں، حدیث نمبر ۲۲۳، ایں اپنی شیرفے اپنی مصنف میں، جیسا کہ یعنی کی کشف الاستار میں ہے، ۹۱:۲، نمبر ۱۷۸۰، ایں عدی نے ۲۱:۲، مطبوعہ مصر اور یازار نے اپنی مصنف میں، جیسا کہ یعنی کی کشف الاستار میں ہے، ۹۱:۲، نمبر ۱۷۸۰، ایں عدی نے کامل میں ۲۲۳۵:۶، اسی طرح مردی ہے رافع بن خدنج سے جیسا کہ مطرانی نے اجم الکبریٰ میں مختصر تاریخ کی ہے، ۲۲۶۲، حدیث نمبر ۲۱۶۲

(۲) تهذیب التهذیب ۱۰۰: ۳۵۷

عقبہ کے طریق سے روایت کی ہے۔ اس لئے حاکم نے اسے "مسلم" کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے اس پر کوئی گرفت نہیں کی (۱)، تاہم امام یہنی نے اپنی سنن میں اس بات کو وہم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی موسیٰ بن عبیدہ ہیں، موسیٰ بن عقبہ نہیں ہے۔ (۲)

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دارقطنی نے "علل" میں اعتراف کیا ہے کہ اس روایت میں موسیٰ بن عبیدہ منفرد ہیں (۳)، چنانچہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دارقطنی نے جو اپنی سنن میں موسیٰ بن عقبہ کا ذکر کیا ہے وہ ان کا وہم ہے۔ باوجود یہکہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن عبد الرزاق کی

درج ذیل روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے :

أخبرنا الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالى، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الابل (كذا) وعن الشغار.

"حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ اکالی سے منع فرمایا، اور یہ بیچ الدین بالدین ہے۔ اور اوثقی کے پیٹ میں موجود بچے کو فروخت کرنے سے، اسی طرح اپنی بہن یا بیٹی کے بد لے کسی کی بہن یا بیٹی سے بغیر مہر نکاح کرنے سے منع فرمایا"

(۱) مستدرک الحاکم مع التلخیص ، ۷:۲ مطبوعہ دائرۃ المعارف

(۲) سنن یہنی ۲۹:۵

(۳) تلخیص الحبیر ۲۶:۳ نمبر ۱۲۰۵

اس روایت میں موسیٰ بن عبیدہ نہیں، بلکہ یہ روایت "اسلمی" کے طریق سے مردی ہے، جن کا پورا نام ابراہیم بن ابی بیکیٰ الاسلامی ہے (۱) ان کے بارے میں محمد شین کا کلام معروف ہے، اکثر محمد شین نے ان کی روایت کو ترک کیا ہے، تاہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کثرت سے روایت کی ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے "کہ ان کا آسان سے یا کہیں اوپر سے گرجانا میرے نزدیک آسان بات ہے، ان کے جھوٹ بولنے سے، اور وہ حدیث میں ثقہ تھے" نیز ابن عقدہ، ابن الصہبائی اور ابن عدی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، اس کے مقابلے میں اکثر محمد شین نے ان کی بدعت کے باعث ان کی روایت کو ترک کیا ہے، اور امام ذہبی کے بیان کردہ ضابطہ کے مطابق جرح مقدم ہونی چاہیے (۲) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق کی بنیاد پر ان کی روایت کو قابل اتباع قرار دیے جانے کا امکان باقی رہتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

پھر یہ کہ جمہور علماء نے اس حدیث کے مضمون پر عمل کرتے ہوئے بیع الدین بالدین کو حرام قرار دیا ہے، نیز محمد شین سے نقل کیا گیا ہے کہ اہل علم کی طرف سے حدیث کے مضمون کو بالعلوم قبولیت حاصل ہو جانے سے سند کے ضعف کی حلائی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وَكُلَّا مَا عَتَضَدَ بِتَلْقَى الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْقَبُولِ، قَالَ بَعْضُهُمْ:

يَحْكُمُ لِلْحَدِيثِ بِالصَّحَّةِ إِذَا تَلَقَاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ وَإِنْ لَمْ

يَكُنْ لَهُ أَسْنَادٌ صَحِيحٌ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْأَسْتَذِكَارِ:

(۱) نسب الرابعة ۴۰۰:۴

(۲) میران الاعتدال ۱: ۹۰

لما حکی عن الترمذی أن البخاری صحق حدیث البحر
”هو الظهور مائة“ و اهل الحديث لا يصحون مثل
اسناده، لكن الحديث عندی صحيح، لأن العلماء تلقواه
بالقبول، وقال فی التمهید، روی عن جابر عن النبي
صلی اللہ علیہ وسلم : الدینار أربعة و عشرون قیراطاً
قال: و فی قول جماعة العلماء و اجماع الناس على
معناه غنى عن الاسناد فيه . (۱)

اسی طرح وہ قول جو علماء کے قبول کرنے کے باعث مضبوط ہوا ہو،
بعض علماء نے کہا ہے: جب علماء اس کو قبول کر لیں تو اس پر صحیح
حدیث ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو۔ علامہ
ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استد کار میں کہا ہے :

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
نے حدیث البحر ”هو الظهور مائة“ کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ محمد شین
اس جیسی سند کو صحیح نہیں کہتے، لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے،
کیونکہ علماء نے اس کو عمومی طور پر قبول کیا ہے، اور تمہید میں حضرت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت ”الدینار اربعة و
عشرون قیراطاً“ کو بطور مثال ذکر کر کے فرماتے ہیں ”علماء کی
طرف سے اس روایت کو قبول کئے جانے اور لوگوں کے اجماع کی
بنیاد پر سند کی کمزوری دور ہو گئی“

علامہ ابن حام فرماتے ہیں :

”ومما يصح الحديث أيضاً عمل العلماء على وفقه، و
قال الترمذى عقىب رواية : حديث غريب، والعمل عليه
عند أهل العلم الخ وفى الدارقطنى، قال القاسم وسالم :
عمل به المسلمون، وقال المالك : شهرة الحديث
بالمدينة تغنى عن الصحة سندہ“ (۱)

صحیح حدیث کی ایک علامت یہ ہے کہ علماء اس کے مطابق عمل چیرا ہوں، چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں : حديث غريب، والعمل عليه عند اهل العلم الخ . دارقطنى میں ہے، قال القاسم و سالم : عمل به المسلمون اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب ہے، لیکن اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کسی حدیث کی شہرت اس حدیث کی سند کی صحت سے مستغفی کر دیتی ہے۔

امام سقاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

و كذا إذا تلقت الأمة الضعيفة بالقبول ي العمل به على الصحيح ولهذا قال الشافعى رحمة الله عليه فى حديث "لاؤصية لوارث" انه لا يثبته اهل الحديث، ولكن العامة تلقة بالقبول، و عملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية . (۲)

(۱) فتح التدبر لابن الہمام ۳۴۹:۲، کتاب الطلاق، بحث طلاق الامة

(۲) فتح المفت للسعادی ۲۶۸:۱

جب امت کسی ضعیف حدیث کو بالعموم قبول کر لے تو درست قول کے مطابق اسکی حدیث پتہ عمل ضروری ہوگا، اس لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ "لا وصیۃ لوارث" وآلی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محدثین اس کی سند کو صحیح نہیں مانتے، لیکن امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور انہیں پر عمل پیرا ہیں، یہاں تک کہ اس حدیث کو آیت و میت کے لئے نائج قرار دیا ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث "من جمع بین الصلاتین من غير عذر فقد أتى ببابا من ابواب الكبانر" کے بارے میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

الحادیث اخر جهہ الترمذی، و قال: حسن، ضعفه احمد و
غیرہ، و العمل على هذا الحادیث عند اهل العلم، فأشار
بذلك ان الحادیث المتضد بقول اهل العلم، وقد غير
واحد بان من دلیل صحة الحادیث قول اهل به، و ان لم
یکن له اسناد یعتمد مثله . (۱)

اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور حسن قرار دیا ہے، اور امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے، تو اس سے اشارہ ملا کہ یہ حدیث اہل علم کے قول کے باعث مضبوط ہوئی، جبکہ متعدد محدثین نے اس بات کی تقریب کی ہے کہ حدیث کی صحت کے دلائل میں ایک یہ بھی ہے کہ اہل علم کا عمل اس پر ہو، اگرچہ اس کی سند ایسی ہو جو قابل اعتماد نہ ہو۔

بہر حال! جمہور علماء کا بیان الکالی بالکالی کی حرمت پر اتفاق ہے۔ اکثر فقہاء نے اس کو بیع الدین بالدین سے تعبیر کیا ہے، یہاں تک بعض حضرات نے تو اس کے منوع ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اس بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، تاہم اس بات پر اجماع ہے کہ بیع الدین بالدین جائز نہیں ہے (۱) لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجماع بیع الدین بالدین کی بعض صورتوں کے ناجائز ہونے پر ہے، مثلاً: عقد سلم میں تین دن سے زیادہ رأس المال کی ادائیگی کو موخر کرنا، یا مسلم فیہ کو رأس المال سے زائد قیمت پر تبدیل کرنا۔

مالکیہ نے بیع الدین بالدین کی بعض صورتوں کو جائز قرار دیا ہے، نیز ان تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی کچھ قسموں کو جائز قرار دیا ہے (۲) چونکہ ہماری اس تحقیق کا تعلق ان صورتوں سے نہیں ہے، لہذا اس موضوع پر اتنی ہی گفتگو پر ہم اکتفاء کرتے ہیں۔

(۲) مدیون سے دین کی بیع کرنا

ذین کی بیع کی دوسری صورت یہ ہے کہ ذین کی بیع اسی مدیون سے موجودہ قیمت پر کی جائے، اس صورت کو فقہاء کرام "بیع الدین ممن هو عليه" سے تعبیر کرتے ہیں، اور جمہور فقہاء کے ہاں یہ بیع جائز ہے۔ چنانچہ علماء کاسانی رحمۃ اللہ

(۱) فیض القدیر للمناوی ۳۲: ۶

(۲) دیکھئے: الدسوقي على الشرح الكبير، ۱۹۵: ۳، ۱۹۷: ۱۹۰، دار الفکر بيروت، اعلام المؤمنين.

(۳) اور دیکھئے: الغرور و آثره في العقود، للشيخ الدكتور الصديق محمد أمين الضميري ۳۸۸: ۲

علیہ فرماتے ہیں کہ :

و یجحوز بیعه (یعنی الدین) ممن علیہ، لأن المانع هو
العجز عن التسلیم، ولا حاجة الى التسلیم هنا، و نظیره
: بیع المغصوب أنه یصح من الغاصب، ولا یصح من
غیره اذا كان الغاصب منکراً، ولا بینة للمالك . (۱)

دین کی بیع اس شخص سے جائز ہے جس شخص پر دین ہے، کیونکہ دین کی بیع سے
جو اجاز سے مانع اس کی پر دگی سے عاجز ہونا تھا، اور مدیون سے بیع ہونے کی صورت
میں پر دگی کی ضرورت ہی نہیں رہیگی، اس کی نظریہ ہے کہ شیء مغصوب کی بیع غاصب
سے کرنا درست ہے، غاصب کے علاوہ کسی اور سے بیع کرنا اس وقت درست نہیں جبکہ
غاصب غصب سے انکار کر دے، اور مالک کے پاس کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔

یہ بات مخفی نہیں کہ مدیون سے دین کی بیع کی صورت میں بھی ان تمام شرائط
کا پایا جانا ضروری ہے جو عام بیع کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہیں، مثلاً یہ کہ بیع
کے جائز ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ بیع بالائے کے قبضہ میں ہو، یہ شرط دین کی بیع
میں بھی پائی جانی ضروری ہے، اسی وجہ سے مسلم فیہ کی بیع رب اسلام کے قبضہ کرنے
سے پہلے مسلم الیہ سے کرنا جائز نہیں، اسی لئے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”ولا یجحوز بیع المسلم فیه، لأن المسلم فیه میبع، ولا

یجحوز البیع قبل القبض“ (۲)

یعنی مسلم فیہ کی بیع جائز نہیں، اس لئے کہ مسلم فیہ میبع ہے (اور اس پر ابھی تک

(۱) بدائع الصنائع ، جلد: ۵ صفحہ نمبر : ۱۴۸

(۲) بدائع الصنائع ، جلد: ۵ صفحہ: ۱۴۸

تغذیہ نہیں ہوا) اور قبضہ سے پہلے اس چیز کی بیع جائز نہیں۔

اور امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و ان کان الدین غیر مستقر، نظرت، فان کان مسلماً
فیه لم یجز بیعه، لما رویَ أن ابن عباس رضي الله تعالى
عنهمَا مثُل عن رجل أسلف فی حلل دقادِ، فلم یجد
تلک الحلال، فقال آخذ منك مقام کل حلة من الدقادِ
حلتين من الحلال، فکرھہ ابن عباس رضي الله تعالى
عنهمَا. (۱)

اگر دین غیر مستقر ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دین "مسلم نی" ہے تو
اس کی بیع جائز نہیں، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله تعالى عنہما سے
مردی ہے کہ ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے باریک
پکڑے کے جوڑوں کی بیع سلم کی تھی، اس کے بعد بازار میں ایسے جوڑے نہیں
ملے، تو بیع سلم کرنے والے شخص نے کہا کہ میں ایک باریک جوڑے کے بد لے دو
جوڑے "حیل" کے لوں گا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله تعالى عنہما نے اس
عقد کو ناپسند فرمایا۔

اسی طرح دین اور اس کا عوض دونوں اموال ربویہ میں سے ہوں تو ان کے
درمیان بیع کے جائز ہونے کے لئے وہی شرط ہوگی جو اموال ربویہ میں ایک کا
دوسرے سے بجاولہ کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے دین میں
سے کچھ کم کرنے کی شرط پر دین مؤصل کو مغل سے بدلتے سے منع فرمایا ہے۔

جیسا کہ یہ مسئلہ ”ضع و تعجل“ کے بیان میں تفصیل سے آچکا ہے۔ (۱)
 اسی طرح اگر مدیون دائن سے دین موڈل کو زیادہ قیمت دے کر خرید لے تو
 یعنی ربا ہو گا، کیونکہ یہ صورت عقد کی طرح ہو جائے گی جس میں دائن مدیون سے
 کہہ کر ”انقضیٰ ام تربی“ کیا دین ادا کرتے ہو؟ یا اس کو بڑھاتے ہو؟ (یعنی یا تو
 فی الحال دین ادا کرو، ورنہ اس کی مقدار کو ہزار سے گیارہ سورو پے کرو) ایسے عقد کی
 حرمت قرآن کریم میں نازل ہو چکی ہے۔

لیکن ”بیع الدین ممن علیہ الدین“ کے جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
 مدیون دائن سے یہ کہے کہ ”تمہارا جو دین میرے اوپر ہے، اس کے بدلت تم مجھ
 سے یہ کپڑا خرید لو“ یا دائن مدیون سے یوں کہے کہ ”میرا دین جو تمہارے ذمے
 ہے، وہ دین تمہارے اس کپڑے کے عوض فروخت کرتا ہوں“ جبکہ فقهاء کے
 نزدیک اس طرح کا عقد جائز ہے۔

مدیون کے علاوہ دوسرے کو دین فروخت کرنا

”بیع الدین“ کی تیسرا صورت یہ ہے کہ دائن اپنادین مدیون کے علاوہ کسی
 تیسرا شخص کو فروخت کرے، اس صورت کے بارے میں فقهاء کے درمیان
 اختلاف ہے، احناف، حنابلہ اور ظاہریہ اس طرف گئے ہیں کہ ”بیع الدین من غير
 من علیہ الدین“ جائز نہیں، چنانچہ امام محمد بن حسن شیعیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

(۱) ”ضع و تعجل“ پر تفصیلی بحث ”فقیٰ مقالات، جلد اول، صفحہ ۱۰۰، پر قطۇن پر خرید و فروخت کی بحث میں

گزرو چکی ہے۔

لا ينبعى للرجل اذا كان له دين ان يبيعه حتى يستوفيه،
لأنه غرر، فلا يدرى ليخرج أم لا يخرج . (۱)
اگر کسی شخص کا دوسرے کے ذمے دین ہو، تو اس کے لئے اس دین کو اس
وقت تک فروخت کرنا مناسب نہیں، جب تک اس دین کو وصول نہ کر لے، اسلئے کہ
ایسے دین کو فروخت کرنا غرر (غیر یقینی صورت حال) ہے، اس لئے کہ وہ خود نہیں جانتا
کہ وہ اس دین سے نکل سکے گا نہیں (دین وصول بھی ہو گا یا نہیں)

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و لا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين، لأن الدين
اما ان يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة، واما ان
يكون عبارة عن فعل تمليك المال و تسليمه، و كل
ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع، ولو شرط
التسليم على المديون لا يصح ايضاً، لأنه شرط التسليم
على غير البائع، فيكون شرعاً فاسداً فيفسد البيع . (۲)
مدیون کے علاوہ دوسرے کو دین فروخت کرنے کی صورت میں وہ بیع منعقد
نہیں ہوگی، کیونکہ دین سے مراد یا قومال حکمی ہے جو مدیون کے ذمے ہے، یادیں
سے مراد مال کا مالک بنانے اور اس کے پرداز کرنے کا فعل ہے، اور یہ
 دونوں چیزیں باائع کے حق میں غیر مقدور التسلیم ہیں۔ اور اگر مال پرداز کرنے کی شرط
 مدیون پر لگادی جائے تو یہ بھی درست نہیں، اس لئے کہ یہ باائع کے علاوہ دوسرے

(۱) الموطأ لامام محمد رحمة الله عليه، باب الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل فيبيمه،

صفحة: ۳۰۴

(۲) بدائع الصنائع، جلد: ۵، صفحہ: ۱۴۸

پر تسلیم کی شرط لگانا ہو جائے گا، لہذا یہ شرط فاسد ہوگی، اور شرط فاسد ہونے کی وجہ سے بیع بھی فاسد ہو جائے گی۔

قاضی ابوالعلی حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و اختلف فی بیع الدین ممن هو علیه، فنقل ابو طالب
المنع: و نقل منه جواز ذلك، ولا تختلف الروایة انه لا
یجوز بيعه من غير من هو فی ذمته، وجه الاولی، انه بیع
دین قبل قبضه، فلم یصح، كما لو باعه من غير من هو
علیه، وجه الثانية أنه اذا باعه ممن هو علیه فقد حصل
القبض فيه، فيجب ان یصح و یفارق هذا اذا باعه من
غيره أنه لا یصح، لأنه قد لا یتمكن من استیفاءه ممن هو
علیه، فیتعدّر تسليم المبيع، فلهذا الم یصح . (۱)

مدیون ہی سے دین کی بیع کے بارے میں فقهاء کا اختلاف ہے، چنانچہ ابو طالب نے عدم جواز کو نقل کیا ہے، اور انہی سے اس کا جواز بھی منقول ہے، البتہ اس بارے میں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ جس کے ذمہ دین ہے، اس کے علاوہ دوسرے سے اس دین کی بیع کرنا جائز نہیں۔ جہاں تک عدم جواز والی روایت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بیع ”بیع قبل القبض“ ہے، اور ”بیع قبل القبض“ درست نہیں، جیسا کہ اس شخص سے دین کی بیع کرنا درست نہیں جس پر دین نہیں ہے۔ جہاں تک جواز والی روایت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دین اسی شخص کو فروخت کر دیا جس کے ذمہ دین تھا، تو بیع ہوتے ہی بقہہ حاصل

ہو گیا، لہذا اس بیع کا صحیح ہونا ضروری ہے، ہاں اگر اس دین کی بیع کسی دوسرے سے کرو دی تو وہ درست نہیں، اس لئے کہ جس پر دین ہے اس سے وصول کرنا مشتری کے لئے ممکن نہیں، لہذا بیع کی پسروگی معدود رہ گئی، اس وجہ سے یہ بیع درست نہیں۔
علامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وهو
الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنهم:
يصح، قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى، وقد
شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك، وهو الورق
ونحوه فان كان الدين نقداً، أو بيع بندولم يجز بلا
خلاف، لأنه صرف بنسية، وان بيع بعرض وقبضه فى
المجلس ففيه روایتان، عدم الجواز، قال الإمام أحمد :
وهو غزو، والجواز . نص عليها فى روایة حرب وحنبل
و محمد بن حكم . (۱)

یعنی دین مستقر کو مددیون کے علاوہ دوسرے کو فروخت کرنا جائز نہیں، یہی صحیح
نہ ہب ہے، اور اصحاب (خاتمه) کی یہی رائے ہے، اور ان سے ایک روایت یہ
ہے کہ یہ بیع درست ہے، یہ بات شیخ تقى الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور مصنف
رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ”دستاویز“ کی بیع کے مسئلہ کو بھی شامل ہے
پس اگر دین نقد ہو، یا اس دین کو نقد کے ذریعہ فروخت کیا جائے تو یہ
بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ یہ ”بیع صرف“ نسیہ ہے، اور اگر دین کو سامان کے عوض

(۱) الانصاف للمرداوی، جلد: ۵ ، صفحہ: ۱۱۲، نیز دیکھئے: التروع الابن مفلح، جلد: ۴

فروخت کیا جائے، اور مجلس عقد کے اندر ہی سامان پر قبضہ کر لیا جائے تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت عدم جواز کی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں غرر ہے، اور دوسری روایت جواز کی ہے، حرب، خبل اور محروم حکم کی روایت میں جواز کی صراحت موجود ہے۔

علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جواہل ظواہر میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں :

لا يحل بيع دين يكون لانسان على غيره، لا بندق، ولا بدین، لا بعين، ولا بعرض، كان بيته او مقراً به أو لم يكن، كل ذلك باطل برهان ذلك أنه بيع مجھول و ما لا يدرى عينه، وهذا هو أكل مال بالباطل، وهو قول الشافعى، وروينا عن طريق وكيع، نازكريا بن أبي زائدة قال: مثيل الشعبي عن اشتري صكًا فيه ثلاثة دنانير بشرب؟ قال: لا يصلح، قال وكيع: و حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: هو غرر^(۱).

یعنی اگر کسی انسان کا دوسراے انسان پر دین ہو تو اس دین کی بیع کسی طرح بھی جائز نہیں، نہ تو نقد کے عوض، نہ دین کے عوض، نہ کسی عین کے عوض، نہ سامان کے عوض، چاہے اس دین کا ثبوت بینہ کے ذریعہ ہوا ہو، یا اقرار کے ذریعہ ہوا ہو، یا نہ ہوا ہو، یہ بیع ہر طرح سے باطل ہے..... دلیل اس کی یہ ہے کہ مجھول شئی کی بیع ہے، اور اس کے عین کے بارے میں معلوم نہیں، یہ باطل طریقے سے مال کھانے کی طرح

ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، امام وکیع کے طریق سے مروی ہے کہ امام شعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے پانی کے عوض ایسی دستاویز خریدی جس میں تین دینار تھے، آپ نے جواب دیا کہ ایسا کرنا لمحک نہیں۔ اور سفیان عن عبد بن ابی المفر کے طریق سے مروی ہے کہ امام شعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ غرر ہے۔

پھر جن فقہاء نے دین کی بیع کو غیر مدیون سے کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ بیع کو بیع کے طریقے پر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر دین کی منتقلی غیر مدیون کی طرف "حوالہ" کے طریقے پر ہوتی یہ صورت تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے، اور بیع اور حوالہ کے درمیان فرق مذهب حنفیہ میں بالکل ظاہر ہے، کیونکہ فقہاء حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر حال علیہ کے مفلس ہونے کے نتیجے میں، یا حال علیہ کے حوالہ سے انکار کرنے کے نتیجے میں "حوالہ" ضائع ہو جائے، اور بینہ اور ثبوت موجود نہ ہو تو اس صورت میں محتال (اصل دائن) کے لئے جائز ہو گا کہ وہ دین کی وصولی کے لئے محیل (اصل مدیون) سے رجوع کرے۔ (۱)

لیکن اگر مدیون اپنادین فروخت کر دے تو گویا کہ اس نے دین خریدنے والے کو تمام حقوق اور تمام خطرات میں اپنی جگہ پر لاکھڑا کر دیا، لہذا اگر بعد میں اصل مدیون مفلس اور قلاش ہو جائے، یا اصل مدیون دین سے ہی انکار کر دے تو اب مشتری دین فروخت کرنے والے کی طرف رجوع نہیں کرے گا (کیونکہ وہ بری الذمہ ہو چکا) بس تینیں سے دین کی بیع کے نتیجے میں اس دھوکہ کا تحقیق ہو گیا،

جس کی بنیاد پر فقہاء نے دین کی بیع سے منع فرمایا ہے، جبکہ "حوالہ" کی صورت اختیار کرنے میں اس دھوکہ کا تحقیق نہیں ہو گا، اس لئے کہ حوالہ میں حال علیہ کے مفاسد ہو جانے یادِ دین سے انکار کی صورت میں وائے محیل سے اپنے دین کے لئے رجوع کر سکتا ہے۔

جہاں تک حنبلہ کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک محتال (اصل دائن) محیل (اصل مدیون) سے دین کے لئے کبھی بھی رجوع نہیں کر سکے گا، اگرچہ محتال علیہ مفاسد ہو جائے، یادِ دین کا انکار کر دے، لیکن اگر عقد حوالہ میں محتال، محتال علیہ کے مالدار ہونے کی شرط لگائے، اور اسی بنیاد پر وہ حوالہ کو قبول کرے، بعد میں محتال علیہ کا تنگ دست ہونا ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں محتال کو یہ حق ہو گا کہ وہ اپنے دین کی وصولی کے لئے محیل سے رجوع کرے (۱) اسی وجہ سے ان کے نزدیک بیع الدین اور حوالہ کے درمیان فرق ہے کہ "بیع الدین" جائز نہیں، اور "حوالہ" جائز ہے، اور یہ فرق دو اعتبار سے ہے :

اوّلاً : یہ کہ دین کی بیع میں مختص عقد کرتے ہی دین مشتری کی طرف منتقل ہو جائے گا، جبکہ دین کا حصول مشتری سے یقینی نہیں، لہذا مختص عقد ہی کے نتیجے میں "غیر" لازم آجائے گا، اس وجہ سے دین کی بیع جائز نہیں، لیکن اگر ایک شخص نے کوئی چیزیں کے عوض فروخت کی، اور ان پر باائع نے قبضہ نہیں کیا، اور اب مشتری نے یہ چاہا کہ وہ باائع کو اپنے مدیون کی طرف حوالہ کر دے تو مشتری کے لئے ایسا کرنا اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک مدیون اس حوالہ پر راضی نہ ہو، اور صرف اس عقد

حوالہ کے نتیجے میں بالائی کی طرف دین مستقل نہیں ہوگا، اسی لئے یہ جائز ہے کہ بالائی حوالگی پر راضی نہ ہو۔ لہذا حوالگی میں کوئی غرر نہیں، اس لئے عقد حوالہ جائز ہے، اور بالائی کی رضامندی سے مستقل عقد کے ذریعہ حوالہ منعقد ہو جائے گا۔

ثانیاً : یہ کہ جب محتال نے محتال علیہ کے مالدار ہونے کی شرط پر حوالہ قبول کر لیا، بعد میں ظاہر ہوا کہ محتال علیہ تنگ دست ہے، تو اس صورت میں محتال کے لئے جائز ہے کہ اپنے دین کے لئے محل سے رجوع کرے، جبکہ ”بعض الدین“ میں یہ سہولت میسر نہیں۔

غیر مددیوں سے دین کی بیع کے بارے میں مالکیہ کا مذہب مالکیہ کے نزدیک بھی اصولاً تومدیوں کے علاوہ کسی اور کو دین کی فروخت جائز نہیں ہے، البتہ اگر چند شرائط پائی جائیں تو مددیوں کے علاوہ کسی اور کو بھی دین فروخت کرنا جائز ہو جاتا ہے، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیرے فریق (Third Party) کو دین فروخت کرنے کے احکام کا خلاصہ پیش فرمایا ہے :

و منع بیع دین علی المائب، ولو قربت غیثتہ، او ثبت بیسنۃ و علم ملزہ، بخلاف الحوالۃ علیہ فانها جائزۃ، و منع بیع دین علی حاضر و لو بیسنۃ الا ان يقر، و الدين مما يیاع قبل قبضه، و بیع بغیر جنسه و ليس ذهبًا بفضلہ، ولا عکسہ، و ليس بين مشتریه و من علیہ عداوة، ولا قصد اعناته، فلا بد من هذه الخمسة شروط لجواز بیعه زیادة علی قوله ”یقر“ . (۱)

مدیون کی عدم موجودگی کی صورت میں دین فروخت کرنا منع ہے، چاہے وہ کم مدت کے لئے نہیں گیا ہوا ہو، یادیں گواہی سے ثابت ہوا ہو، اور چاہے اس کی متحكم مالی حالت کا بھی علم ہو، البتہ غیر موجود شخص کی طرف دین کا حوالہ کیا جاسکتا ہے، وہ جائز ہے، اسی طرح مدیون کے موجود ہونے کی صورت میں بھی دین فروخت کرنا منع ہے، چاہے دین باقاعدہ گواہی سے ثابت ہو، لیکن اگر مدیون خود دین کا اقرار کرے، بشرطیکہ دین ایسی کوئی چیز ہو جس کو قبضہ سے پہلے بھی فروخت کیا جاسکتا ہے، اور فروخت دین کی خلاف جنس (Heterogeneous) چیز کے عوض کیا جائے، سونے کے دین کی فروخت چاندی کے بدلتے یا چاندی کے دین کی سونے کے بدلتے نہ ہو، نیز دین خریدنے والے اور اصل مدیون (Debtor) کے درمیان دشمنی نہ ہو، نہ دین کی فروخت کا مقصد مدیون کو کسی طرح نگ کرنا ہو، تو مدیون کے اقرار کی شرط کے علاوہ ان مذکورہ بالا پانچ شرائط کے اضافے کے ساتھ (تیسرا فریق کو) دین فروخت کرنے کی اجازت ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مالکیہ کے زد دیک مددیون کے علاوہ کسی اور کو دین کی فروخت کے جائز ہونے کے لئے درج ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے :

- ۱) مدیون موجود ہو، کہیں سفر وغیرہ پر گیا ہوا نہ ہو۔
- ۲) مدیون یہ اقرار کرتا ہو کہ اس کے ذمہ دین ہے۔
- ۳) دین کسی ایسی چیز کا ہو جس کو قبضہ میں لائے بغیر فروخت کرنا جائز ہے، مثلاً اگر گندم دین ہے، تو اس دین کو فروخت کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ قبضہ میں لائے بغیر گندم کی فروخت منع ہے۔

(۳) دین کی فروخت کسی ایسی چیز کے عوض ہو جو اس کی جنس سے تعلق نہ رکھتی ہو، چنانچہ اگر دین دراہم کا تھا، اور فروخت بھی دراہم سے ہو تو جائز نہیں، علامہ دسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر عوض ہم جنس ہو تو فروخت کے جائز ہونے کے لئے دین اور اس عوض کی مقدار میں برابری شرط ہوگی۔ (۱)

(۴) سونے کے دین کی فروخت چاندی کے بد لے (باوجود خلاف جنس ہونے کے) یا چاندی کے دین کی فروخت سونے کے بد لے جائز نہیں ہے، اس لئے کہ سونے ملور چاندی کا یا ہمی تباولہ "صرف" ہے، اور ایک کے دین ہونے کی وجہ سے دو طرفہ قبضہ کی شرط پوری نہیں ہوگی۔

(۵) مدیون اور دین خریدنے والے کے درمیان دشمنی نہ ہو، یہ شرط اس لئے لگائی گئی ہے تاکہ دین فروخت کرنے کے ذریعہ کوئی مدیون کے دشمن کو اس پر مسلط کر کے ٹھنگ نہ کرے۔ ان مذکورہ بالا شرطوں پر دسوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مزید شرطوں کا اضافہ فرمایا ہے :

(۱) ٹھن (قیمت) (نقد) ہو، ادھار نہ ہو، بالکل بنیادی شرط ہے تاکہ معاملہ کے دونوں عوض دین نہ ہو جائیں اس کے منع ہونے پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔

(۲) مدیون کوئی ایسا شخص ہو جس پر قوانین کا اطلاق ہوتا ہو تاکہ اگر وہ اداگی میں پس و پیش کرے تو بذریعہ عدالت حق وصول کیا جاسکے۔

شافعیہ کا مذہب

”بیع الدین من غیر من علیه الدین“ کے معاملے میں مذہب شافعیہ میں

متفق روایتیں ہیں، چنانچہ علام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اعلم ان الاستبدال بیع لمن علیه دین، فاما بیعه لغيره،
کمن له علی انسان مائة، فاشترى من آخر عبدا بتلك
المائة، فلا يصح على الأظهر، لعدم القدرة على
التسليم، وعلى الثاني : يصح بشرط ان يقبض مشترى
الدين ممن علیه، و ان يقبض باائع الدين العوض في
المجلس، فان تفرقا قبل قبض احدهما ببطل العقد، قلت:
الأظهر الصحة . (۱)

یعنی جس شخص پر دین ہے اس سے دین کے عوض کسی چیز کا تادله کرنا بیع کے حکم میں ہے، لیکن غیر مدین سے دین کی بیع کرنا، مثلاً ایک شخص کا دوسرا پرسو رو پر کا دین تھا، واگن نے اس سورو پر کے عوض کسی اور شخص سے ایک غلام خرید لیا، تو اظہر قول کے مطابق یہ بیع درست نہیں، اس لئے کہ مشتری کو سورو پر باائع کے حوالے کرنے پر قدرت نہیں، البته دوسری روایت یہ ہے کہ یہ بیع اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ مشتری مجلس میں مدین سے دین وصول کر لے، اور باائع الدین مجلس کے اندر عوض یعنی غلام پر قبضہ کر لے، لیکن اگر دونوں کسی ایک پر قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہو جائیں تو یہ عقد باطل ہو جائے گا، میں کہتا ہوں کہ اظہر قول یہ ہے کہ یہ

عقد درست ہے۔

امام بغوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اما اذا باع الدين من غير من عليه، مثل ان كان له على زيد عشرة دراهم، فاشترى من عمرو ثواباً بتلك العشرة، أو قال العمرو : بعتك العشرة التي في ذمة زيد لى بشوبك هذا، فاشترأه عمرو، فالمنذهب انه لا يجوز، لأنه غير قادر على تسليمه، وفيه قول آخر: أنه يجوز على حسب ما يجوز من عليه، فإلى هذا يشترط ان يقبض مشتري الدين مممن عليه، وبائعه يقبض العوض في المجلس، حتى لو تفرقا قبل قبض احدهما بطل . (۱)

لیکن اگر دین کی بیع مدیون کے علاوہ کسی دوسرا سے کی، مثلاً زید کے ذمے دس دراهم کا دین تھا، وائے نے دس دراهم دین کے عوض عمرو سے کپڑا خرید لیا، یاداں نے عمرو سے کہا کہ زید کے ذمہ جو میرا دس دراهم کا دین ہے، وہ دین تمہارے اس کپڑے کے عوض تمہیں فروخت کرتا ہوں، عمرو نے وہ دین خرید لیا، تو اصل مذہب میں یہ عقد جائز نہیں، کیونکہ وہ اس دین کی تسلیم پر قادر نہیں ہے..... اس عقد کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ جس پر دین ہوا اس کو دین کی بیع کے جائز ہونے کے مطابق یہ بیع بھی جائز ہے، بشرطیکہ دین کا مشتری مدیون سے دین وصول کر کے مجلس میں قبضہ کر لے، اور بائع الدين مجلس کے اندر ہی عوض پر قبضہ کر لے، لہذا اگر دونوں عائدین کسی ایک عوض پر قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہو گئے تو عقد باطل ہو جائیگا۔

شرح المهدب میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں :

فاما بیعه لغیره، کمن له علی رجل مائة، فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة، ففي صحته قولان مشهوران : أصحهما، لا يصح، لعدم القدرة على التسليم، و الثاني يصح، بشرط ان يقبض مشتري الدين الدين من هو عليه، و ان يقبض باائع الدين العوض في المجلس، فان تفرقا قبل قبض احدهما بطل العقد . (۱)

جہاں تک غیر مدیون سے بیع کرنے کا معاملہ ہے، جیسے مثلاً ایک شخص کے دوسرے کے ذمے سوداہم تھے، اس شخص نے ان سوداہم کے عوض کسی دوسرے شخص سے ایک نلام خرید لیا، اس عقد کے صحیح ہونے نہ ہونے کے بارے میں دو قول مشہور ہیں، ان دونوں میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ عقد درست نہیں، اس لئے کہ اس عقد میں سوداہم پرورد کرنے پر مشتری کو قدرت حاصل نہیں..... دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عقد اس شرط کے ساتھ صحیح ہے کہ دین کا خریدار مجلس ہی میں "ممن علیہ الدین" سے دین وصول کر کے اس پر قبضہ کر لے، اگر مجلس میں کسی ایک عوض پر قبضہ کرنے سے پہلے دونوں جدائو جائیں تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔

مندرجہ بالا نصوص کا خلاصہ یہ ہے کہ شوانع کے نزدیک دین کی بیع غیر مدیون سے جائز نہیں، مگر اس وقت جب کہ مشتری الدين مجلس عقد کے اندر ہی مدیون سے دین وصول کر کے اس پر قبضہ کر لے۔ حقیقت میں یہ شرط دین کی بیع کے

عدم جواز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس لئے کہ جب مجلس میں دین پر قبضہ کرایا گیا تو اب دین ہی باقی نہ رہا، شاید اسی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے "منہاج الطالبین" میں صرف عدم جواز کا قول ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا:

و بیع الدین لغير من عليه باطل فی الأظہر بأن الشتری
عبد زید بمائة له على عمره . (۱)

دین کی بیع غیر مدیون سے کرنا اظہر قول کے مطابق باطل ہے، مثلاً یہ ہے کہ زید ان سودراہم کے عوض ایک غلام خریدے جو سودراہم عمر پر دین ہیں۔ لیکن بہت سے علماء شافعیہ نے اس شرط کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ خود علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے "مہذب" کے متن میں اس شرط کا ذکر نہیں کیا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

و هل يجوز من غيره ؟ في و جهان ، أخذهم يجوز ، لأن
ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره ، كاللوديعة ، و
الشانی : لا يجوز ، لأنه لا يقدر على تسليمه اليه ، لأنه
ربما منعه او جحده ، و ذلك غرر لاحاجة به اليه ، فلم
يجز ، والأول أظہر ، لأن الظاهر انه يقدر على تسليمه
اليه ، من غير منع ولا جحود . (۲)

کیا غیر مدیون سے دین کی بیع جائز ہے؟ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ بیع جائز ہے، اس لئے کہ جب دین کی بیع ممن عليه الذین سے

(۱) منہاج النووی مع مفہی السجتان، جلد: ۲، صفحہ: ۷۱

(۲) المہذب مع المجموع، جلد: ۹، صفحہ: ۲۹۷

جاائز ہے، تو من علیہ الدین کے غیر سے بیع جائز ہے، جیسے ودیعت رکھنا، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ بیع جائز نہیں، اس لئے کہ دائیں اس کی پسروگی پر قادر نہیں، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ مدینوں ادا میگی سے منع کر دے، یادیں ہی کا انکار کر دے، لہذا اس کے اندر غرز پایا جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے یہ بیع جائز نہیں، لیکن پہلا قول (جو ازا والہ) اظہر ہے، اس لئے کہ ظاہر یہ ہے کہ دائیں منع اور حجود کے بغیر اس کی پسروگی پر قادر ہے۔

اور علامہ شریفی الخطیب رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قول پر اعتماد کے بعد فرماتے ہیں
و صرح فی اصل الروضۃ کا لیغوی باشراط قبض
العواوضین فی المجلس، وهذا هو المعتمد، و ان قال
المطلب: مقتضی کلام الاکثرین بخلافه۔ (۱)

علامہ بنوی کی طرح اصل الروضہ میں مجلس عقد پر عوضین پر قبضہ کرنے کی شرط کی صراحت فرمائی ہے، اور یہی بات معتقد ہے، اگرچہ مطلب نے فرمایا کہ اکثر علماء کے کلام کا مقتضی اس بات کی مخالفت کرتا ہے۔

شوافع کی کتابوں میں غور کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اکثر علماء "بیع الدین من غير من علیہ الدین" کے مطلق عدم جواز کی طرف گئے ہیں، اور جو حضرات جواز کی طرف گئے ہیں انہوں نے بھی مجلس عقد میں قبضہ کرنے کی شرط لگائی ہے، اور جن حضرات نے اس شرط کے بغیر جواز کا ذکر کیا ہے، جیسے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یا تو ان کے مطلق کلام کو اس قید پر محول کیا جائے گا جو قید

(۱) مفتی المحتاج، جلد: ۲، صفحہ: ۷۱، علامہ رفیٰ نے نہایۃ المحتاج میں اسی طرح ذکر فرمایا ہے، جلد: ۴، صفحہ: ۹۰

دوسرے حضرات نے لگائی ہے، یا اس کو "قول ثالث" شمار کیا جائے گا۔ بعض حضرات نے مندرجہ بالا دونوں قولوں کے درمیان تطبیق کرتے ہوئے فرمایا کہ جن حضرات نے مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنے کی شرط لگائی ہے اس کا محل وہ عقد ہے جس میں دین اور اس کا عوض اموال ربویہ میں سے ہوں۔ اور جن حضرات نے شرط کے بغیر مطلقاً جواز کا فتویٰ دیا ہے اس کا محل وہ عقد ہے جب عوضین اموال ربویہ میں سے نہ ہوں، دونوں قولوں کے درمیان یہ تفریق اچھی صورت ظاہر کرتی ہے، لیکن علامہ شریفی اور علامہ رفیع رحمۃ اللہ علیہمہ نے اس تفریق کی بنیاد کو اس طرح کر دیا ہے کہ ان حضرات نے جواز کے لئے قبضہ کی شرط لگانے کے بعد مال غیر ربوی کی مثال لئے ہیں، یعنی غلام کی مثال بیان کی ہے۔

موجودہ دور کی مالی دستاویزات

دین کی بیج سے متعلق فقہی احکام سے بحث کرنے کے بعد اب ہم ان "مالی دستاویزات" کی طرف آتے ہیں جو موجودہ منڈیوں میں رائج ہیں، اور ان کا شرعی حکم بیان کریں گے۔ ان "مالی دستاویزات" میں کہنیوں کے شیترز اور "فندز" بھی داخل ہیں، جنہوں نے ایسے عین موجود کی شکل اختیار کر لی ہے، جو کیش نہیں ہیں۔ یہ دونوں "مالی دستاویزات" ہماری اس بحث کے موضوع سے خارج ہیں، اس لئے کہ یہ دونوں دستاویزات قرض اور دین نہیں بن سکتے، اور ہم ان دونوں کا شرعی حکم دوسرے مقالات میں بیان کر پکے ہیں۔ اور اس بحث میں جن مالی دستاویزات کا شرعی حکم بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ دستاویزات ہیں جو حاصل دستاویز کے لئے ان

دستاویز کے جاری کرنے والے پر دین اور قرض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دستاویز بے شمار ناموں سے رانج ہونے کے باوجود ان دستاویزات کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، پہلی قسم "بائڈز" اور دوسری قسم "بل آف ایچنچ" اب ہم ان دونوں قسموں پر تفصیلی تفکوک کریں گے۔

بانڈز (BONDS)

موجودہ دور کی اصطلاح میں "بانڈز" اس دستاویز کو کہا جاتا ہے، جس کو مدیون اپنے دائن کے لئے جاری کرتا ہے، جو مدیون کی طرف سے اس بات کے اعتراض کے لئے ہوتا ہے کہ مدیون نے "بانڈز" کے حامل سے ایک معلوم رقم بطور قرض کے لیے، اور وقت معلوم پر وہ مدیون یہ رقم ادا کرنے کا پابند ہے، عام طور پر یہ "بانڈز" عوام کے سامنے پیش کرنے کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، تاکہ عوام اس "بانڈز" پر تحریر شدہ رقم ادا کر کے یہ "بانڈز" حاصل کر لیں، جس کے نتیجے میں یہ عوام "بانڈز" جاری کرنے والے کے اس رقم کے "قرض خواہ" بن جائیں گے۔
 یہ "بانڈز" بعض اوقات "تجارتی شرکت دار کپنیاں" یا "صنعتی کپنیاں" اس وقت جاری کرتی ہیں، جب ان کپنیوں کو کسی منصوبہ کی تھیکیں کے لئے بڑی رقم کی بطور قرض ضرورت ہوتی ہے، اور ان کپنیوں کو ایسے افراد اور ادارے میسر نہیں آتے جو ان کپنیوں کو ان کی مطلوبہ رقم بطور قرض کے دے سکیں۔ اس لئے کپنیاں یہ "بانڈز" عوام پر پیش کرتے ہیں۔

بعض اوقات یہ "بانڈز" حکومت کی طرف سے جاری کئے جاتے ہیں،

جب حکومت کو اپنے "بجٹ خارے" کو پورا کرنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ حکومت عوام سے قرض لیتی ہے۔

ان "بائز" کو چاہے کمپنی جاری کرے، یا حکومت جاری کرے، وہ کمپنی اور حکومت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ "حامل بائز" کو سودی نفع ادا کرے، مثلاً اگر ایک بائز کی قیمت سوروپے ہے تو کمپنی اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ایک سال کے بعد "حامل بائز" کو ایک سو سو روپے ادا کرے۔ اور حامل بائز کو یعنی بھی حاصل ہے کہ وہ اس بائز کو بازار میں فروخت کر دے، اور بازار میں یہ بائز اس قیمت پر یعنی اور خریدے جاتے ہیں، جس پر فریقین راضی ہوں۔ اگر ایک شخص نے یہ بائز سوروپے کا حاصل کیا ہے، تو وہ دوسرا شخص کو یہ بائز ایک سو پانچ روپے میں فروخت کر دے گا، اور دوسرا شخص اس قیمت پر وہ بائز خریدے گا، اس لئے کہ اس دوسرا شخص کو یہ امید ہوتی ہے کہ مدت پوری ہونے پر اس بائز پر ایک سو سو روپے حاصل ہو جائیں گے۔

ایک دوسری قسم کے "بائز" بھی ہوتے ہیں، جو حکومت کی طرف سے جاری کئے جاتے ہیں، اور عام طور پر بینکوں اور مالیاتی اداروں کو برائے فروخت پیش کئے جاتے ہیں، جن کو "ٹریشری بائز" کہا جاتا ہے، ان بائز کو جاری کرنے کے مقاصد ہوتے ہیں، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ بائز فروخت کے لئے بینکوں کو پیش کئے جاتے ہیں، تاکہ بینک ان بائز کو نیلامی کی بنیاد پر خرید لیں، لہذا جن بائز کی قیمت مثلاً ایک ہزار روپے ہوتی ہے، تو اس کی مدت پوری ہونے پر حکومت پر لازم ہوتا

ہے کہ وہ اس بانڈ کے حامل کو ایک ہزار روپے ادا کرے، چنانچہ ان بانڈز کو خریدنے کے لئے بینکوں کے درمیان نیلامی ہوتی ہے، اور اسیٹ بینک کو دوسرے بینکوں کی طرف سے پیش کش موصول ہوتی ہے، اور جو بینک اب بانڈز کی زیادہ بولی لگاتا ہے، وہ بانڈز اس بینک کو فروخت کر دیے جاتے ہیں۔

مثلاً بینک "الف" نے یہ پیش کش کی کہ وہ سورپے والے بانڈز توے روپے میں خرید لے گا، اور دوسرے بینک نے یہ پیش کش کی کہ وہ ۹۱ روپے میں یہ بانڈز خرید لے گا، تو اس صورت میں دوسرا بینک ان بانڈز کی خریداری کا مستحق قرار پائے گا۔ اور ان بانڈز کی فروختگی کا مطلب یہ ہے کہ ان بانڈز کو خریدنے والا بینک حکومت کو اتنی رقم بطور قرض دے رہا ہے، اور قرض دینے کے نتیجے میں وہ بینک اس کا مستحق ہوتا ہے کہ مدت آنے پر وہ بینک اس بانڈ کی "فیس ویلیو" یعنی ایک سو روپے حکومت سے وصول کر لے۔

یہ تمام بانڈز بنیادی طور پر سودی ہیں، اس لئے کہ قرض لینے والا (یعنی حکومت) قرض کی رقم اور اضافی رقم ادا کرنے کا التزام کرتا ہے، لہذا ان بانڈز کے تعامل کی حرمت پوشیدہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ حرام سودی معاملے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ حکومت یہ بانڈز کی نفع کے بغیر قرض شرعی کی بنیاد پر جاری کرے تو کیا اس صورت میں ان بانڈز کی نفع جائز ہو گی؟ اس صورت میں یہاں بھی وہی اختلاف سامنے آئے گا جو "نفع الدین" کے جواز کے بارے میں اور پر بیان میں گزر چکا ہے، وہ یہ کہ احلاف، ختابہ اور اہل ظاہر کے نزدیک یہ نفع مطلقاً جائز نہیں، اسی طرح شوافع کے ظاہری مذہب کے مطابق بھی یہ نفع جائز نہیں،

یا تو اس لئے کہ شوافع میں سے اکثریت "بیع الدین من غیر من علیہ الدین" کے ناجائز ہونے میں اختلاف اور حنابلہ کے ساتھ ہیں، یا اس لئے کہ شوافع نے اس بیع کے جائز ہونے کے لئے مجلس کے اندر دین پر قبضہ کرنے کی شرط لگائی ہے، جیسا کہ ہم نے پہچھے میان کیا، اور یہ شرط ایسی ہے کہ ان "باعثز" کی بیع میں اس کا حصول معدوم ہے، لہذا ان باعثز کی بیع ان کے نزدیک جائز نہیں۔

ہاں ایہ بیع ان حضرات کے نزدیک جائز ہے جن حضرات نے دین کی بیع میں مجلس کے اندر دین پر قبضہ کرنے کی شرط نہیں لگائی ہے، لہذا اگر ان سندات کی بیع کی عین کے عوض کی جائے، مثلاً کپڑے کے عوض، یا ملہ کے عوض، یا نقد کے علاوہ کسی دوسری اشیاء کے عوض کی جائے تو اس قول کے مطابق یہ بیع مطلق جائز ہوگی، لیکن اگر نقد کے ذریعہ ان "باعثز" کی بیع ہو تو اس بارے میں مجھے فتحہ امام شافعیہ کے نزدیک کوئی صراحة نہیں ملی۔ لیکن بیع "صرف" پر قیاس کرتے ہوئے یہ بیع ناجائز ہوگی، اس لئے کہ نقد کی بیع نقد سے کرنے کی صورت میں وہ "بیع صرف" ہوگی، اور بیع صرف میں مجلس عقد میں طرفین سے قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان "باعثز" کی بیع کوئی حال کے ذریعہ جائز قرار دیدیں تو گویا کہ ہم نے نقد کی بیع نقد کے ساتھ نہیں کرنے کو جائز قرار دیدیا، جبکہ نقدین کی بیع کے جواز کے لئے مجلس عقد کے اندر طرفین سے قبضہ کرنا ضروری ہے، اور ان "ثیریثری باعثز" میں مجلس عقد کے اندر قبضہ معدوم ہے، لہذا یہ بیع ناجائز نہیں ہوگی۔

جہاں تک مالکیہ کا تعلق ہے، ان کے نزدیک دین کی بیع غیر مذہبیوں کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جائز ہے جو شرائط ہم نے ان کے مذہب کے تحقیق کرتے

ہوئے بیان کیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر دین کی بیج اسی کی جنس سے کی جائے تو اس میں برابری شرط ہے، لہذا اگر باٹلز کی قیمت سوروپے ہے تو اس کو سوروپے سے زائد کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں "اشاک ایچیجن" جس میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ "اشاک ایچیجن" میں ان باٹلز کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ شرعاً حرام ہے، اور عقرب اس مقالہ کے آخر میں اثناء اللدان کے شرعی تبادل پر گفتگو کریں گے۔

بل آف ایچیجن (BILL OF EXCHANGE)

مالی دستاویز کی ایک اور قسم جس کاررواج آج کل بازار میں جاری ہے، "بل آف ایچیجن" کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت ایک دستاویز ہے جو بیع موہبل میں مشتری بالائے کو لکھ کر دیتا ہے، جس میں مشتری کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ بھیج کاٹنے والی تاریخ میں اس کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے، اور بالائے جو "بل آف ایچیجن" کا حال ہے وہ بعض اوقات اس "بل" کی رقم کو تاریخ آنے سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ اس "بل" کو کیش کرنے کی تاریخ کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ بالائے وہ بل کسی تیسرے شخص کو اس میں پر درج شدہ قیمت سے کم قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، اس عمل کو "ڈسکاؤنٹ آف بل" کہا جاتا ہے "اشاک ایچیجن" کا طریقہ کاریہ یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ کی مقدار "بل آف ایچیجن" کی رقم کی نسبت سے اس بل کے کیش کرانے کی مدت کی بنیاد پر مقرر

کی جاتی ہے، اگر اس بل کو کیش کرانے کی مدت زیادہ ہو تو ڈسکاؤنٹ کی مقدار زیادہ ہو گی، اور اگر اس بل کو کیش کرانے کی مدت کم ہو گی یعنی قریب ہو گی تو ڈسکاؤنٹ کی مقدار بھی کم ہو گی۔

اکثر علماء معاصرین نے ”ڈسکاؤنٹ آف بل“ کا حکم دین کی بیع ”اقل نقد“ کے عرض فروخت“ کی بنیاد پر نکالا ہے، اور اس جہت سے اس کی ڈسکاؤنٹ کو حرام قرار دیا ہے۔

نقہاء کرام نے ”بل آف ایچیجن“ بے ملتی جلتی ایک دستاویز کا ذکر کیا ہے، جس کو ”جا مکیم“ (۱) کہا جاتا ہے، یہ دستاویز بیت المال کی طرف سے یا وقف کے نگران کی طرف سے اس شخص کے لئے جاری کی جاتی ہے جس کا کوئی مالی حق بیت المال یا وقف کے ذمہ واجب ہو، علامہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے درختار میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :

و الفتى المصتف (ای صاحب تنویر الابصار) ببطلان بيع
الجامكية لما فيه فى الاشباه : بيع الدين انما يجوز من
المديون .

مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی صاحب تنویر الابصار نے جامکیہ کے باطل ہونے کا

(۱) یہ لفظ ”جا مکیم“ سے مرتب ہے، اور یہ فارسی لفظ ہے، جو ”جاس“ یعنی کپڑا سے مان خواہ ہے، وہ حقیقت یہ لفظ اس اجرہ کیلئے دفع کیا گیا ہے جو کپڑے کی خاصت کرنے والے کو دیجاتی ہے، بعد میں ہر اجرت اور وکیفیت کیلئے یہ لفظ بولا جائے گا (دہ خدا، ج: ۱۲، ص: ۹۷) مجہد میں دو کرشماہی اور دو چینوں کی تجوہ سے اسکی تفسیر کی گئی ہے، اور یہ کہ اسکی اصل ”ترکی“ ہے اور اسکی معنی ”جا مک“ ہے۔

فتوى دیا ہے، اس لئے کہ جیسا کہ اشہاب میں ہے کہ دین کی بیع صرف مدیون سے جائز ہے، اس کے تحت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

عبارة المصنف في فتاواه : مسئل عن بيع الجامكية، وهو
ان يکون لرجل جامكية في بيت المال، ويحتاج الى
درارهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية، فيقول له رجل :
يعنى جامكىتك التي قدرها كذا بکذا، أنقص من حقه
في الجامكية، فيقول له : بعتك، فهل البيع المذكور
صحيح أم لا؟ لكونه بيع الدين بنقد، اجاب : اذا باع
الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح .
قال مولانا في فوائدہ : و بيع الدين لا يجوز، ولو باعه
المديون او وبه . (۲)

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ان کے فتاوی میں اس طرح ہے کہ: جامکیہ کی بیع کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، وہ یہ کہ بیت المال کی طرف سے کسی شخص کے نام کوئی مالی دستاویز ہو، دستاویز کی رقم کیش کرانے کی تاریخ آنے سے پہلے اس شخص کو فوری رقم کی ضرورت ہو، ایک شخص اس سے کہتا ہے کہ یہ دستاویز جو اتنی مالیت کی ہے، اتنی قیمت پر مجھے فروخت کرو۔ وہ قیمت دستاویز پر درج شدہ حق کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ جامکیہ کا حائل شخص اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے یہ دستاویز تمہیں فروخت کی۔ آیا یہ بیع درست ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ یہ دین کی بیع نظر کے عوض ہو رہی ہے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ دین کو غیر مدیون

کے ہاتھ فروخت کیا ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہے، اس لئے یہ بیع درست نہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فوائد میں بیان کیا ہے کہ دین کی بیع جائز نہیں، اگرچہ مدینون کو فروخت کیا ہو، یا اس کو ہبہ کیا ہو۔

کشاف القناع میں امام بہوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

ولا یصح بیع العطاء قبل قبضہ، لأن العطاء مغیب، فيكون من بیع الغرر، وهو ان العطاء قسطه في الديوان، ولا یصح بیع رقعة به، اى بالعطاء، لأن المقصود بیع العطاء لا ہی۔ (۱)

یعنی عطیہ کی بیع قبضہ سے پہلے جائز نہیں، اس لئے کہ قبضہ سے پہلے وہ عطیہ غائب ہے، اور غائب کی بیع ”بیع الغرر“ ہے، اس لئے کہ اس عطیہ کی قسط رجسٹر میں درج ہے، اور اس عطیہ کی رسید کی بیع درست نہیں، کیونکہ مقصود دراصل اس عطیہ غائب کی بیع ہے، وہ رسید مقصود نہیں۔

مندرجہ بالا تحقیق حنفیہ اور حنابلہ کے اصل مذہب کی بنیاد پر ہے، اس لئے کہ یہ حضرات دین کی بیع کو غیر مدینون سے کرنے کو مطلقًا جائز نہیں کہتے۔ اسی بنیاد پر احتجاف اور حنابلہ کے نزدیک ”میل آف ایچینگن“ کی بیع کا حکم نکل آئے گا، وہ یہ کہ ان حضرات کے نزدیک یہ بیع بالکلیہ ناجائز ہے، اگرچہ اس کا شن ”میل آف ایچینگن“ میں درج قیمت کے برابر ہو، اس لئے کہ یہ ”بیع الدین من غیر من هو علیہ“ کی قبیل سے ہے، لہذا یہ بیع جائز نہیں۔ جیسا کہ ”جاکیر“ کی بیع جائز نہیں۔

جہاں تک مالکیہ کا تعلق ہے، جیسا کہ پچھے گزر چکا ہے کہ یہ حضرات دین کی بیع غیر مدیون سے ان شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں، جو سابق میں گزر چکیں، لہذا ان کے قول پر قیاس کے مطابق جامکیہ کی بیع ان کے نزدیک جائز ہے، چنانچہ علامہ حطاب رحمۃ اللہ علیہ اس کی صراحة کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

بخلاف الجامکیہ، فان الملک محصل فیہا لمن حصل له
شرط الواقعف، فلا جرم صح أخذ العوض بها و عنها۔ (۱)

بخلاف جامکیہ کے، کہ اس میں ملکیت اس شخص کو حاصل ہے جس میں واقف کی شرط موجود ہے، لہذا اس میں کوئی مشکل نہیں کہ اس کے بدالے میں کوئی عوض لینا اور اس کو کسی چیز کے عوض میں دینا، دونوں درست ہیں۔

لیکن یہ بات مخفی نہیں کہ مالکیہ کے نزدیک اس بیع کا جواز اس شرط کے ساتھ شروط ہے کہ وہ بیع خلاف جنس کے ساتھ ہو، اور ہم جن کے ساتھ ہونے کی صورت میں برابری اور مساوات ضروری ہے، جیسا کہ امام دسوی کی عبارت میں اس کی صراحة گزر چکی۔

جہاں تک شوافع کا تعلق ہے تو متاخرین شافعیہ نے بیان کیا ہے کہ جامکیہ کے مستحق کے لئے غیر کے حق میں اس سے دست بردار ہونا، اور غیر سے اس کے عوض کا مطالبہ کرنا جائز ہے، چنانچہ علامہ شبرا ملکی رحمۃ اللہ علیہ وظائف سے دست برداری کا جواز ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

و من ذلك الجوامک المقرر فيها، فيجوز لمن له شيء

من ذلك وهو مستحق له بـأأن لا يكون له ما يقـوم
بـكـفايـة من غـير جـهـة بـيت المـال التـزـول عـنـه، وـيـصـير
الـحـال فـي تـقرـير من أـسـقط حـقـه لـه، موـكـولاً إـلـى نـظـر مـن
لـه ولـاـيـة التـقـرـير فـيـه كـالـبـاشـا، فـيـقـرـر مـن رـأـي المـصلـحة
فـي تـقـرـيره مـن المـفـرـغ لـه او غـيرـه . (۱)

لیکن مندرجہ بالا عبارت سے علامہ شبرا ملیسی کا مقصد ”بل آف ایچجنگ“ کی
تیج کی اجازت دینا، یا مامہنہ مقررہ وظیفہ سے دست برداری کی اجازت دینا نہیں، بلکہ
ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہر ماہ بیت المال سے کوئی عطیہ ملتا ہو، تو اس شخص
کے لئے جائز ہے کہ وہ دوسرے شخص کے حق میں اس عطیہ سے ہمیشہ کیلئے دست
بردار ہو جائے، اور اس دست برداری کا معاوضہ اس شخص سے وصول کر لے، لیکن
دوسرًا شخص جس کے حق میں یہ دست بردار ہوا ہے، وہ جرف پہلے شخص کے دست
برداری کے نتیجے میں اس عطیہ کا مستحق نہیں ہو گا، بلکہ دست برداری کا فائدہ یہ ہو گا
کہ پہلے شخص کی مزاحمت اس عطیہ کے بارے میں ختم ہو جائے گی، پھر یہ معاملہ اس
شخص کے پردہ ہو جائے گا جس شخص کے پاس عطیہ جاری کرنے کا اختیار ہو گا، اب
اگر وہ مصلحت سمجھے تو جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے، اس کو دست بردار
ہونے والے شخص کی جگہ پر عطیہ وصول کرنے کے لئے مقرر کر دے، اس کے بعد وہ
شخص عطیہ کا مستحق قرار پائے گا، جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے، اگرچا ہے تو
صاحب اختیار شخص اس کی جگہ کسی اور کو متعین کر دے، شوافع کے نزدیک وظائف

سے دست برداری کا بھی حکم ہے۔ اس تفصیل کے نتیجے میں ظاہر ہوا کہ علامہ شبرا ملیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے، اس لئے کہ وہ نہ تو دین کے کاغذات کی بیع ہے، نہ ہی اس شخص کے حق میں دست برداری ہے جس کو دست بردار ہونے والے کی جگہ اس کو مطالبہ کا حق دینا درست ہو، جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے۔

بیع الدین کے مسئلہ میں شوافع کے قول کا تقاضہ یہ ہے کہ "بل آف ایکچنچ" یا "جا مکیہ" کی بیع اس وقت تک جائز نہیں جب تک مجلس عقد کے اندر ہی عوضین پر قبضہ نہ ہو جائے۔ اگر ہم ان بعض شوافع کا قول لے لیں جنہوں نے اس بیع کے جواز میں یہ شرط لگائی، تب بھی ان کے نزدیک یہ شرط بہر حال ہے کہ مٹن "بل آف ایکچنچ" کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے، مٹن کم ہونے کی صورت میں یہ بیع جائز نہیں ہوگی، مگر اس صورت میں جبکہ عوض سامان کی شکل میں ہو۔

بل آف ایکس چلنچ کی بیع کے حکم کا خلاصہ

جو تفصیل ہم نے اوپر بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احناف اور حنابلہ کے نزدیک "بل آف ایکچنچ" کی بیع اصلاً جائز نہیں۔ یہاں تک کہ مساوی مٹن کے ساتھ بھی جائز نہیں، اسی طرح شوافع میں سے جو حضرات مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنے کو شرط قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ بیع جائز نہیں۔ البتہ جو شوافع مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنے کو شرط قرار نہیں دیتے، ان کے نزدیک "بل آف ایکچنچ" کی بیع اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مٹن "بل" کی رقم کے برابر ہو، مالکیہ کا

بھی یہی مذہب ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ ”ڈسکاؤنٹ آف بل“ کسی بھی معترض فقہی مذہب میں جائز نہیں، اس لئے کہ اس عقد میں نقد حال کو اقل نقد متوں جل کے عوض فروخت کرنا ہے، اور اسی کو ربا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ اپنے ساتوں اجلاس میں اسی نتیجے پہنچی ہے، چنانچہ اس نے یہ قرارداد پاس کی کہ :

ان جسم (خصم) الأوراق الجارية غير جائز شرعاً، لأنه
يُؤول إلى ربا النسيمة المحرم . (۱)

”بازار میں جاری اوراق کی کٹوتی شرعاً جائز نہیں، اس لئے کہ ربا النسيمة تک پہنچتی ہے، جو رام ہے“

بلیشا کے بعض حضرات کا موقف

بلیشا کے بعض بحایتوں نے دین کی بیع کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اسی کی بنیاد پر ”بل آف ایکچیخ“ کی کٹوتی کو جائز قرار دیا ہے، چنانچہ بلیشا کے ” مؤسسة الأوراق المالية“ نے ان حضرات کے ساتھ میری بات چیت کی نشست منعقد کی، اور کو الپور میں ان حضرات کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے نتیجے میں اس فتویٰ کے بارے میں ان کے دلائل میرے سامنے آئے، جس سے پتہ چلا کہ اس بارے میں انہوں نے مندرجہ ذیل دلائل پر اعتماد کیا ہے۔

(۱) ان حضرات نے ”قرض“ اور اس ”دین“ کے درمیان فرق کیا

ہے جو کسی چیز کو فروخت کرنے کے نتیجے میں دوسراے کے ذمہ واجب ہوتا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ "قرض" کی بیع و شراء جائز نہیں، لیکن "دین" جو بیع موجل کرنے کے نتیجے میں وجود میں آجائے، اس "دین" کی نسبت "سامان" کی طرف کی جاتی ہے، جس کی بیع مکمل ہو چکی ہو، ایسے "دین" کی دستاویزات نقود خالص کے مثال نہیں، بلکہ ان نقود کے مثال ہے جو فروخت شدہ سامان کے قائم مقام ہوتے ہیں، لہذا ان دستاویز کی بیع اس "دین" کی بیع ہے جو سامان کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ وہ "سامان" ہی کی بیع ہے۔ ان حضرات کے احترام کے باوجودہ، ان حضرات کی مندرجہ بالا دلیل کی کمزوری مخفی نہیں۔

اولاً : اس لئے کہ عقد بیع کے لازمی نتائج میں سے ایک نتیجہ اس بیع کی ملکیت کا مشتری کی طرف منتقل ہونا ہے، جب طرفین سے بیع تمام ہو جاتی ہے تو وہ سامان مشتری کی ملک میں چلا جاتا ہے، اور باائع کو صرف اس شن کے مطالباً کا حق ہوتا ہے جو مشتری کے ذمہ میں ثابت ہو چکا، یہی شن وہ "دین" ہے جو "مل آف ایچنین" کے مثال ہے، اور مشتری کے ذمہ شن کے ثبوت کے بعد "قرض" لئے ہوئے نقود کے درمیان اور ان نقود کے درمیان جو مشتری کے ذمہ سامان خریدنے کے سبب واجب ہوئے، کوئی فرق تباہی نہیں رہتا، اور یہ نقود سامان کے قائم مقام نہیں اس طور پر کہ اس سامان کا اپنی جگہ پر لوٹنا ممکن ہو، بلکہ یہ نقود اس فروخت شدہ سامان کا عوض ہے، جس کی بیع یقینی طور پر اس طرح مکمل ہو چکی ہے کہ اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ممکن نہیں کہ ان نقود پر سامان کے احکام جاری ہو سکیں، درستہ تو پھر وہ تمام نقود جو انسان کو کسی سامان کے شن کے طور پر حاصل ہوں، سامان

کے قائم مقام ہو کر اس میں "تفاضل" کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تفاضل کا تبادلہ بدابہ شرعاً منوع ہے۔

شانیا: یہ کہنا کہ "بل آف ایچینج" کی کثولی درحقیقت ایسے سامان کی بیع ہے کہ "دین" اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے، یہ قول ایک سامان پر دو مختلف جھتوں سے دو مرتبہ فروختگی واقع ہونے کو مستلزم ہے، اس لئے کہ اس سامان کی ایک بیع "بل آف ایچینج" جاری کرنے والے کی طرف سے مکمل ہو گئی، اور اس سامان کی ملکیت اس طرف منتقل ہو گئی، تو اب "بل آف ایچینج" کا حامل وہی سامان دوسرے شخص کو کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ جبکہ "بل آف ایچینج" کا حامل اس سامان کا مالک نہیں، اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس معاملہ کے تمام مراحل میں سے کسی مرحلے پر بھی وہ سامان حاصل کر سکتا ہے۔

ثالثاً: یہ کہ ان حضرات کی پیش کردہ مندرجہ بالا دلیل نص کے بھی معارض ہے، وہ نص حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ :
 کنت ابیع الابل بالبقيع، فابیع بالدنانیر و آخذ الدرامم،
 و ابیع بالدرامم و آخذ الدنانیر، آخذ هذه من هذه، و
 اعطى هذه من هذه . فائیت البی علی اللہ علیہ وسلم
 وهو فی بیت حفصة، فقلت يا رسول اللہ : رویدک
 اسلک، انى ابیع بالبقيع، فابیع بالدنانیر و آخذ
 الدرامم، و ابیع بالدرامم و آخذ الدنانیر، آخذ هذه من
 هذه و اعطى هذه من هذه، فقال رسول اللہ علی اللہ
 علیہ وسلم : لا بأس ان تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا و

بینکماشی۔ (۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں "بیفع" میں اونٹ بیچا کرتا تھا، تو میں دنائیر کے ذریعہ بیفع کرتا، اور دراہم وصول کر لیتا، بھی دراہم کے ذریعہ بیفع کرتا، اور دینار وصول کر لیتا، یعنی دنائیر کے بد لے دراہم اور دراہم کے بد لے دنائیر وصول کرتا اور دیتا۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ اس وقت حضرت خصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر پر تھے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں بیفع میں اونٹ فروخت کرتا ہوں، بھی دینار کے ذریعہ اونٹ فروخت کرتا ہوں، اور اس کی جگہ دراہم وصول کر لیتا ہوں، بھی دراہم کے ذریعہ فروخت کرتا ہوں، اور ان کی جگہ دینار وصول کر لیتا ہوں، اس کے بد لے وہ لیتا ہوں، اور اس کے بد لے یہ لیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی روز کے بھاڑ سے لے لو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور تم دونوں اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک تمہارے درمیان ایک دوسرے کے ذمہ کوئی پیغام باقی ہو۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر کسی ایک کرنی پر نقد بیفع ہو، اور پھر دونوں متعاقدین اس کرنی کو دوسری کرنی میں بدلنا چاہیں تو ایسا کرنا دو شرائط کے ساتھ جائز ہے، ایک یہ کہ یہ تبادلہ اوسی کے دن کے نزد کے اعتبار سے ہو،

(۱) سنن ابو داؤد، کتاب البيوع، حدیث نمبر: ۲۳۵۴، جلد: ۳، صفحہ: ۲۵، و
هذا المفظ، وأخرجه الترمذی فی البيوع باب ماجلة فی الصرف، حدیث نمبر: ۱۲۴۲؛
و السنایی، جلد: ۷، صفحہ: ۲۷۱، باب بیفع الفضة بالذهب و بیفع الذهب بالفضة،
وابن ماجحة، باب اقتضاء الذهب من الورق، حدیث نمبر: ۲۲۶۲، و رجال ثقات

دوسرے یہ کہ مجلس عقد ہی کے اندر ادا نیکی مکمل ہو جائے، اور مشتری کے ذمہ کوئی چیز باقی نہ رہے۔

یہ بات منفی نہیں کہ مذکورہ معاملہ میں بیع "اوٹ" ہیں، اور مشتری کے ذمہ اس بیع کے نتیجے میں مثلاً "در اہم" واجب ہوئے، گویا کہ وہ در اہم مشتری کے ذمہ "دین" ہو گئے، اب مشتری یہ چاہتا ہے کہ وہ اس "دین" کو در اہم سے دینار کی طرف تبدیل کر دے، تو اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط تقویہ لگائی کہ اسی روز کے بھاؤ کے ذریعہ تبادلہ ہو، اور دوسرا شرط یہ لگائی کہ مشتری کے ذمہ کوئی شمن باقی نہ رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو شرطیں اس لئے نکائیں کہ آپ نے اس تبادلہ کو "بیع صرف"، قرار دیا، لہذا "بیع صرف" کے جواز کے لئے جو شرائط ہیں وہی شرائط آپ نے لگائیں، باوجود یہ کہ اصل بیع "اوٹ" کی ہوئی تھی، اب اگر وہ شمن "سامان" کے قائم مقام ہوتا، جیسا کہ یہ حضرات کہتے ہیں تو یہ تبادلہ اسی سامان کی خریداری کے ساتھ ہوتا، پھر اس کے جواز کے لئے وہ شرائط نہ لگاتے، جو شرائط "بیع صرف" کے جواز کے لئے لگائی جاتی ہیں۔

یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مندرجہ بالا معاملہ صرف بالائے اور مشتری کے درمیان پیش آیا، درمیان میں کسی تیرے شخص کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آسان صورت تو یہ بھی تھی کہ یہ کہد یا جاتا کہ ان دونوں نے سابقہ بیع کو (جو در اہم کے ذریعہ ہوئی تھی) فتح کر دیا، اور دوسرا جدید عقد دینار کی بنیاد پر کر لیا۔ اس لئے ادا نیکی کے دن کے بھاؤ کی شرط کی ضرورت نہ رہی، اور نہ مجلس عقد میں تقاضہ کی شرط کی ضرورت رہی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو "بیع صرف" قرار دیا، یا کہ "ربا"

کے شہر سے بھی احتراز ہو جائے۔ اسی طرح اس لین دین میں ”دین“ کی بیع اس شخص کے ساتھ ہو رہی تھی، جس کے ذمہ ”دین“ تھا، اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بھاؤ“ میں بد لین کی برابری کو شرط قرار دیا، لہذا جس صورت میں کہ ”دین“ کی بیع اس شخص کے علاوہ سے ہو رہی ہو، جس پر دین ہے، اس صورت میں تو بطریق اولیٰ یہ شرائط لگائی جائیں گی، اس لئے کہ تیرے شخص کی خلل اندازی اس معاملہ سے ”استبدال“ اور ”سابقہ بیع کافیع“ اور ”عقد جدید“ کے تمام اختلافات کو دور کر دے گا۔

(۲) ان حضرات میں سے بعض نے مالکیہ اور بعض نے شافعی کے مسلک سے استدلال کیا ہے کہ مالکیہ اور بعض شافعی نے ”بیع الدین من هو غیر هو علیه“ کو جائز قرار دیا ہے، اور انہوں نے لفظ ”بیع الدین“ سے استدلال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب ”دین“ کی بیع جائز ہے، تو ”بیع“ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ عاقدین جس شہر پر بیع کرنے پر اتفاق کر لیں، اس شہر پر بیع جائز ہو گی، لہذا دین کی بیع دین کی رقم سے کم پر بھی جائز ہو گی اگر طرفین اس شہر پر راضی ہیں۔

ان حضرات کی یہ دلیل پہلی دلیل سے زیادہ کمزور ہے، اس لئے کہ جب کسی چیز کی بیع کے جواز کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ جواز ان تمام لازمی شرائط کے ساتھ مشرود ط ہوتا ہے، جو شرائط اس چیز کی بیع کے لئے لگائی گئی ہیں، مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سونے کی بیع جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سونے کی سونے سے بیع کرنے کی صورت میں کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیع ان تمام شروط معتبرہ کے ساتھ جائز ہے، جو شرائط اس کے جواز کے لئے

شریعت نے لگائی ہیں۔ چنانچہ سونے کی بیع جائز ہونے کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس سونے کو سونے سے فروخت کیا جائے تو پھر ”تفاضل“ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ان فقہاء مالکیہ اور شافعیہ نے ”بیع الدین“ کو جائز کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکے جواز کی جو شرائط ہیں، ان کے ساتھ جائز کہا ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ”تفاضل“ جائز نہیں، علماء مالکیہ نے تو اس کی صراحت کی ہے، جیسا کہ ماقبل میں ان کے مذہب پر تشقیح کرتے ہوئے گزر چکا۔ جہاں تک شوافع کا تعلق ہے تو انہوں نے اس معاملہ کو ”دین کو غیر جنس سے فروخت“ کرنے کی قبیل سے شمار کیا ہے، اس کی مثال یہ دی ہے جیسے ”مدیون سے دراہم کے عوض غلام خریدنا“، اسی وجہ سے انہوں نے تساوی اور برابری کی شرط نہیں لگائی۔ لیکن اگر ”دین“ اموال ربویہ میں سے ہو اور بیع اسی دین کی جنس سے ہو تو تساوی کی شرط کا ہونا بدیکی بات ہے، اور ”مسئلة الاستدلال“ یعنی (بیع الدین من علیہ الدین) میں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ استدلال اموال ربویہ میں سے ہو تو مجلس کے اندر بدلت پر بقہہ کرنا جواز کے لئے شرط ہے (۱) اس سے ظاہر ہوا کہ شوافع نے اموال ربویہ کے تباولہ میں ان تمام شرائط کو لازمی قرار دیا ہے جو اموال ربویہ میں بیع کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہیں۔

(۳) بعض اوقات ان میں سے بعض حضرات ”ضع و تعجل“ کے جواز سے استدلال کرتے ہیں، جس کو علماء نے ”بی فیض“ کے واقعہ سے استدلال

کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہے کہ جس وقت قبلہ نبی نصیر کو مدینہ منورہ سے جلی وطن کیا گیا اس وقت اہل مدینہ کے ذمہ ان کے دیون باتی تھے، روایت میں آتا ہے کہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ”ضعوا و تعجلوا من دیونہم“ کہ ان کے دین کم کر اکر جلدی سے ادا کرو، چنانچہ اس اصول کی بنیاد پر ان لوگوں نے مدینوں سے اپنا دین جلدی لے لیا۔ (۱)

واقعہ یہ ہے کہ جمہور فقہاء امت نے ”ضع و تعجل“ کو ناجائز کہا ہے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت مصلی اللہ تعالیٰ علیہما، اور حضرت محمد بن سیرین، حضرت حسن بصری، حضرت ابن الصیب، حکم بن عتبہ، امام شعی اور ائمہ اربعہ حبہم اللہ تعالیٰ کا بھی مذہب ہے (۲) اور نبی نصیر کے واقعہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ابراہیم تختی، زفر بن الہذیل، اور ابو شور حبہم اللہ سے اس کا جواز مروی ہے، اور علامہ ابن تیسیہ اور ابن حضرات اہل کرد علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہما اسی طرف گئے ہیں (۳) لیکن جو حضرات اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، انہوں نے اس معاملے کو اس وقت جائز قرار دیا ہے جب کہ یہ معاملہ دائن اور نہ دیون کے درمیان ہو، اور اگر کوئی تیرا شخص اس معاملہ کے درمیان میں ہو تو پھر اس معاملہ کو کسی فقیہ نے جائز قرار نہیں دیا، لہذا

(۱) السنن الکبریٰ للبیهقی، ج: ۶، ص: ۲۸، کتاب البیوع، اس مسئلہ پر تفصیل بحث اور فقہاء کے نہایہ اور اس کے دلائل نفی مقالات، ج: ۱، ص: ۱۰۸ پر ذریحی ہے۔

(۲) موطا امام مالک، ج: ۱، ص: ۶۰۶، مصنف عبد الرزاق، ج: ۸، ص: ۷۱ - ۷۲، موطا امام محمد، ج: ۱، ص: ۳۳۲، المفتی لابن قدامة، ج: ۴، ص: ۱۷۵ - ۱۷۶

(۳) کنز العمال، ج: ۲، ص: ۲۳۵، اعلاء السنن، ج: ۳، ص: ۳۷۱

”بل آف ایچینج“ کی کوئی کو ”ضع و تعجیل“ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ دین مالک دائن کا ہوتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنے دین میں سے جتنا چاہے کم کر دے، لیکن جس شخص نے اس دین کو نقد کے عوض خرید لیا، گویا کہ اس نے اس ”نقد“ واجبہ کو خریدا ہے جو مدیون کے ذمہ تھی، لہذا یہ ”نقد کی بیع نقد“ سے ہو گئی، اور نقد کی بیع نقد سے ہونے کی صورت میں تقاضل جائز نہیں ہوتا۔ اور اس مسئلہ کے بارے میں ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ نے اپنے ساتویں اجلاس میں ایک قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی ہے، جو مندرجہ ذیل ہے :

الخطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء كانت
بتطلب الدائن أو المديون (ضع و تعجیل) جائزة شرعاً،
لَا تدخل في الربا بالمحرم، اذا لم تكن بناء على اتفاق
مبتقى، ومادامت العلاقة بين الدائن والمديون ثنائية،
فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ

حکم الأوراق الشجارية . (۱)

دین مؤجل کو جلدی وصول کرنے کے لئے دین میں سے کچھ کم کر دینا، چاہے یہ کی دائن کی طلب کی بیiad پر ہو، یا مدیون کی طلب کی بیiad پر ہو، شرعاً جائز ہے (یہ ضع و تعجل ہے) اور یہر باحرام میں داخل نہیں، بشرطیکہ یہ کسی سابقہ اتفاق کی بیiad پر نہ ہو، اور جب تک یہ معاملہ دائن اور مدیون کے درمیان وائر ہو، لیکن اگر اس معاملہ میں ”مالٹ“ داخل ہو جائے گا تو یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا،

(۱) قرارداد نمبر: ۷۱۲۶۔ اسلامی فقہ اکیڈمی (العدد السادس عشر) ۱۷۱۲ فقرہ ۴۔

کیونکہ اس صورت میں یہ معاملہ ”تجاری دستاویز“ کے لین دین کے حکم میں ہو جائے گا۔

”حوالہ“ کی بنیاد پر ”بل آف ایچجنگ“ کی کوثی کا حکم اب تک ہم نے ”بل آف ایچجنگ“ کی کوثی کا حکم بیان کیا، وہ حکم ”بعض الدین“ کی بنیاد پر ہنی تھا، اور میرے خیال میں ”بل آف ایچجنگ“ کی کوثی کا معاملہ حقیقت میں ”بعض“ نہیں، بلکہ یہ قرض دینے اور قرض کا حوالہ کرنے کا معاملہ ہے، جو شخص ”بل آف ایچجنگ“ کی کوثی کرتا ہے وہ درحقیقت ایک مخصوص رقم حامل ”بل“ کو بطور قرض دیتا ہے، اور پھر ”حامل بل“ جو قرض لینے والا ہے، اس قرض کا حوالہ ”بل“ جاری کرنے والے“ کی طرف کر دیتا ہے۔ ”حوالہ“ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اکثر ممالک کے قوانین میں یہ بات درج ہے کہ ”بل“ کی کوثی کرنے والا شخص قرض کی عدم ادائیگی کا خطرہ اپنے اور پر نہیں لے گا، بلکہ بل جاری کرنے والے کی طرف سے عدم ادائیگی کی صورت میں اس کو یہ حق ہو گا کہ وہ ”حامل بل“ سے اپنے قرض کی وصولی کے لئے رجوع کرے (حقیقی مذہب کے مطابق) یہی حوالہ کا طریقہ ہے۔

بہر حال! اس لحاظ سے ”بل کی کوثی کرنے والا“ شخص جو رقم ”حامل بل“ کو دے رہا ہے وہ دراصل اس شرط پر اس کو قرض دے رہا ہے کہ وہ اس رقم سے زیادہ رقم کا ”حوالہ“ اپنے مدیون کی طرف کر دے گا، ظاہر ہے کہ یہ صرٹگ سود ہے، اس لئے کہ ”حوالہ“ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ دونوں طرف کے مدیون کی رقم

برابر ہو، یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ قرض دینے والے شخص کو بعد میں وصول ہونے والی رقم قرض کی رقم سے زیادہ ہوگی، اور یہ زیادتی "اصل" کے مقابل میں ہوگی، یہ "ربا النسیب" میں سے ہے۔

"بیع الدین" کے ممکنہ تبادل طریقے

گذشتہ بحث سے یہ بات سامنے آگئی کہ ہر وہ "مالیاتی دستاویز" جو اس دستاویز کو جاری کرنے والے کے ذمہ "دین" کے ہونے کی نمائندگی کرے، ایسے مالی دستاویزات کا حکم "بائٹ" اور "بل آف ایچیجن" کی طرح ہے، ان کا لین دین اس کی ظاہری قیمت کے برابر قم سے کرنا جائز ہے (کی زیادتی سے کرنا جائز نہیں) پھر ان کا ظاہری قیمت سے لین دین مالکیہ اور بعض شوافع کے نزدیک بیع کے طریقے پر ان شرائط کے ساتھ جائز ہے، جن کا بیان اوپر گزر چکا، حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک بیع کے طریقے پر انکا لین دین کرنا جائز نہیں، البتہ تمام فقهاء کے نزدیک "حوالہ" کے طریقے سے انکا تبادلہ جائز ہے۔ جو کامطلب یہ ہے کہ "بائٹ ہولڈر" اور "بل ہولڈر" تیرے شخص سے "بائٹ" یا "بل" کے برابر قم بطور قرض لیتا ہے، اور پھر وہ "بائٹ ہولڈر" تالث شخص کو "بائٹ" اور "بل" جاری کرنے والے ادارے کی طرف حوالہ کر دیتا ہے، لہذا اس لین دین پر "حوالہ" کے شرعی احکام جاری ہوں گے۔

یہ بات مخفی نہیں کہ ان "دستاویزات" کا لین دین ان کی ظاہری قیمت کے مساوی قیمت کے ساتھ موجودہ "اشاک ایچیجن" کے ذریعہ مطلوبہ مقدار حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ ان "مالیاتی دستاویزات"

کے تبادلے کے لئے ایسا "اسٹاک ایچینج" وجود میں لا جائے جو شرعاً قابل قبول ہو؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کیا "بانڈز" اور "بل آف ایچینج" کے لین دین کے لئے کوئی ایسا تبادل طریقہ ہے جو شرعاً قابل قبول ہو؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں انتبادل موجود ہے، لہذا ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ ان تبادل طریقوں کو بیان کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ الْأَوْافِ

و"بل آف ایچینج" کی کٹوتی کا تبادل

جہاں تک "بل آف ایچینج" کی کٹوتی کا تعلق ہے، اس مقصد کے حصول کے تین طریقے ہیں :

(۱) "بل آف ایچینج" کی کٹوتی کی ضرورت اس تاجر کو پیش آتی ہے جو اپنا سامان ادھار فروخت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سامان کی قیمت (یا اس کے قریب قریب رقم) مدت آنے سے پہلے نقد و صول ہو جائے، تاکہ جن تاجروں سے اس نے ایکسپورٹ کرنے کے لئے سامان خریدا ہے، یا جن کارگروں سے اس نے وہ سامان تیار کروایا ہے، ان کو رقم کی ادائیگی کر سکے۔ رقم کی جلد وصولیابی کی ضرورت ان تاجروں کو پیش آتی ہے جو اپنا سامان دوسرے ممالک میں قابل اعتماد ریبعہ سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ ایسے تاجر اس "بل" کو لے کر بینک کے پاس جاتے ہیں، تاکہ وہ بینک اس "بل" پر کٹوتی کر کے اور "بل" میں درج شدہ رقم میں سے کچھ کم کر کے باقی رقم ان کو ادا کر دے۔

اس مقصد کے حصول کے لئے ایسا طریقہ جو شرعی اعتبار سے بالکل بے غبار ہو، یہ ہے کہ تاجر حضرات ایکسپورٹ کرنے سے پہلے بینک کے ساتھ عقد مشارک کر لیں، چونکہ باہر ملک سے جو آڑ رتا جوں کے پاس آیا ہے، وہ معین ہے، اور فریقین کے درمیان جو "ریٹ" طے ہوا ہے، وہ بھی معلوم ہے، اور سامان بھیجنے پر جو مصارف آئیں گے، وہ بھی معلوم ہیں، اس لئے ان خصوصیات کے ساتھ بینک کے لئے اس معاملہ میں مشارکت اختیار کرنا مشکل نہیں ہو گا، لہذا اس معاملہ میں ہونے والا نقش یقین کے قریب ہے، لہذا بینک "مشارکہ" کی بنیاد پر اس تاجر کو مطلوبہ رقم دیدے، اور اس معاملے میں جو نفع ہو گا، اس نفع کے مقابلہ حصہ کا مطالبه کرے۔ اس عقد کے نتیجے میں اس تاجر اور عملی کو کاموں میں سہولت حاصل ہو جائے گی، اور ایکسپورٹ کے لئے مال تیار کرانے کے نتیجے میں جو واجبات تاجر کے ذمہ آئیں گے، ان واجبات کی ادائیگی اس کے لئے ممکن ہو گی، اور بینک کو نفع میں سے ایک مقابلہ حاصل جائے گا۔

(۲) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بینک "ہامل بل" کو مالکیہ اور بعض شوافع کے نزدیک کے مطابق اس "بل" کے بد لے کوئی واقعی سامان فروخت کرے، یا اس شن کے بد لے جو شن اس "بل" کی رقم کے برابر ہو، کوئی سامان فروخت کرے، اور پھر "بل" جاری کرنے والے کی طرف رقم کی وصولیابی کے لئے "حوالہ" قبول کرے، چونکہ "بل" کے مقابلہ سامان ہے، اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بینک وہ سامان بازاری ریٹ سے زیادہ ریٹ پر فروخت کرے، اس طریقہ سے بینک کو نفع حاصل ہو جائے گا۔

(۳) تیرا طریقہ یہ ہے کہ بینک اور "حامل بل" کے درمیان دو معاملات بالکل مستقل اور علیحدہ علیحدہ ہوں، پہلا معاملہ یہ ہو کہ "بل" کا حامل بینک کو اپنا وکیل بنادے کہ جب اس "بل" کو کیش کرانے کی تاریخ آجائے تو "بل" جاری کرنے والے سے اتنی رقم وصول کر لے، اور اس خدمت اور سروں کے عوض حامل بل بینک کو ایک معین رقم دیدے۔

دوسرा معاملہ یہ ہو کہ بینک اس تاجر یا ایجنت کو "بل" میں درج شدہ رقم سے اپنی وکالت کی رقم کم کر کے بقیہ رقم تاجر کو غیرسودی قرض کے طور پر دیدے۔

مثال: زید "حامل بل" ہے، اور "بل" کی رقم ایک لاکھ روپے ہے، اب زید بینک کو اپنا وکیل بنادیتا ہے کہ بینک "بل" جاری کرنے والے سے اس کی تاریخ آنے پر یہ میری طرف سے رقم وصول کر لے، اور اس خدمت پر ایک ہزار روپے زید بطور اجرت کے بینک کو دیگا۔ پھر بینک زید کو ایک مستقل عقد کے ذریعہ ننانوے ہزار روپے غیرسودی قرض کے طور پر دیتا ہے، اور جب بینک کو ایک لاکھ روپے تاریخ آنے پر بل جاری کرنے والے کی طرف سے وصول ہوں گے، اس وقت آپس میں مقاضہ ہو جائے گا، وہ اس طرح کہ بینک ننانوے ہزار روپے تو قرض کے عوض رکھ لے گا، اور ایک ہزار روپے رقم وصول کرنے کی اجرت کے طور پر کھلے گا۔

البتہ مندرجہ بالا طریقہ کے جواز کے لئے مندرجہ ذیل تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں عقد ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہوں، لہذا قرض والے عقد میں "وکالت" شرط نہ ہو، اور نہ ہی "وکالت" والے عقد

میں قرض کی شرط ہو۔

(۲) وکالت کی اجرت "بل" کو کیش کرانے کی مدت سے مسلک نہ ہو، کہا اگر "بل" کیش کرانے کی مدت طویل ہو جائے تو اجرت زیادہ ہو جائے گی، اور اگر کیش کرانے کی مدت کم ہو تو اجرت بھی کم ہو جائے گی۔

(۳) پینک نے جو قرض دیا ہے اس قرض کے سبب اجرت وکالت میں اضافہ نہ کیا گیا ہو، اس لئے کہ اس صورت میں "کل قرض جر نفعاً" میں داخل ہو کر سود ہو جائے گا۔

کمپنیوں کی طرف سے جاری شدہ "بانڈز" کا مقابل

وہ "بانڈز" جنہیں تجارتی کمپنیاں اسلئے جاری کرتی ہیں، تاکہ اسکے ذریعہ عوام الناس سے قرض و صول کر کے اپنی مالی قوت میں اضافہ کریں۔ ان "بانڈز" کا مقابل "سکوک" ہیں، جن کو "مشارکت" یا "مضاربہ" کی بنیاد پر تجارتی کمپنیاں جاری کریں، اور "سکوک ہولڈر" کمپنی کے ساتھ اس کی تجارتی سرگرمیوں میں شریک ہوئے، اور تجارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں کمپنی کو جو نفع ہوگا "سکوک ہولڈر" میں وہ نفع طے شدہ تقابل سے تقسیم کیا جائے گا، چونکہ یہ "سکوک" کمپنی کے موجودہ اثاثوں میں مشترکہ حصہ کی نمائندگی کرتے ہیں (اسلامی فقہ اکیڈمی کے فتویٰ کے مطابق کمپنی کے اثاثے موجود اشیاء کی صورت میں کل سرمایہ کاری کے کم از کم 51% نیصہ ہونے چاہئیں)، ان سکوک کا "اشاک مارکیٹ" میں تقابلہ ہر اس قیمت پر جائز ہوگا جس پر مشتری اور باائع تفہیق ہو جائیں، اسلئے کہ ان "دستاویز"

کی تجارت منوع ہے جو ان ”نقد“ اور ”دین“ کی نمائندگی کریں، جو ان دستاویز کے مقابل ہوں، لیکن اگر وہ دستاویز کمپنی کی اشیاء موجودہ کے کسی حصہ مشاع کی نمائندگی کر رہے ہوں، جیسے ”شیئرز“ تو ایسے ”دستاویز“ کی تجارت جائز ہے، اور ان ”دستاویز“ کی قیمت ان کی طلب اور رسماں کی بنیاد پر مستین ہو جائے گی، جیسے دوسرے تمام تجارتی سامان کی قیمت رسماں اور طلب کی بنیاد پر مستین ہو جاتی ہے۔ ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ نے اپنے چوتھے اجلاس میں اس موضوع پر غور و خوض کیا تھا، اور ایک ”تفصیلی“ ”قرارداد“ منظور کی تھی (۱) جس میں ان ”صلوک“ کے بارے میں ضوابط بیان کئے ہیں، اور اسی اجلاس میں ان مقالات پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے، جو اس موضوع پر پیش کئے گئے تھے، لہذا یہاں اس مقالہ میں ”صلوک“ کے مسائل پر تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

حکومت کے جاری کردہ ”بانڈز“ کا مقابل

جبکہ ان بانڈز کا تعلق ہے جو حکومت اپنے بحث خارے کو پورا کرنے کے لئے جاری کرتی ہے، تو ”شرعی صلوک“ کے ذریعہ ان کا مقابل لانا ممکن ہے، لیکن شرعی طریقوں میں حکومت کے لئے یہ ممکن نہیں ہو گا کہ وہ اس خارے کو پورا کرنے کے لئے قرضے حاصل کر کے جس طرح چاہے ان کے اندر تصرف کرے، بلکہ شرعی سرمایہ کاری کے طریقوں میں یہ ضروری ہو گا کہ وہ سرمایہ کاری میں منصوبوں کے ساتھ ہی مربوط ہو، اور جس منصوبے میں سرمایہ کاری کا ارادہ ہو، اس

منصوبے کے مزاج کے مطابق یہ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس طرح یہ ممکن ہے کہ جن مختلف مواقع میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہو، ان میں مندرجہ طریقوں میں کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔

(۱) صکوک المشارکہ یا مضاربہ

بہت سی حکومتوں کے پاس تجارتی منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں، مثلاً پانی اور بجلی کی سپلائی، میلیوں سروں، ڈاک سروس، آمد و رفت کی سروس، مثلاً ریلوے، یا بھری جہاز کے ذریعہ مال کی سپلائی، ایئر لائن سروس، ان تجارتی منصوبوں کے لئے اگر حکومت کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہو تو ”صکوک المضاربہ اور مشارکہ“ جاری کرنے کے ذریعہ سرمایہ کاری ممکن ہے، مندرجہ بالا اداروں میں سے ہر ادارہ یہ ”صکوک“ عوام کے سامنے پیش کرے، اور پھر جس شخص سے ان ”صکوک“ کے عوض رقم وصول ہو، وہ بخش تجارتی سرگرمی میں اس ادارہ کے ساتھ شریک بن جائے گا، اور وہ شخص حصہ مشاع کی نسبت سے نفع کا مستحق ہو گا۔ چونکہ یہ ”صکوک“ اس ادارہ کی موجودہ اشیاء میں حصہ مشاع کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے ”اشاک ایکسچینچ“ میں ان ”صکوک“ کا لین دین جائز ہو گا، اور رسداور طلب کی بنیاد پر ان ”صکوک“ کی قیمت متعین ہو جائے گی، جیسا کہ شرکت دار کمپنیوں کے ”شیرز“ کی قیمت متعین ہو جاتی ہے۔

(۲) صکوک الٹا چیر

کبھی حکومت کو ایسے منصوبوں کی تغیری کی ضرورت ہوتی ہے جن کو کرایہ پر دینا

ممکن ہوتا ہے، ایسے منصوبوں کی سرمایہ کاری کے لئے یہ ممکن ہے کہ حکومت "صلوک" (الٹا جیر) جاری کر دے، مثلاً حکومت ایک "پل" بنانا چاہتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جو شخص اس "پل" کو استعمال کرے اس سے نیکس وصول کیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ "پل" کسی تجارتی ادارے کو کرایہ پر دیدیا جائے، اور وہ ادارہ اس "پل" کو استعمال کرنے والوں سے نیکس وصول کرے۔ لہذا حکومت "صلوک" جاری کر کے عوام سے ان "صلوک" پر ایک معین رقم وصول کرے، جس کے نتیجے میں "حامی صلوک" اس پل کی ملکیت میں حصہ مشاع کے تابع سے شریک ہو جائیں گے، پھر وہ شرکاء اسی ملکیت کے تابع سے اس پل کے کرایہ کے یا نیکس کے مستحق ہو جائیں گے، جو کرایہ "پل" کو کرایہ پر لینے والے ادارہ سے وصول ہو گا، یا جو نیکس اس "پل" کو استعمال کرنے والوں سے وصول ہو گا۔

(۳) حکومتی مالیاتی فنڈ

بعض اوقات حکومت کے سامنے ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو نفع بخش نہیں ہوتے، یا اتنا کم نفع دینے والے ہوتے ہیں کہ وہ نفع لوگوں کو اس میں شرکت کی رغبت دلانے کے لئے کافی نہیں ہوتا، مثلاً سلح افواج کو سمجھم کرنا، تعلیمی مرکز قائم کرنا، یا پلک ہستال قائم کرنا، یادوسری ایسی عمارتیں بنانا جو نفع بخش نہیں ہیں، ایسے منصوبوں میں "شرکت" یا "مضاربہ" کی بنیاد پر سرمایہ کاری ممکن نہیں۔

ایسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لئے خاص "حکومتی سرمایہ کاری فنڈ" کی بنیاد ڈالی جائے، اور یہ "فنڈ" عام لوگوں کے اشتراک سے قائم کیا جائے، اور

حکومت عام لوگوں کے لئے "صلوک" جاری کرے جو ان لوگوں کی اس فنڈ میں شرائکت داری کا ثبوت ہو۔ پھر یہ "فنڈ" حکومت کے اس قسم کے منصوبوں میں "مرا بحث" یا "کراہیہ داری" یا "اسٹھنائی" کی بنیاد پر اس منصوبے کے مزاج کے مطابق سرمایہ ما کاری کرے۔ مثلاً اگر حکومت کو اسلخ خریدنے کی ضرورت ہے، تو یہ "فنڈ" ایکسپوڑز سے اسلخ خریدے گا، اور پھر حکومت کو وہ اسلخ "مرا بحث موجہ" کی بنیاد پر فروخت کرے گا۔ اور اگر حکومت کو مشینری اور دوسرے آلات کی ضرورت ہو تو یہ "فنڈ" اس مشینری اور آلات کو خرید کر حکومت کو اجارہ پر دیگا، پھر چاہے تو عام اجارہ داری کی بنیاد پر دے، یا ایسے اجارہ کی بنیاد پر دے جو بالآخر تملیک پر مشتمل ہو۔ اور اگر حکومت کو کسی عمارت کے بنانے کی ضرورت ہو تو یہ حکومت اس "فنڈ" سے "اسٹھنائی" کا معاملہ کرے، اور پھر یہ "فنڈ" اندر ورنی ٹھیکیدار کے طور پر عمارت تعمیر کرائے، اور تیار ہونے کے بعد وہ عمارت حکومت کے حوالے کر دے، اور حکومت طے شدہ اقساط میں اس عمارت کا نشان "فنڈ" کو ادا کرے، اور اسٹھنائی کے شمن کی مقدار متعین کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ "فنڈ" کو اس پر مناسب نفع بھی حاصل ہو جائے، اور مندرجہ بالا مختلف کاموں کے نتیجے میں "فنڈ" کو جو نفع حاصل ہو، وہ نفع اس فنڈ کے "صلوک ہولڈر" کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اور اس "فنڈ" کے تمام معاملات میں اس بات کی رعایت رکھی جائے کہ اس "فنڈ" کے مجموعی معاملات کے نسبت سے مرا بحث کے معاملات 49% فیصد سے زیادہ نہ ہوں، تاکہ اس "فنڈ" کی ملکیتوں کی بڑی مقدار "اعیان" اور اشیاء کی شکل میں ہوں، اور اس صورت میں اس فنڈ کے "صلوک" اس "فنڈ" کی موجودات کی

بڑی مقدار کے حصہ مشارع کی فائدگی کریں گے۔ جس کے نتیجے میں ان "صکوں" کی اشاعت اپنچھج، میں لین دین جائز ہو جائے گی، اور ان "صکوں" کی قیمت رسداً و رطلہ کے مطابق معین ہو جائے گی۔

غیر سودی قرض سٹیفیکیٹ

مندرجہ بالا تین طریقوں کے ذریعہ حکومت ان بے شمار ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، جن کی حکومت کو اپنے شہریوں سے سرمایہ کاری کے ذریعہ پورا کرنے کی ضرورت ہو، لیکن چونکہ سرمایہ کاری کے مندرجہ بالا تینوں طریقے معین منصوبوں کے ساتھ ملک ہوتے ہیں، اس لئے یہ اس بات کے خامن ہوتے ہیں کہ جو رقم ان حقیقی منصوبوں کے لئے وصول کی جائے گی، ان کا نفع عوام کو حاصل ہو گا۔ لیکن جہاں تک ان قرضوں کا تعلق ہے جو کسی خاص منصوبے کے ساتھ ملک نہیں ہیں، ان میں اس بات کا اندر یہ ہے کہ وہ اسراف اور عیش و عشرت میں خرچ ہو جائیں۔

بہر حال اگر مندرجہ بالا تین طریقوں سے مختلف منصوبوں میں کام لینے کے بھی کچھ ایسے حقیقی موقع باقی رہ جائیں جن میں مندرجہ بالا تین طریقوں میں کسی طریقے کو اختیار کرنا حکومت کے لئے ممکن نہ ہو تو اس صورت میں حکومت اپنے شہریوں سے "غیر سودی قرض" طلب کرے، اگر عوام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ حکومت نے شرعی طریقوں سے سرمایہ حاصل کرنے کی اپنی وسعت کی حد تک کوشش کر لی، اور اب بھی حکومت کو ایسے مقاصد کیلئے سرمایہ میں اشاذ کی واقعی ضرورت ہے، جن کا نفع بالآخر عوام ہی کو پہنچ گا، اور یہ سرمایہ عیش و عشرت کیلئے طلب نہیں کیا جا رہا ہے، تو

ایسی صورت میں عوام حکومت کو "غیر سودی قرض" دینے پر تیار ہو جائیں گے، خاص طور پر اس وقت جب حکومت تعییم اور میڈیا کے ذریعہ دینی فضاقائم کرے۔

ان قرض دینے والوں کو ان کے قرض کے وثائق کے طور پر "سرٹیفیکیٹ" دیے جائیں گے، اور ان "سرٹیفیکیٹ" کو بازار میں کم یا زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جائز نہیں ہو گا، اس لئے کہ جیسا کہ ہم نے پہچھے بیان کیا کہ دین کی بیج کی یا زیادتی کے ساتھ جائز نہیں، البتہ قیمت مثل سے حوالہ کی بنیاد پر ان سرفیکیٹ کو آگے بڑھا دینا ممکن ہے۔

حکومت کے لئے یہ ممکن ہے کہ ان حاملین سرفیکیٹ سے کچھ نیکس معاف کر دے، یا ان نیکس کے تناسب میں کمی کر دے۔ اور بظاہریہ "کل قرض جرنفغا" میں داخل نہیں ہو گا، اس لئے کہ عام قرض "سودی قرض" میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب قرض لینے والا رأس المال سے زیادہ دینے کی ضرانت دے، یا قرض دینے والے کو ایسا دین معاف کر دے جو اس کے ذمہ واجب ہو۔ جہاں تک "نیکسون" کا تعلق ہے یہ شہریوں پر دیون واجبہ کی قبل سے نہیں ہیں، اور حکومت کے لئے جائز ہے کہ وہ بعض شہریوں پر نیکس واجب کرنے جبکہ دوسرے شہریوں پر واجب نہ کرنے کے سلسلے میں مختلف معیار مقرر کر لے، اور مختلف لوگوں سے مختلف تناسب سے نیکس وصول کرے۔

چونکہ ان "غیر سودی قرض" دینے والوں نے حکومت کو ایسے قرض دیے ہیں جس سے حکومت کی بعض ضروریات پوری ہوئی ہیں، اس لئے حکومت کو چاہئے کہ ان پر سے بعض نیکس معاف کر دے، یا بعض نیکسون کی مقدار میں کمی کر دے، اسلئے

کہ حکومت کی ضرورت پوری کرنے کے لئے ان لوگوں نے اپنی ذمی داری پوری کی ہے، لہذا ان لوگوں سے تیکس کی اتنی مقدار کا مطالبه نہ کیا جائے، جتنی مقدار کا مطالبه ان دوسرے لوگوں سے کیا جاتا ہے جنہوں نے مطلقاً یہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔

وَاللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَلِهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا

نَحْمَدُهُ وَنُصَدِّقُ بِعَبْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى
يَكُونَ الْجَنَاحُ لِلْأَنْكَارِ

الْأَنْكَارُ هُنُّ سُنْنَتِي

(ابن ماجہ)

نَظَرُ مِنْ مِنْ سُنْنَتِي

مراکز اسلامیہ کی طرف سے فسخ نکاح

یعنی

یعنی غیر اسلامی ممالک میں مراکز اسلامیہ کی طرف
سے مسلمان خواتین کے نکاح فسخ کرنے کا حکم

(۳)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ میمن

دین من اسلام ک پبلیشورز

(۳) مراکز اسلامیہ کی طرف سے فتح نکاح

یہ مقالہ حضرت والاد ظالم نے ”فسخ نکاح المسلمات من قبل المراکز الاسلامیہ فی بلاد غیر اسلامیہ“ کے عنوان سے تحریر فرمایا تھا، یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرة“ کی جلد ثالثی میں شائع ہو چکا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مراکز اسلامیہ کی طرف سے فتح نکاح

یعنی

غیر اسلامی ممالک میں مراکز اسلامیہ
کی طرف سے مسلمان خواتین کے نکاح فتح کرنے کا حکم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله
الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من
تبعهم بحسان الى يوم الدين. اما بعد :

ہمارے موجودہ دور میں ایسے غیر ملکی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو
غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہیں، اور جہاں کوئی قاضی نہیں ہوتا، باوجود یہ کہ وہاں
کے مسلمانوں کو اپنے بہت سے معاملات میں کسی ایسے قاضی کے فیصلے کی ضرورت
پیش آتی ہے جو ان کے آپس کے جھگڑوں کو نہ شائے، خاص طور پر وہ خواتین جو شرعی
اسباب کی وجہ سے اپنے شوہر سے اپنا نکاح فتح کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔

”رابطہ عالم اسلامی“ کی فقہ اکیڈمی کی جزوی سکریٹریٹ کو غیر اسلامی ممالک
کے بعض ”اسلامی مراکز“ کی طرف سے اس معاملہ کا ایک سوال آیا کہ کیا مسلمان
خاتون اپنے شوہر سے اپنا نکاح فتح کرنے کے لئے غیر اسلامی عدالت کی طرف
رجوع کر سکتی ہے؟ اور کیا ”اسلامی مراکز“ کے لئے جائز ہے کہ اس معاملہ کے لئے

کوئی قائم مقام شرعی قاضی مقرر کرے؟ اور پھر وہ شرعی اسباب میں سے کسی شرعی سبب کی بنیاد پر اس خاتون کا نکاح فتح کر دے؟..... چنانچہ ”اکیدی“ کی جزل سکریٹریٹ کی طرف سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی کہ میں اس موضوع پر مقالہ لکھوں، تاکہ اکیدی کے آئندہ اجلاس میں اس پر بحث کی جائے۔ بہر حال: مندرجہ ذیل سطور اسی حکم کو پورا کرنے کے لئے لکھی گئی ہیں۔ واللہ سبحانہ ہو الموافق جہاں تک غیر مسلم قاضی کی طرف مسلمان عورت کے نکاح کو فتح کرنے کا تعلق ہے، تو یہ شرعاً معتبر نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
(النساء: ۱۴۱)

”اور ہر گز نہ دے اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ کی راہ“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أُولَئِكَاءِ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أُتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا
(النساء: ۱۴۴)

”اے ایمان والو ائہ بناو کافروں کو اپنار فیق مسلمانوں کو چھوڑ کر،
کیا اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لینا چاہتے ہو؟“

امام ابو بکر جاصص رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں :
و اقتضت الآية النهي عن الاستصار بالكافر والاستعاة
بهم والرکون اليهم و الشقة بهم، وهو يدل على ان
الكافر لا يستحق ولولاية على المسلم بوجه . (۱)

مندرجہ بالا آیت کفار سے نصرت طلب کرنے، اور ان سے مدد طلب کرنے: اور ان پر بھروسہ کرنے، اور ان پر اعتقاد کرنے سے ممانعت کا تقاضہ کر رہی ہے۔ لہذا اس آیت سے اس بات پر دلالت ہو رہی ہے کہ کافر کو مسلمان پر کسی طرح کی ولایت حاصل نہیں ہے۔

ہمارے علم کے مطابق فقهاء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر کا مسلمان کے لئے قاضی بننا جائز نہیں، اور اس کا فیصلہ مسلمانوں پر نافذ نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

القضاء خصال مشتركة في صحة الولاية، وهي أن
يكون ذكرًا، حرًا، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، واحداً، فهو
ستة خصال لا يصح أن يولى القضاء إلا من اجتمع
فيه، فأولى من لم تجتمع فيه لم يتعقل له الولاية . (۱)

عہدہ قضاۓ کی ولایت کے لئے چند مشترک خصال ہیں، وہ یہ کہ وہ ذکر ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، واحد ہو۔ بہر حال: یہ چھ صفات ہیں کہ کسی کو قضاۓ کا عہدہ دینا صحیح نہیں مگر جس میں یہ صفات موجود ہوں، لہذا جس شخص میں یہ صفات موجود ہوں ولایت قضاۓ اس کے لئے منعقدہ ہوگی۔

”مجموع شرح المذهب“ میں ہے :

لا يجوز ان يكون القاضي كافراً، ولا فاسقاً، ولا عبداً،
ولا صغيراً . (۲)

(۱) حکایہ عن الخطاب فی مواہب الحلیل ج: ۶ ص: ۸۷

(۲) المجموع شرح المذهب ج: ۲۰ ص: ۱۲۶

یہ جائز نہیں کرتا قاضی کافر ہو، فاسق ہو، غلام ہو، نابالغ ہو۔

علامہ شروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

(شرط القاضی) أى من تصح تولیة للقضاء (مسلم) لأن الكافر ليس اهلاً للولاية، ونسبة على مثله مجرد رئاسة لا تقليد و حكم القضاء، ومن ثم لا يلزمون بالتحکم عنده ولا يلزمهم حکمه، الا ان رضوا به . (۱)

قاضی کی شرط یہ ہے کہ، یعنی ولایت قضاۓ کسی کو دینے کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر ولایت کا اہل نہیں، کافر کو اس جیسے عہدے پر فائز کرنے سے اس کو صرف سرداری اور سربراہی حاصل ہو جائے گی، اس کے حکم اور فیصلے کی تقلید مسلمان کے لئے جائز نہ ہوگی، اسی وجہ سے فریقین کے درمیان تحکم کے نتیجے میں کافر کا فیصلہ فریقین پر لازم نہ ہوگا.....

علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و لا يولى قاض حتى يكون بالغاً عاقلاً مسلماً حرّاً وعدلاً
الخ..... (۲)

یعنی قاضی کو ولایت حاصل نہ ہوگی، حتیٰ کہ وہ بالغ، عاقل، مسلمان، آزاد اور عادل ہو۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے :

و لا تصح ولایة القاضی حتى یجتمع فی المولی
شرائط الشهادة، کذا فی الهدایة، من الاسلام والتكلیف

(۱) حواشی الشروانی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة المہمی ج: ۱۰ ص: ۱۰۶

(۲) المفتی لابن قدامة ج: ۱۱ ص: ۳۸۰

والحرية . (۱)

یعنی قاضی کی ولایت صحیح نہیں حتیٰ کہ اس کے اندر شہادت کی شرائط جمع ہو جائیں، کذافی الہدایہ : یعنی مسلمان ہونا، مکلف ہونا (عاقل ہونا) آزاد ہونا اور
علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و حاصلہ ان شروط الشہادة من الاسلام و العقل و
البلوغ شروط لصححة تولیة و لصححة حکمه بعدها . (۲)
خلاصہ یہ ہے کہ شہادۃ کی شرائط یعنی اسلام، عقل، بلوغ یہ سب تولیت قضاء
کی صحت کی، اور تولیت قضاء کے بعد فیصلے کے درست ہونے کی بھی شرائط ہیں۔
مندرجہ بالا دلائل اور نصوص کی بنیاد پر مسلمان خاتون کے لئے جائز نہیں کہ
وہ اپنے شوہر سے نکاح فتح کرنے کے لئے کافروں کی عدالت میں رجوع کرے،
اور اگر کوئی مسلمان خاتون ایسا کرے گی تو اس کا نکاح فتح نہیں ہوگا۔ ہاں! اگر کسی
خاتون کا نکاح شرعی طریقے پر فتح ہو جائے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آگے آجائے گا۔
اور قانونی طور پر اس نکاح کے فتح کو تسلیم کرانے کے لئے غیر مسلم عدالت کا سہارا
لئے بغیر کوئی سبیل نہ ہو تو اس مقصد کے لئے غیر مسلم عدالت کی طرف رجوع کرنا
جائز ہے، اور غیر مسلم عدالت کا فیصلہ شرعاً نکاح کے فتح کے لئے بنیاد نہ ہوگا، بلکہ غیر
مسلم عدالت کا فیصلہ قانونی اداروں میں فتح نکاح کو تسلیم کرانے کے لئے ہوگا۔

دوسرے سوال

دوسرے سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم ممالک میں ”اسلامی مرکز“ کے لئے یہ

(۱) الفتاویٰ الهندیہ ج: ۳ ص: ۷۰

(۲) رد المحتار ج: ۵ ص: ۳۰۷

جاائز ہے کہ وہ شرعی اسباب کی بنیاد پر مسلمان خواتین کے ان کے شوہروں سے نکاح فتح کرنے کے لئے شرعی قاضی کے قائم مقام بن جائیں؟..... اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح میں اصل یہ ہے کہ وہ معاملہ شوہر کے اختیار اور قبضہ میں ہوتا ہے۔ لہذا عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے، یا عام حالت میں اپنے شوہر سے اپنا نکاح فتح کر دے۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عورت کے لئے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنا معاملہ شرعی قاضی کے سامنے پیش کرے، اور پھر وہ قاضی اپنی ولایت عاصم کی بنیاد پر اس عورت کا نکاح شوہر سے فتح کر دے اور اس فتح نکاح کے لئے کچھ معروف اسbab ہیں، جن میں فقهاء کا اختلاف بھی ہے، مثلاً شوہر کا مفہود ہو جانا، شوہر کا عنین یا بخون ہونا، شوہر کا معمتن ہونا کہ یہوی کو خرچ نہیں دیتا ہے، یا یہوی کو خل سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ وغیرہ..... لیکن مذہب حنفی، شافعی اور حنبلی میں یہ ضروری ہے کہ یہ فتح نکاح شرعی قاضی کی طرف سے ہو۔ اور مجھے ان تینوں مذاہب میں کوئی بات ایسی نہیں ملی جس میں قاضی کے علاوہ کسی اور کویہ اختیار سونپا گیا ہو، لہذا وہ غیر اسلامی ممالک جن میں شرعی قاضی موجود نہ ہو، ان ممالک میں رہنے والی مسلمان خواتین کی اس مشکل کا حل ان تینوں مذاہب میں موجود نہیں۔ ان چاروں مذاہب میں سے صرف ایک مذہب ایسا ہے جس میں اس مشکل کا حل موجود ہے، وہ ہے مذہب مالکی۔ چنانچہ مذہب مالکی کے فقهاء اس طرف گئے ہیں کہ جن جگہوں پر ایسا شرعی قاضی موجود نہ ہو جس کے پاس مسلمان اپنے نزاع اور خصومات لے کر جائیں، ان جگہوں پر یہ ممکن

ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے نزاع اور خصوصات کو نہانے کے لئے شرعی قاضی کے قائم مقام ہو جائے۔ اور فقهاء مالکیہ کی کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ حکم تمام معاملات اور خصوصات کے لئے عام ہے۔ چنانچہ علامہ دسوقی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام
الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعدى الوصول فيه إلى
الحاكم أو لكونه غير عدل . (۱)

جان لیں کہ اس معاملے میں عادل مسلمانوں کی ایک جماعت حاکم اور قاضی کے قائم مقام ہو جائے گی، اور ہر اس معاملے میں جس میں حاکم اور قاضی تک پہنچنا متعذر ہو، یا وہ حاکم غیر عادل ہو۔

مندرجہ بالا عبارت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ حکم کہ مسلمانوں کی ایک جماعت شرعی قاضی کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یہ حکم صرف ان غیر اسلامی ممالک کے لئے نہیں ہے جہاں شرعی قاضی موجود نہ ہو، بلکہ وہ اسلامی ممالک جہاں شرعی قاضی تو موجود ہو، لیکن وہ عادل نہ ہو، وہاں بھی یہی حکم ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا عبارت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا قاضی کے قائم مقام ہونا کسی خاص معاملہ اور قضیہ کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ قائم مقامی ان تمام قضایا اور معاملات میں ہو گی جن میں حاکم اور قاضی تک پہنچنا متعذر را دردشوار ہو۔ اسی لئے ہم فقہاء مالکیہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے معاملات میں جماعت

(۱) حاشیۃ الدسوقي علی الشرح الكبير ج: ۲ ص: ۱۹۵ باب الفقه

مسلمین کے فیصلے کو قاضی کے فیصلے کی طرح معتبر نہ ہے، ان کی بعض عبارات مندرجہ ذیل ہیں۔

چنانچہ علامہ حطاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ولزوجة المفقود الرفع للقاضی والوالی و والی الماء، و
الا فلجماعة المسلمين . (۱)

مفتوق شوہر کی بیوی اپنا معاملہ قاضی کے پاس، والی کے پاس، اور والی الماء کے پاس لے جائے (اگر یہ نہ ہوں، یا عادل نہ ہوں) تو ورنہ جماعت مسلمین کے پاس لے جائے۔

حاشیۃ العدوی میں ہے :

(فانها ترفع أمرها الى الحاكم) المراد بالحاكم القاضی،
كان قاضی انکحة أو غيرها، وأولی قاضی الجماعة
الوالی، وهو قاضی الشرطة، أی السياسة و والی الماء،
أی الذي يأخذ الزکوة، و سموا ولاية المياه، لأنهم
يخرجون عند اجتماع الناس على المياه، والثلاثة في
مرتبة واحدة، لكن القاضی أحوط، فان لم تجد المرأة
واحدة من ذكر فترفع أمرها لجماعة المسلمين . (۲)

یعنی وہ خاتون (جس کا شوہر مفتوق ہو چکا ہو) اپنا معاملہ حاکم کے پاس لے جائے، اور حاکم سے مراد قاضی ہے، چاہے وہ قاضی نکاح ہو یا اس کے علاوہ ہو۔
البته بہتر یہ ہے کہ وہ پوری جماعت مسلمین کے قاضی اور والی کے پاس لے جائے،

(۱) سوانح الحليل للخطاب ج: ۴ ص: ۱۰۵

(۲) حاشیۃ العدوی ج: ۲ ص: ۱۲۱

اس سے مراد پولیس کا قاضی ہے، یعنی ملکی انتظام کا قاضی ہو، اور والی الماء ہو، یعنی جوز کا وصول کرتا ہے، اور ان کو ”ولاۃ الیاہ“، اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ والی اس وقت نکلتے ہیں جب لوگ پانی پر (اس کی تقسیم کے لئے) جمع ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالائیوں افراد ایک درجہ میں ہیں، لیکن قاضی کا ہونا احاطہ ہے۔ البتہ اگر وہ خاتون مندرجہ بالائیوں افراد میں سے کسی کو بھی نہ پائے تو پھر اپنا معاملہ ”جماعت المسلمين“ کے پاس لے جائے۔

الفواکہ الدوائی میں ہے کہ :

لَمْ يَنْصُفِ الْمُصْنَفُ عَلَى مَا تَرَفَعَ لَهُ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ، وَقَدْ
ذَكَرْنَا عَنْ خَلِيلٍ أَنَّهُ الْقَاضِيُّ أَوِ الْوَالِيُّ أَوْ جَمَاعَةُ مِنِ
الْمُسْلِمِينَ . (۱)

یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ مفقود شوہر کی بیوی اپنا قضیہ کس کے پاس لے کر جائے؟ البتہ ہم نے امام ظلیل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ خاتون قاضی کے پاس، یا والی کے پاس، یا مسلمانوں کی جماعت کے پاس اپنا معاملہ پیش کرے۔

علامہ مذاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

وَقَالَ الْقَابِسِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْقَرْوَيْنِ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي
مَوْضِعٍ لَا سُلْطَانٌ فِيهِ لَرْفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى صَالِحٍ جَيْرَانِهَا
يُكَشِّفُوا عَنْ خَبْرِ زَوْجِهَا، ثُمَّ ضَرِبُوا لِهِ الْأَجْلَ أَرْبَعَةَ
أَعْرَامٍ، ثُمَّ عَدَةُ الْنُّوفَاهِ، وَتَحْلِيلُ الْأَزْوَاجِ، لَأَنْ فَعْلَ

الجماعۃ فی عدم الامام کی حکوم الامام۔ (۱)

علامہ قابسی اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اگر وہ خاتون جس کا شوہر مفقود ہو چکا ہو، ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، تو وہ خاتون اپنا معاملہ نیک اور صاف پڑوسیوں کے سامنے پیش کرے، وہ لوگ اس کے شوہر کو تلاش کریں، اور پھر چار سال کی مدت انتظار کے لئے مقرر کریں، پھر اس کے بعد عدت وفات گزارے، اس کے بعد وہ عورت شادی کر کے دوسرے کے لئے حلال ہو جائے گی، اس لئے کہ امام کی عدم موجودگی میں جماعت کا حکم امام کے حکم کی طرح ہے۔

علامہ درویر حمۃ اللہ علیہ مسلکہ ایلاء میں فرماتے ہیں :

فالحاصل أنه يلزم بعد الأجل بالفيفية، فإن امتنع منها أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة

المسلمين۔ (۲)

خلاصہ یہ ہے کہ ایلاء کی مدت گزرنے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا، اگر شوہر رجوع کرنے سے انکار کر دے تو پھر اس کو طلاق دینے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ طلاق دینے سے انکار کر دے تو پھر حاکم طلاق دیدے گا، یا مسلمانوں کی جماعت طلاق دیدے گی۔

نیز وصی کی تعمین کے مسلکہ میں علامہ درویر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

واستحسن ان العرف كالنص، كما يقع كثيراً لأهل

(۱) الناج و الاکلیل للسواد بہامش الخطاب ج: ۴ ص: ۱۵۶

(۲) الشرح الكبير للدردير ج: ۲ ص: ۴۳۶

البواudi و غيرهم أن يموت الأب ولا يوصى على أولاده اعتماداً على أخي أو عم أو جد، ويケفل الصغار من ذكر، فلهم البيع بشروطه، ويمضي ولا ينقض، وينبغى أن يكون ذلك فيمن عرف بالشفقة وحسن التربية، والا فلا بد من حاكم أو جماعة المسلمين . (۱)

مشخص یہ ہے کہ "عرف" یعنی لہ "نفس" کے ہے، جیسا کہ اکثر اہل بواudi وغیرہ میں پر عرف ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھائی، پچھا، اور دادا پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی اولاد پر کسی غیر کو وصی نہیں بناتا، بلکہ مذکورہ حضرات ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں، لہذا یہ حضرات ان بچوں کی ضرورت کیلئے شرعاً اُن کے ساتھ خریدو فروخت کریں گے، البته بعض کو ختم نہیں کریں گے۔ البته مناسب یہ ہے کہ مندرجہ بالا برداشتہ داروں میں سے جس میں شفقت اور حسن تربیت معروف ہو، اس کو ان بچوں کا کفیل بنایا جائے۔ ورنہ حاکم کو کفیل بنایا جائے، یا مسلمانوں کی جماعت کو بنادیا جائے۔

اور علامہ دسوی رحمۃ اللہ علیہ نے "کفالت بالنفس" کے مسئلہ میں جہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ "مضمون" کو "مضمون لہ" کے پر کرنا ایسے شہر میں درست ہے جہاں پر حاکم موجود ہو، اور جہاں سپرد کرنے سے کفیل بالنفس کی خلاصی ممکن ہو، چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

قوله "ان کان به حاکم" المراد ان کان ذلك البلد الذي أحضر فيه يمكن خلاص الحق فيه، سواء كان فيه حاکم او لم يكن، و انما فيها جماعة المسلمين . (۲)

(۱) المرجع السابق ج: ۳ ص: ۲۰۱

(۲) حاشیۃ الدسوی ج: ۳ ص: ۲۴۵

ان کے یہ الفاظ ”ان کان به حاکم“ سے مراد یہ ہے کہ وہ شہر میں جس میں ”مضمون“، شخص مگر حاضر کروئے سے حق سے دست برداری ممکن ہو، برابر ہے کہ اس شہر میں کوئی حاکم مقرر ہو یا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی جماعت موجود ہو۔

نیز علامہ وسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة، أو لضرر الزوجة بخلو الفراش، فلا يفسخ نكاحه الا القاضي مالم يتغذر الوصول اليه حقيقة او حكمًا، بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ، والا قام مقامه جماعة المسلمين (۱)

غائب شخص کے معاملات میں سے ایک معاملہ ”عدم نفقہ کی وجہ سے یا خلو فراش کے نتیجے میں یوں کو ضرر لاحق ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح فسخ کرتا ہے“ لہذا اس غائب کا نکاح قاضی ہی فسخ کرے گا، جب تک کہ قاضی تک پہنچنا حقيقة یا حکماً متعذر نہ ہو۔ حکماً متعذر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فسخ نکاح پر وہ دراهم وصول کرتا ہو۔ ورنہ مسلمانوں کی جماعت ”قاضی“ کے قائم مقام ہو جائے گی۔

مندرجہ بالاعبارات سے ظاہر ہوا کہ فقهاء مالکیہ نصیلے کا اختیار جماعتہ مسلمین کی طرف ان تمام امور میں پرداز کر دیتے ہیں جن میں ”قضاء“ کی ضرورت ہوتی ہے، اور شرعی عادل قاضی موجود نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے علماء مالکیہ کے اس قول میں بڑی محبوبیت اور وسعت اور آسانی ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اس دور میں غیر مسلم ممالک

کو اپنا وطن بنانے والے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان مسلمانوں کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات مسلمان ملکوں کی عدالت میں پیش کریں۔ جبکہ آج عدالتوں کی بہت بڑی تعداد شرعی احکام کی پابند نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلامی ممالک میں بھی، جبکہ دوسری طرف غیر اسلامی ممالک میں رہنے والی مسلمان خواتین کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ وہ خواتین اپنے شوہروں کی طرف سے شدید سختی کا سامنا کرتی ہیں، اور ان ممالک میں ان کے عزیز واقارب بھی نہیں ہوتے، اور شرعاً ان کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنا معاملہ کا فرجوں کے سامنے لے جائیں۔ اب اگر اس معاملے میں ہم مالکیہ کے قول کو نہ لیں تو اس کے نتیجے میں ناقابل برداشت تکلیف اور مشقت پیش آجائے گی۔

چنانچہ فقہاء معاصرین کی ایک قابل اعتماد جماعت نے اس معاملے میں ”مالکیہ“ کے قول کو اختیار کیا ہے، اور دیار ہند میں برطانیہ کے سلطنت کے دور میں اس قول پر عمل کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، جس وقت کہ غیر ملکی قابضین نے شرعی عدالتوں پر پابندی لگادی تھی، اور مسلمانوں کے معاملات کے تصفیہ کے لئے غیر مسلم بجوں کو مقرر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ذاتی اور خصوصی احوال میں بھی (غیر مسلم جن فصلے کرنے لگے) جبکہ ہندوستان میں رہائش پذیر مسلمان کی غالب تعداد حنفی مذہب پر عالم تھی، اس کے باوجود فقہاء حنفیہ نے اس معاملے میں مذہب مالکیہ پر فتوی دیا، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تالیف کی جس کا نام ”الحیلة الناجزة للحليلة العاجزة“

رکھا، اور اس کتاب کی تالیف کی دوران علماء مالکیہ کے بہت سے اہل افتاء کی طرف رجوع کیا، اور پھر مالکیہ کے قول پر فتویٰ دیا کہ اس جیسے ممالک میں مسلمانوں کی جماعت کے لئے قاضی کے قائم مقام ہو کر فتح نکاح کے جواز کے جو شرعی اسباب ہیں ان کی بنیاد پر مسلمان خواتین کے نکاح کو فتح کرنا جائز ہے۔ اور ہندوستان کے تمام علماء نے اس بارے میں ان کی موافقت کی، اور ان علماء کی موافقت ان کی اس کتاب میں موجود ہے۔ (۱)

مالکیہ کے قول، اور موجودہ دور کے جن علماء نے ان سے موافقت کی ہے، اس بنیاد پر میری رائے یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں "مراکز اسلامی" کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس اہم کام کے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت بنالیں، لیکن اس کام کے لئے ان تمام شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہو گا جو شرعی اعتبار سے ان کے فیصلے کو قبول کرنے کے لئے لازم ہیں۔

فقہاء مالکیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں ان شرائط کا خلاصہ مدرج ذیل ہے :

مسلمانوں کی جماعت کی تعداد

جو جماعت قاضی کے قائم مقام ہو کر کام کرے گی، اس جماعت کے اشخاص کی تعداد میں علماء مالکیہ کے مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اس جماعت کے افراد کی کم تعداد تین ہونی چاہیے، چنانچہ شیخ علیش رحمۃ اللہ

(۱) الحیلۃ الناجزة للحلیلۃ العاجزة، حضرت مولانا اشرف علی تہانوی ص: ۱۸۵ تا ۱۹۰

غایر فرماتے ہیں :

و تعبیر المصنف کفیرہ بجماعۃ یقتضی ان الواحد لا
یکفی و کذا الاثنان، و به صرح عج . (۱)

بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ کم از کم تعداد وہوںی چاہیے، چنانچہ علامہ
درودیر رحمۃ اللہ علیہ "الشرح الکبیر" میں فرماتے ہیں :

"و أراد بجماعۃ المسلمين اثنین عدلين فاكثر "

اس کے تحت علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

"ظاهره ان الواحد من العدول لا يكفي، والذى في كثير

خش و شب نقلأً أن الواحد من جماعة المسلمين يكفي"

پھر علامہ درودیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے قول فیصل ذکر کیا ہے،

چنانچہ فرمایا کہ :

قوله : فان لم توجد عدالة فالجمع على اصله، أي لأن
زيادة العدد تجبر خلل الشهادة، وظاهره أنه يكتفى بثلاثة
من غير العدول، ولا يسلم هذا، بل اذا عدلت العدول
يستكشر من الشهود بحيث يغلب على الظن الصدق
المتأتى بالعدول كما هو القاعدة . (۲)

اگر اس جماعت کے افراد میں عدالت نہ ہو تو پھر "جع" اپنی اصل پر رہے
گی (یعنی کم از کم تین افراد ہونا ضروری ہیں) اس لئے کہ تعداد کی زیادتی شہادت کے
اندر پائے جانے والے خلل کی تلاشی کر دے گی، اس سے ظاہر یہ ہے کہ غیر عدول
میں سے تین کی تعداد کافی ہے۔ لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ عدالت کے

(۱) منح الحليل للشيخ علیش چ: ۲ ص: ۳۸۰

(۲) الدسوقی على الشرح الكبير چ: ۲ ص: ۱۵۲

بنعدم ہونے کی صورت میں شہود کی کثرت اتنی ہوئی چاہئے کہ ان کے پچھے ہونے کا
ظلم غالب ہو، جیسا کہ قاعدہ ہے۔

لہذا احوط یہ ہے کہ جماعت اسلامیں کی تعداد تین سے کم نہ ہو۔ اولاً اس لئے
تاکہ اختلاف باقی نہ رہے۔ ثانیاً اس لئے کہ ان افراد میں عدالت کی کمی کی صورت
میں چونکہ تعداد کی کثرت واجب ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایک اور
دو کی تعداد پر اکتفاء کرنے کے قائل ہیں، جیسا کہ ماسبق میں علامہ دردیر اور علامہ
وسوقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات گزر چکیں۔ ثالثاً اس لئے کہ تین کی تعداد پر اعتقاد
زیادہ ہے، خاص طور پر ہمارے زمانے میں، اس لئے کہ فیصلہ میں صرف ایک آدمی
کی رائے بعض اوقات تہمت تک پہنچادیتی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ لفظ "جماعت"
کا ظاہر تین کے عدد کا تقاضہ کر رہا ہے۔

جماعت اسلامیں کے اوصاف

جہاں تک جماعت اسلامیں کے افراد کی قابلیت اور علمی استعداد کا تعلق ہے، تو
فہرہء مالکیہ نے "عدالت" کے علاوہ کسی اور قابلیت کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بھی شرط
نہیں لگائی کہ وہ افراد ہمیشہ علماء میں سے ہوں۔ لیکن بدیکی بات ہے کہ جو معاملہ
اس جماعت کے سامنے پیش ہو، اس کے بارے میں شرعی احکام کا علم اس جماعت
کو ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر وہ جماعت نکاحوں کے بارے میں فیصلے کرتی ہو تو اس
جماعت کو ان کے شرعی اسباب کا علم ہونا ضروری ہے جو نکاح کے فتح کے لئے
ضروری ہیں، اور نکاح کو برقرار رکھنے کے لئے شرعی طریقوں کا علم ہونا ضروری

ہے، اور اس سے متعلق دوسرے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔

اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ وہ جماعت علماء شریعت پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اگر علماء کی مطلوبہ تعداد میراثہ ہو تو اس جماعت کا ایک ممبر ضرور عالم ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم اس جماعت کے ارکان قابل اعتماد علماء سے شریعت کے ان احکام کا علم ضرور حاصل کر لیں جن کی ان کو ضرورت پیش آتی ہو۔ یا وہ حضرات کی معاملہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس معاملے کے بارے میں فقہاء اور علماء سے ضرور استفتاء کر لیں۔

جماعت کے ارکان کے اختلاف کی صورت میں عمل ۔

اگر وہ جماعت اسلامیین تین افراد پر مشتمل ہو تو کیا انکے درمیان اختلاف کی صورت میں اغلبیت کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر سکتے ہیں؟ فقہاء مالکیہ کی کتابوں میں نے نہیں دیکھا کہ اس مسئلے سے تعزیز کیا ہو، لیکن انکی عبارات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامیں کا فیصلہ تمام ارکان کے اشاق سے صادر ہو گا، ”حکمین“ کے بارے میں ان حضرات کے قول پر قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ المدونۃ الکبریٰ میں ہے

قلت : فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ،

قال : اذا لا يكون هناك فراق ، لأن الى كل واحد

منهما ما الى صاحبه باجتماعهما عليه . (۱)

میں نے کہا اگر ”حکمین“ میں اختلاف ہو جائے، ایک حکم طلاق دیدے،

اور دوسرا حکم طلاق نہ دے (تو کیا حکم ہے؟) انہوں نے جواب میں فرمایا: اس صورت میں میاں بیوی کے درمیان تفریق نہ ہوگی۔

علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و لو حکما جماعة فاتفقوا على حکم انفذوه و قضوا به
جاز، قاله ابن کنانة في المجموعة : وجہ ذلک انهم
اذا رضيوا بحکم رجالين أو رجال فلا يلزمهما حکم بعضهم
دون بعض . (۱)

اگر دو آدمیوں نے کسی معاملے میں ایک جماعت کو حکم بنایا، اور وہ جماعت کی فیصلہ پر متفق ہو گئی، اور اس فیصلہ کو نافذ کرو دیا، اور اس کے مطابق فیصلہ کرو دیا تو یہ جائز ہے۔ ابن کنانہؓ نے مجموعہ میں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دونوں دو آدمیوں کے حکم بنانے پر یاد سے زیادہ آدمیوں کے حکم بنانے پر راضی ہوئے تو پھر ان میں سے بعض افراد کا فیصلہ ان کے لئے لازم نہ ہو گا۔

اگر ہم ”جماعتِ اسلامین“ کے مسئلے کو ”حکمین“ کے مسئلے پر قیاس کریں، یا ”حکمین“ کی جماعت پر قیاس کریں تو اسکا نتیجہ یہ ہو گا کہ ”جماعتِ اسلامین“ کا فیصلہ اس وقت نافذ ہو گا جب وہ فیصلہ تمام اركان کے اتفاق سے صادر ہو، اور اگر ارکان کے درمیان فیصلے میں اختلاف ہو تو وہ فیصلہ نافذ نہ ہو گا۔ لیکن جب ہم آج کے دور کے فیصلوں کے عرف کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اغلبیت کی بنیاد پر فیصلے کے نفاذ کو معتبر مانا جاتا ہے، اگر جوں کی ایک جماعت کو کوئی معاملہ سونپا جائے تو ظاہر یہ

ہے کہ اقلیت کی بنیاد پر فیصلہ جائز ہوگا۔ اور ”جماعت اسلامین“ بھی جوں کی ایک جماعت کے قائم مقام ہوتی ہے۔ بہر حال، اس مسئلہ پر مزید غور و خوض کے لئے یہ مسئلہ موجودہ دور کے فقهاء کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔

فتح نکاح میں ”جماعت اسلامین“ کا اختیار

جو کچھ ہم نے اوپر ذکر کیا، اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ مسلمان خواتین جو غیر اسلامی ملکوں میں رہائش پذیر ہیں، اور وہ اپنا نکاح فتح کرانا چاہتی ہیں، تو ان کیلئے چھکارے کا سچی راست یہ ہے کہ وہ اس جماعت کی طرف رجوع کریں جو اسی غرض کے لئے اس ملک میں علماء کی جانب سے یا ”مراکز اسلامی“ کی جانب سے بنائی گئی ہے، اور یہ جماعت اس سلسلے میں وہ تمام اندامات جو شرعی اعتبار سے لازم ہیں، ان کو اختیار کرے، اور تمام ضروری اقدامات کرنے کے بعد، اور اس بات کی یقین دہانی کے بعد کہ فتح نکاح کو جائز قرار دینے کے تمام شرعی اسباب پائے جا رہے ہیں، اس جماعت کے لئے یہ جائز ہوگا وہ یا تو اس خاتون کا نکاح فتح کر دے، یا شوہر کی طرف سے نائب بن کر اس خاتون کو طلاق دیدے، یا شوہر کے مفقود ہونے کی صورت میں شوہر کی موت کا فیصلہ کر دے، جیسا کہ کتب فقہ میں تفصیلات موجود ہیں، اور اس جماعت کا فیصلہ شرعی اعتبار سے محترماً نہ جائے گا، اور عدت گزارنے کے بعد اس خاتون کے لئے دوسرے شوہر سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔

چونکہ جماعت کا یہ فیصلہ غیر اسلامی ممالک میں قانونی اعتبار سے معترض ہیں مانا جائے گا، اس لئے ”جماعت اسلامین“ کی طرف سے فتح نکاح کے نتیجے کے بعد

اس خاتون کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنا معاہلہ اس ملک کی عدالت میں پیش کرے، اور وہاں سے طلاق یا فتح نکاح کا فیصلہ حاصل کرائے۔ وہ خاتون عدالت کی طرف رجوع اس لئے نہیں کرے گی کہ عدالت کی طرف رجوع کرنا فتح شرعی کا حصہ ہے، بلکہ ان مشکلات سے بچنے کے لئے جو سابق شوہر سے فتح نکاح کو قانونی حیثیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس خاتون کو پیش آسکتی ہیں۔

اگر کسی خاتون کو غیر مسلم عدالت کی طرف سے طلاق مل جائے تو وہ طلاق شرعاً معتبر نہ ہوگی، لیکن اگر وہ خاتون اپنی طلاق کی تجھیل کے لئے ”مرکز اسلامی“ کی طرف (یا جماعت اسلامیہ کی طرف) رجوع کرے تو ازاں مرکز اسلامی اس بات کی یقین دہانی حاصل کرے کہ آیا فتح نکاح کو جائز قرار دینے کے لئے یہاں شرعی اسباب موجود ہیں یا نہیں؟ اگر وہاں فتح نکاح کو جائز قرار دینے کے لئے کوئی سبب شرعی موجود نہ ہو تو پھر ”مرکز اسلامی“ (یا جماعت اسلامیہ) کے لئے یہ جائز نہیں ہو گا کہ وہ عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھے یا اس خاتون کا نکاح فتح کر دے۔

البتہ اگر فتح نکاح کے لئے شرعی سبب موجود ہو، مثلاً یہ کہ شوہر مفقود ہے، یا عنین ہے، یا مجنون ہے، یا محضت ہے، یا ان کے علاوہ اسباب فتح نکاح میں سے کوئی سبب موجود ہو جو کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، تو مرکز اسلامی پر لازم ہو گا کہ وہ نئے سرے سے تمام عدالتی اقدامات کرے، اور اس بارے میں تمام شرعی تقاضوں کے پائے جانے کی یقین دہانی کے بعد فتح نکاح کا فیصلہ کرے، اور مرکز اسلامی کے لئے صرف وہاں کی عدالت کے فیصلے کو جاری رکھنے پر اکتفاء کرنا جائز نہیں۔

اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ

اچھا سلوک کرنے کا حکم

(۲)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب قلم الاعالی

ترجمہ

محمد عبد اللہ نیکن

میمن اسلامک پبلیشورز

(۳) اسلامی ملکوں میں غیر مسلوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم یہ مقالہ حضرت والا مدد ظلیل نے "ساعة الاحکام الشرعیة فی علاقۃ المسلمين بغيرهم" کے عنوان سے رابطہ عالم اسلامی کے تیرے اجلاس منعقدہ مملکتہ المکرمة، سعودی عرب، تاریخ ۲۷ مارچ ۲۰۰۳ء میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، یہ مقالہ "بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرة" کی جلد ٹانی میں شائع ہو چکا ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ

اچھا سلوک کرنے کا شرعی حکم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا و
مولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه
اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين .
اما بعد :

یہ مقالہ ”مسلم علاقوں میں غیر مسلموں کے ساتھ شرعی احکام کی اعلیٰ طرفی“
کے بیان پر مشتمل ہے، خاص طور پر وہ احکام جو مکمل تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ”اسلام“ پوری انسانیت کو صرف ایک اللہ پر ایمان
لانے اور تمام انبیاء پر اور تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت
دیتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی
دعوت دیتا ہے، لیکن ”اسلام“ ان چیزوں پر ایمان لانے کے لئے کسی پرجبرا کراہ نہیں
کرتا، بلکہ دعوت کے طریقے پر اور عملی اسالیب سے دلائل قائم کر کے جتوں کی روشنی
میں یہ کام انجام دیتا ہے، اور شک و شبہات دور کرتے ہوئے یہ کام انجام دیتا ہے،
تاکہ جس شخص کا اسلام لانے کا ارادہ ہو، اس کے سامنے حق ظاہر ہو جائے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قُدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَن يَكْفُرُ
بِالظَّاهِرَاتِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْوُنْقَى
لَا إِنْفَصَامٌ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . (البقرة: ۲۰۶)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ”اسلام“ ایمان اور کفر کے درمیان تفریق کرتا ہے، اس حیثیت سے کہ ”ایمان“ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضا مندی کا سبب ہے، نیز اس کا بدلہ و فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اپدی زندگی میں ایمان والے بندوں کے لئے تیار کی ہے۔ جبکہ ”کفر“ کفر“ اللہ تعالیٰ کی نار اصلحی اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ اور ”ایمان“ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جبکہ ”کفر“ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ لہذا طبعی بات یہ ہے کہ مومن اور غیر مومن اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح مومن اور غیر مومن آپس میں دوست اور روی نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا يَتَحِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرُونَ أُولَيَاءِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . (آل عمران: ۲۸)

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُخْلِدُوا الْيَهُودَ وَالْعَنَارِيَ أُولَيَاءَ،
بَعْضُهُمْ أُولَيَاءٌ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِنَّمُ مِنْهُمْ . (آل عمران: ۵۱)

لیکن ناپسندیدہ چیز ”کفر“ اور ”عدم ایمان“ ہے، اور وہ اعمال ناپسندیدہ ہیں جو ایمان کے متفضی کے خلاف ہیں، لیکن کفار اور غیر مسلم اپنی ذات کے اخبار سے ناپسندیدہ نہیں، اگر ان کی ذات ناپسندیدہ ہوتی تو اسلام لانے کی دعوت ہی ان کی

طرف متوجہ نہ ہوتی، نہ ہی مسلمان ان کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کرتے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے، جیسا کہ یہودی غیر یہودی کی ذات کو ہاپنڈ کرتے ہیں، اس لئے ان کے ہاں دوسروں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے کی محاجاش نہیں، اس لئے مسلمانوں کے لئے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی اجازت نہ ہونے کے باوجود اسلام انسانیت کی بنیاد پر غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے سے منع نہیں کرتا، بشرطیکہ وہ معاملات عدل و انصاف، ہمدردی، تعاون علی الخیر اور رفع شر، رفع قلم اور صدر حجی کی بنیاد پر ہوں، بلکہ اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ حقوق انسانی جس میں مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان حقوق کے احترام کی بنیاد پر غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزاریں، لہذا اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ غیر حالت جنگ میں غیر مسلموں کے ساتھ ایزاد اور تکلیف دینے کا سلوک کریں، چاہے وہ تکلیف بدفنی ہو، یا ذہنی ہو، فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ :

لوقال ليهودي أو مجوسى: يا كافر يا ثم ان شق عليه. (۱)
اگر کوئی مسلمان کسی یہودی یا جوی کو "کافر" کہے، اور اس سے اس کو تکلیف ہو، تو وہ مسلمان گنہگار ہو گا۔

اہل ذمہ کے ساتھ سلوک

وہ غیر مسلم ذمی جو اسلامی ملکوں میں مجاہدہ اور امان کے ساتھ رہتے ہیں،

(۱) الفتاوى الهندية، ص: ۲۴۸، کتاب الحظر والاباحة، الباب الرابع

”اسلام“ ان کے انسانی حقوق اور شہری حقوق کا اعتراف کرتا ہے اور ان حقوق کے بارے میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، سو ائے ان لوگوں کے جو اللہ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کرنے میں خلل انداز ہوں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

من قتل معاہدًا لم يرح رائحة الجنة، و إن ريحها يوجد
من مسيرة أربعين عاماً . (۱)

یعنی جو شخص کسی معاہدہ کی کوئی کریمی کو قتل کرے وہ جنت کی خوبیوں میں پائے گا، جبکہ جنت کی خوبیوں سال کی سافت تک آئے گی۔

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

من قتل معاہدًا لفی غیر کنه حرم اللہ علیہ الجنة . (۲)

جو شخص معاہدہ کو وقت کے بغیر قتل کر دے جو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیگا۔

علامہ ابن کثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ اس گی تصریح میں فرماتے ہیں :

کنه الامر : وقته و حقيقةه، والمراد به هنا وقت . (۳)

”کہ“ سے مراد وقت اور حقیقت ہے، اور یہاں پر کہ سے مراد ”وقت“ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

من قتل نفساً معاہدة له ذمة الله و ذمة رسوله، فقد اخفر

بـذمـةـ اللـهـ فـلاـ يـرـحـ رـائـحـةـ الجـنـةـ، وـ إنـ رـيـحـهاـ لـيـوـجـدـ منـ

(۱) صحیح بخاری، کتاب الشہاد، باب ائم من قتل معاہدًا

(۲) ابو داؤد، کتاب الشہاد، باب لی الوفاء للسماعد

(۳) جامع الأصول لابن كثير، ج: ۲، ص: ۶۵۰

مسیرہ سبعین خریفہ۔ (۱)

جو شخص ایسے معابر نفس کو قتل کر دے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا ذمہ ہے، اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، ایسا شخص جنت کی خوبیوں میں پائے گا جبکہ جنت کی خوبیوں سال کی مسافت تک پائی جائے گی۔

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا :

الا من ظلم معاہدًا، أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو اخذ

منه شيئاً بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيمة۔ (۲)

خبردار! جو شخص کسی معابرہ کی ساتھ ظلم کرے، یا اس کے حق کو کم کرے، اور اس کی طاقت سے زیادہ کا اس کو مکلف کرے، یا اس کی کوئی چیز اس کی خوشیوں کے بغیر لے لے تو قیامت کے روز میں اس کی طرف سے دلیل میں غالب آنے والا ہوں گا۔

جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ :

من آذى ذمياً فانا خصمك، و من كنت خصمك خصمك

يوم القيمة۔ (۳)

(۱) فرمذی، کتاب الدیبات، باب ماجاهہ نیمن قتل نفساً معاہدہ، حدیث نمبر ۱۴۰۳

(۲) ابو داود، کتاب المراج و الامارۃ، باب تعمیر اهل النعمة، حدیث نمبر ۳۰۵۴، فی استاذ مجهولان

(۳) اصرحہ الخطیب، کمامی الجامع الصغری للسیوطی، وقال العزیزی: حدیث منکر، المراج المنبر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ذمی کو تکلیف پہنچا کئے تو میں اس کی طرف سے خصم ہوں گا، اور جس کی طرف سے میں خصم ہوں گا تو قیامت کے روز اس سے بھگڑا کر دوں گا۔

اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، جس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے کہ آپ نے فرمایا :

فَإِنْ قَبَلُوكُمْ عَقْدَ الْذَمَّةِ فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ . (۱)

یعنی کفار اگر عقد ذمہ کو قبول کر لیں تو ان کو بتا دو کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر ہیں۔

یہ حدیث اگرچہ حدیث کی مشہور کتابوں میں مجھے نہیں ملی، لیکن اس حدیث کے معنی صحیح ہیں، اور فقہاء کے نزدیک شرعاً معتبر ہے، جیسا کہ غنیریب آجائے گا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء، راشدین، غیر مسلمین میں سے اہل ذمہ کی حقوق کی حفاظت کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ذمہ کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کو اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ وہ اہل ذمہ کو تکلیف نہ دیں۔ چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے وفد سے فرمایا :

لعل المسلمين يفضرون الى اهل الذمة باذى؟

”شاید مسلمان ذمیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں“

جواب میں انہوں نے کہا :

لا نعلم الا الوفاء (۱)

”ہمیں تو صرف حقوق کی ادائیگی کا علم ہے“

بہر حال! اہل ذمہ کے حقوق کی ادائیگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ان کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصود تھا، چنانچہ وہ وصیت جوانہوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لئے کی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اس کی تاکید سے غافل نہیں ہوئے، چنانچہ ان کے وصیت میں سے ہے کہ انہوں نے فرمایا :

و أوصيه بذمة الله و ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكفلوا الا طاقتهم. (۲)

اور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کی وجہ سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے عہد کے مطابق ان کے حقوق ادا کرو گے، اور ان کی خلافت کے لئے قاتل کرو گے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہیں دو گے۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

(۱) تاریخ الطبری ج: ۴ ص: ۲۱۸

(۲) بخاری، کتاب السناب، باب قصہ الیمة والاتفاق علی عثمان رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر: ۱۳۷۰

انما قبلاً عقد الذمة لتكون أموالهم كما موالنا، ودمائهم كدمائنا . (۱)

انہوں نے عقد ذمہ کو اس لئے قول کیا ہے تاکہ ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح، اور ان کی جان ہماری جانوں کی طرح ہو جائیں۔

مندرجہ بالا اصول کی بنا پر فتحاء مسلمین نے اس کی صراحت کی ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اہل ذمہ سے ظلم دور کریں گے، اور ان کی حفاظت کریں گے، چنانچہ امام محمد بن حسن الشیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لأنَّ الْمُسْلِمِينَ حِينَ أَغْنَطُوهُمُ الْذَمَّةَ فَقَدْ التَّزَمُوا دُفْعَةً
الظُّلْمِ عَنْهُمْ، وَهُمْ صَارُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ . (۲)

اس لئے کہ مسلمانوں نے جب ذمیوں کو ذمہ اور عہد دیا تو انہوں نے ان سے ظلم کے دفع کا التزام کر لیا، اور اب ذی "اہل دارالاسلام" ہو گئے۔

اور فتحاء مسلمین نے ہمیشہ حکام کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان کے حالات کی مگرائی کریں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ با دشادہ ہارون رشید کو وصیت کرتے ہیں، اور غیر مسلم ذمیوں کے بارے میں ان سے فرماتے ہیں :

وَقَدْ يَنْبُغِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْدِكَ اللَّهُ أَنْ تَتَقَدَّمَ بِالرَّفِيقِ
بِأَهْلِ ذَمَّةٍ نَّبِيكَ وَابْنِ عَمِّكَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱) بداع المنائع للکاسانی ج: ۷ ص: ۱۱۱

(۲) شرح السر الكبير للسرحسی ج: ۱ ص: ۱۴۰ طبع دارۃ المعارف سنۃ ۱۳۲۵، وراجع لفظاً کتاب الام للشافعی ج: ۴ ص: ۱۲۸، ۱۲۷، و المہلب ج: ۲ ص: ۴۷۲، و کشف النقایع ج: ۱ ص: ۱۲۹

وَسَلَمَ وَالْتَّفِقْدُ لَهُمْ حَتَّىٰ لَا يَظْلِمُوا، وَلَا يُذْهَوْا، وَلَا
يَكْلُفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ (۱)

اسے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کے لئے مناسب ہے
ہے کہ وہ اہل ذمہ جو آپ کے نبی اور آپ کے بھائی کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں ہیں، ان کے ساتھ حزی سے پیش آئے، اور ان کا خیال کرنا،
تاکہ لئے پر ظلم نہ ہو جائے، اور ان کو ایذا اور مت دینا، اور ان کو کسی ایسے کام کرنے کا
مکلف مت بنا جس کی ان کے اندر طاقت نہ ہو۔

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ جبل لبنان کے رہنے والے
بعض ذی امیر المؤمنین کی اطاعت سے نکل گئے ہیں، اور انہوں نے نیا طریقہ اختیار
کر لیا ہے، اس زمانے میں شام پر صاحب بن علی کی حکومت تھی، جو مہماں حکومت کے نے
ایک حکمران تھے، انہوں نے جبل لبنان کے تمام ذمیوں سے لڑائی کی، اور ان کو جلا
وطن کر دیا۔ اس وقت حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل خط لکھا، جس
میں ان کے اس عمل پر ان کو ملامت کی۔ اس خط کی عبارت درج ذیل ہے :

وَقَدْ كَانَ مِنْ أَجْلَاءِ أَهْلِ الدِّرْمَةِ مِنْ أَهْلِ جَبَلِ الْبَلَانِ، مَمَالِمِ
يُسْكُنُ تَمَالِأَ عَلَيْهِ خُرُوجٌ مِنْ خَرْجِهِمْ، وَلَمْ تَطْبِقْ عَلَيْهِ
مَاعِتَهُمْ، فَقَعْدُهُمْ طَائِفَةٌ، وَرَجَعَ بَقِيَّهُمْ إِلَى قَرَارِهِمْ،
فَكَيْفَ تُؤْخَذُ عَامَةً بِعَمَلِ خَاصَّةٍ؟ فَيُنْهَرُ جُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ؟ وَقَدْ بَلَغْنَا إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ
الْعَامَةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ مِنْ كَانَتْ لَهُ حُرْمَةٌ فِي دُنْهُ

فَلَهُ فِي مَالِهِ وَالْعَدْلُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا بِعَبْدٍ
لَا يَكُونُوا مِنْ تَحْوِيلِهِمْ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ فِي سَعَةٍ، وَلَا كُنْتُمْ

أَحْرَارٌ۔ (۱)

جبل بہتان کے رہنے والے ذمیوں کو جلاوطن کیا گیا، جبکہ ان ذمیوں میں
ایسے بھی تھے جو امیر المؤمنین کی اطاعت سے نکلنے والوں میں شامل نہیں تھے، جو اپنی
جماعت کے ساتھ متنق نہیں تھے، چنانچہ ان میں سے ایک جماعت کو قتل کیا گیا، اور
پانی لوگ اپنی بستی کی طرف لوٹ گئے، تو خاص لوگوں کے برے عمل کی وجہ سے تمام
لوگوں سے کیسے مواخذہ کیا جا سکتا ہے؟ کہ ان کو ان کے گروں سے اور ان کے
مالوں سے نکال دیا گیا، اور بینک ہمارے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ
ہے کہ خاص لوگوں کے عمل کی بنیاد پر تمام لوگوں سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔
جس شخص کی جان کی حرمت ہے، اس کے مال کی بھی حرمت ہے، اور مال میں بھی
جان کے مثل انصاف کیا جائے گا، کیونکہ وہ کوئی غلام نہیں ہیں کہ ان کو ایک شہر سے
دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنے کی مجباش ہو، بلکہ وہ لوگ آزاد ہیں۔

امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے نہبہت سی مثالیں ذکر کی ہیں، جو
غیر مسلم ذمیوں کے مخالے میں مسلمانوں کی اختیاط پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے
اموال سے فائدہ اٹھانے سے احتراز پر دلالت کر رہی ہیں، اگرچہ وہ ان اشیاء میں
سے ہوں کہ عرف عام میں ان کے مالکوں کی طرف سے توسع پائی جاتی ہو، ہم ان
میں سے بعض مثالیں یہاں نقل کرتے ہیں۔

(۱) حضرت ابو امامہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اور کہا کہ ہم ذمیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو ہم ان سے کچھ ہو یا اور کوئی چیز لے لیتے ہیں؟ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ ان کے "ذمہ" کی وجہ سے تمہارے لئے ان کی کوئی چیز طالب نہیں، مگر وہ چیز جس پر تم نے ان سے صلح کی ہو۔

(۲) حضرت صصحۃ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ ہم ذمیوں کی زمین میں چلتے ہیں تو ہم ان سے کچھ لے لیتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ بغیر قیمت کے؟ میں نے کہا کہ ہاں، بغیر قیمت کے لے لیتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ایسی چیز کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور اس کے استعمال میں کوئی حرخ محسوس نہیں کرتے، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: تم وہی بات کہتے ہو جو اہل کتاب نے کہی تھی :

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ مِنْ سَيِّلٍ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلَبُ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

(آل عمران: ۷۵)

(۳) حضرت طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: تم ان افراد پر امارت کیلئے تم قدم بھی مت چلو، ذی اور معابد کے مال میں سے سوئی کے برابر یا اس سے زیادہ مال لیکر اسکے مال میں کی کرنے کیلئے تم قدم مت چلو، امام اسلمین کو دھوکہ دیکر بغاوت کرنے کیلئے تم قدم مت چلو۔

(۴) سیجی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد

اللہ مولیٰ سحد نے فرمایا: ابو عبد الرحمن سے مردی ہے، ابو عسید کو اس بارے میں شک ہو گیا۔ فرمایا کہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا، ایک باغ کے پاس ہم پہنچے تو رات کی تاریکی نے ہمیں تغیر لیا۔ دوسری حدیثہ ہمیں یہ الفاظ ہیں کہ، ذمیں میں سے کسی ذی کے باغ کے پاس پہنچے تو رات آگئی۔ ہم نے اس باغ کے مالک کو تلاش کیا، وہ مالک ہمیں نہیں ملا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر تم کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت ملاقات کرو، تو اس باغ میں سے کسی چیز کی کمی مت کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے رات بھوکے ہونے کی حالت میں گزاری، حتیٰ کے صبح ہو گئی۔

(۵) حضرت ولید بن مسلم حضرت سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو الدرا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کے دوران ذمیں کی کمی میں اترتے تو سوائے اس کے کہ ان کے بیہاں پانی پی لیں، اور ان کے سایہ سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کے چڑاہ گاؤں میں اپنے جانوروں کو چڑا لیں، اس کے علاوہ کوئی چیزان سے نہ لیتے، اور ان چیزوں کے عوض بھی ان کو کوئی چیز یا پیسے دینے کا حکم دیتے۔

(۶) حضرت ولید حضرت عثمان بن ابی عائکہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، جس کو ”در“ کہا جاتا تھا، اور یہ ”خوط“ کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی، آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ نہر ”بردی“ کے کنارے ہمارے زمین سے ایک مساوک لے آؤ، جب وہ غلام جانے لگا تو آپ نے کہا کہ واپس

آکے دیکھو! وہ مساوک شن دے کر لانا، اس لئے کہ وہ مساوک عنقریب سوکھ جائے گی، اور سوکھنے کے نتیجے میں وہ حطب بن جائے گی جو شن کے ذریعہ فرمودھت کی جاتی ہے۔

(۷) حضرت ولید فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس شخص سے فرمایا جو ایک غزوہ میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کسی کھیت کو مت رومندا، اور امام کی اجازت کے بغیر کسی بلندی پر مت چڑھنا، اور ذہنوں کی گماں لینے سے بھی پرہیز کرنا (کہیں ایسا نہ ہو) تم بعد میں کہو میں نمازی ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی اس شخص سے یہی الفاظ کہے۔

(۸) حضرت ولید بن مسلم، خالد بن زید بن مالک سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے مقام "جاہیہ" کا سفر کیا، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ذمیوں میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آکر اطلاع دی کہ لوگوں نے ان کے انگور توڑنے میں جلدی کی ہے، آپ باہر نکلنے تو آپ کے اصحاب میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جو ایک ڈھال اٹھائے ہوئے تھے، اور اس ڈھال پر انگور تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان صاحب سے کہا: تم بھی؟ (کیا تم بھی انگور توڑنے والوں میں ہو گئے) ان صاحب نے کہا: اے امیر المؤمنین! ہمیں بھوک گی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، اور انگور کے مالک کو

انگور کی قیمت ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ (۱)

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے یہودی کے پاس سے گزرے جو لوگوں سے سوال کر رہا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اپنے گرفتے آئے، اور اپنے ذاتی مال میں سے اس کو پچھہ دیا، اور پھر اس کو بیت المال کے خازن کے پاس بھیجا، اور اس سے کہا کہ اس کو دیکھو، اور جزیہ دینے والوں کو دیکھو۔ اللہ کی تم! اگر ہم نے ان کی جوانی کے زمانے میں ان کا جزیہ کھایا، اور پھر بڑھا پے میں ہم ان کو ذیل کر دیں تو یہ ہم نے انصاف نہیں کیا۔ اور یہ صدقات تو فقراء اور مساکین کے لئے ہیں، فقراء تو مسلمان ہیں، اور یہ ذمی جو اہل کتاب میں سے ہیں، مساکین میں داخل ہیں، پھر آپ نے اس سے جزیہ اور تکمیل ختم کر دیے۔ (۲)

جہاں تک دوسرا ممالک کے غیر مسلمین کا تعلق ہے، تو ان کے ساتھ تعلقات حالت امن اور حالت جنگ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں :

حالات امن میں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات

غیر مسلم ممالک کے ساتھ مصالحت اور امن پسندی رکھنا اگر مسلمانوں کی مصلحت سے معارض نہ ہو تو وہ نفس قرآنی سے شروع اور جائز ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَإِنْ جَنَحُوا إِلَّا لِلَّهِمْ فَاجْنَحْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الإِنْسَان: ۶۱)

(۱) محدث بن الآزار ابو عبیدہ نے کتاب الانوار میں تجزیہ کئے ہیں، ص: ۱۶۳-۱۶۴ فقرہ نمبر: ۲۲۲-۲۲۳

(۲) کتاب المراجع امیں یوسف ص: ۲۰۹-۲۱۰

”اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔“
حالت امن میں یہ تعلقات عدل و انصاف، مواسات، تعاون علی اخیر اور
دفع شر کی بنیاد پر ہیں۔

(۱) عدل و انصاف

جہاں تک عدل و انصاف کا تعلق ہے تو یہ تمام مسلمانوں سے ہر حالت میں
مطلوب ہے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّايمِينَ بِالْقِسْطِ شَهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ . (النساء: ۱۳۵)

”اے ایمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور
خوشنودی مولا کے لئے پھی گواہی دینے والے ہن جاؤ، اگرچہ وہ خود
تمہارے اپنے خلاف ہو، یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے“

قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس آیت پر تعبیر آئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ
بعض اور عداوت مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ مسلمان اس قوم کے
ساتھ عدل و انصاف کے خلاف سلوک کریں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّايمِينَ لِلَّهِ شَهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَبْخِرُ مَنْكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى الْأَنْعَدِلُوا إِنْدِلُوا سُلْطَانٌ أَقْرَبَ
لِلتَّقْوَى . (البائت: ۸)

”اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، حق اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو، وہ (عدل) پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے“

اور اللہ تعالیٰ نے خاص صفت کے ساتھ اس کی تائید فرمائی کہ عدل و انصاف ہر مسلمان پر واجب ہے، حتیٰ کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے میں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَلَا يَسْجُرِ مِنْكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُّؤُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَذِرُوا . (السالۃ: ۲)

”جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ“

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو ان کفار پر زیادتی کرنے سے منع کر رہی ہے، جن کفار نے مسلمانوں پر ان کو مسجد حرام میں جانے سے اور عمرہ ادا کرنے سے روک کر زیادتی کی تھی، لیکن جب ان کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو گئی تو مسلمانوں کو ان کفار کو ایذا دینے سے روک دیا گیا، باوجود یہکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ان کی زیادتی اس زیادتی کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ تھی، جس زیادتی کا مسلمانوں نے ان کو پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کے وقت من جملہ اقامت عدل میں سے

وَعْدَهُ كَيْ وِفَادَارِي، اُور مصالمت کی شرائط کی پاسداری بھی ہے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتَحْوِلاً . (بی اسرائیل: ۳۴)

”اور پورا کیا کرو تم لوگ اپنے عہد کو، پیشک عہد کی باز پر ہو گی“

وَعْدَہُ کی وِفَادَارِی کے واجب ہونے کے بارے میں قرآن کریم کی بہت سی آیات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث و اورد ہوئی ہیں، اور یہ احکام صرف کتابوں کے اندر ہی موجود نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد متلامان ایسی روشن مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں کہ دوسری کسی قوم میں بھی ایقاء عہد کی ایسی مثالیں نہیں ملتیں۔

حضرت خدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے نکلے، کفار قریش نے ان دونوں کو پکڑ لیا، اور اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جب تک ان سے یہ وَعْدَہ اور عہد نہیں لے لیا کہ تم دونوں مدینہ منورہ جاؤ گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قبال نہیں کرو گے۔ چنانچہ اس وَعْدَہ پر ان دونوں کو چھوڑ دیا، یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ پہنچے، اور اس وقت غزوہ بدربتار تھا، ان دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک ہو جائیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا :

اَنْصُرْفَا، نَفْي لَهُم بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ . (۱)

(۱) صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسبیر، باب الرفاء بالعهد، تکملہ فتح الملمح ج: ۳ ص: ۱۸۸

تم دونوں واپس چاؤ، ان کے عہد اور وعدہ کی وجہ سے ان کو شرکت سے منع فرمایا، اور دعا کی کہم اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر ان غزوتوں میں سے تھا جسی میں مسلمان اپنی تعداد بڑھانے کے زیادہ محتاج تھے، اور غزوہ بدر کی شرکت ایمان لانے کے بعد سب سے براشرفت تھا جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ دوسری طرف مکہ مسجد میں نے حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو عہد لیا تھا، وہ تکوار کی نوک پر لیا تھا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لئے اس غزوہ کی شرکت کی فضیلت سے محروم ہونے کو پسند فرمایا، لیکن اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی طرف یہ بات منسوب ہو کہ انہوں نے مشرکین کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو توڑا ہے۔

حضرت سليم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ اس جنگ بندی کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے علاقے کی طرف چلتے رہے، جیسے ہی جنگ بندی کی مدت ختم ہوئی، ان پر حملہ کر دیا۔ پیچھے سے گھوڑے پریا چخ پر سوار ایک شخص آئے، اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے ”الله اکبر، اللہ اکبر، وفاء لا غدر“، یعنی مسلمان کا کام و قادری ہے، غداری نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے دیکھا کہ وہ آنے والے شخص حضرت عمرو بن عبّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے سن، آپ نے فرمایا :

من کان بینه و بین قومہ عهد، فلا پشد عقدہ ولا يحلها
حتی ینقضی امدها، او ینبذ اليهم علی سواء

یعنی جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ عہد ہو تو وہ نہ اس عہد کو توڑے، اور نہ
کھولے، یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، یا اس عہد کو انکی طرف برابری
کی بنیاد پر واپس ڈال دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن کر
واپس لوٹ گئے۔ (۱)

حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کی مدت ختم ہونے سے
پہلے قابل شروع نہیں کیا تھا، بلکہ اس مدت میں وہ دشمن کے شہر کی طرف جا رہے
تھے، اور پھر عہد کی مدت ختم ہونے کے بعد ان پر حملہ کیا، لیکن حضرت عمر بن عبد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکو ”غداری“ کا نام دیا۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

و يشبه أن يكون عمرو إنما كره مسیر معاوية إلى ما يتناх
بلاد العدو، والإقامة بقرب دارهم من أجل أنه إذا هادنهم
إلى مدة، وهو مقيم في وطنه، فقد صارت مدة مسيرة بعد
القضاء المدة كالمشروع مع المدة المضروبة في أن لا
يغلوهم فيها، فليامنوه على انفسهم، فإذا كان مسيرة اليهم
في أيام الهدنة حتى ينبع بقرب دارهم كان ايقاعه بهم قبل
الوقت الذي يتوقعونه، فكان ذلك داخلاً عند عمرو في

(۱) أبو داود، کتاب الجنہاد، حدیث نمبر: ۲۴۵۹، ترمذی، باب ماجاء فی الغدر، حدیث نمبر:

معنی الغدر۔ (۱)

خیال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے شہر کی سرحد کی طرف سفر کرنے، اور دارالحرب کے قریب قیام کرنے کو اس لئے تائپند کیا کہ جب ان سے ایک مدت معینہ تک کے لئے صلح ہو گئی، اور وہ دشمن اپنے وطن میں مقیم ہے، تو مدت صلح ختم ہو جانے کے بعد سفر کرنے کی مدت بھی اسی مدت معینہ کے اندر داخل تھی، جس مدت میں ان کے ساتھ لا ای تباہ کرنی تھی، لہذا وہ اس مدت میں اپنی چانوں پر بالکل مامون تھے۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اپنے وطن میں زمانہ صلح میں ہوا، اور انہوں نے دشمن کے وطن کے قریب جا کر پڑا اور اُمال دیا تو گویا کہ دشمنوں کو جس کی موقع تھی، اس سے پہلے ہی یہ حملہ ہو گیا، لہذا حضرت عمر بن عبّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ چیز "غدر" کے مفہوم میں داخل تھی۔

امام ابو عبد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

قال يزيد : لم يرد معاوية أن يغير عليهم قبل لقضاء المدة ، ولكن أراد أن تنقضى و هو في بلادهم ، فيغير عليهم و هم غازون ، فانكر ذلك عمر ذلك عمو بن عبّة ، ألا ان لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم و يخبرهم أنه يريد غزوهم . (۲)

(۱) معامل السنن للبغدادی، مع تلخيص المتذکر، ج: ۴، ص: ۶۴، الطبعة العربية لاهور ۱۳۹۱ھ

(۲) كتاب الاموال لأبي عبد، باب الصلح والمواعدة، ص: ۱۷۶، فقره: ۴۴۸

یزید کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدت ختم ہونے سے پہلے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ارادہ یہ تھا کہ جب صلح کی مدت ختم ہو تو وہ اپنے شہر علی میں ہوں، اور ان پر اس وقت حملہ کریں جب وہ غفلت میں ہوں، حضرت عمرو بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تکیر فرمائی، الایہ کہ ان کا اطلاع کئے بغیر ان پر داخل نہ ہوں، اور ان کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ وہ ان پر حملہ کر رہے ہیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا، تمہارے کی جگہوں کی تاریخ میں اس کی نظر نہیں ملتی، کہ مدت صلح گزارنے کے بعد اچاک حملہ کر کے دشمن کے جتنے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، اس کو باطل کر دیا، اور دشمن کے شہر میں داخل ہونے کے بعد اور اس کی بعض زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے شہر سے واپس لوٹ گئے، یہ سب کچھ ایک دیتی رائے کی بنیاد پر کیا، جس کا انہیا حضرت عمرو بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، تاکہ ورع اور احتیاط سے تباہ زندہ ہو جائے۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ صلح کے زمانے دشمن کے بلاد کی طرف جانا معاہدہ کے خلاف نہیں ہے، جب تک کہ وہ چنان مسلمانوں ہی کی زمین میں ہو، دشمن کی زمین میں داخل ہونا نہ ہو۔ اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی لڑائی سے دست بردار ہو گئے جس سے دشمن پر غلبہ پانے اور اس پر فتح حاصل کرنے کی زیادہ امید تھی۔ جس عہدو پیمان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کیا، وہ صرف صراحت کے ساتھ الفاظ کی شکل کی حد تک مدد و نہیں تھے، بلکہ ان میں وہ عہدو پیمان بھی شامل ہیں جو دشمنوں کے ساتھ صراحتاً نہیں باندھے گئے تھے، لیکن وہ عہدو پیمان یا تو عرف کے اعتبار سے محو نہ تھے، اور حکم الافتقاء بھی محو نہ تھے۔

انہی میں سے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانہ کفر میں قریش نے ان کو اپنا خط دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آئے۔ وہ خود اپنا واقعہ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

بعضی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القى فی قلبی الاسلام، فقلت : يا رسول اللہ ! انى والله لا ارجع اليهم أبداً، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : انى لا اخیس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فان کان فی نفسک الذی فی نفسک الآن ، فارجع، قال : فذهبت، ثم اتیت الشیی صلی اللہ علیہ وسلم فأسلمت . (۱)

یعنی قریش نے مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں احالم نے گھر کر لیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! اب میں ان قریش کے پاس کچھی واپس نہیں جاؤں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں بد عہدی نہیں کروں گا، اور میں قاصد کو اپنے پاس نہیں رکون گا، لیکن تم واپس جاؤ، وہاں جانے کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں سبھی خیال ہو جو خیال اس وقت ہے، تو تم واپس آ جانا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، اور پھر دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں مسلمان ہو گیا۔ دیکھئے! اس واقعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں ہوئے

(۱) ابو داؤد، کتاب الحجہاد، باب مستحبن الامام فی المهد، حدیث نمبر ۲۷۵۸، باسناد صحیح

کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر ان کے پاس رہ جائیں، جبکہ آپ کے دشمنوں نے ان کو اپنا قاصد اور رسول بنا کر بیچھا تھا، اس لئے کہ وہ لوگ ان کی واپسی کے منتظر تھے، چنانچہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

قولہ : ”لا أحبس البرد“ فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جواباً، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجنته و رجوعه . والله أعلم (۱)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ”لا أحبس البرد“ کہ میں قاصد کو اپنے پاس نہیں رکوں گا۔ اس کے معنی ہیں کہ ”خط“ جواب کا تقاضہ کرتا ہے، اور جواب خط سمجھنے والے تک قاصد ہی کے ذریعہ اس کے واپس جانے کے بعد اس کی زبانی پہنچے گا، گویا کہ اس قاصد نے ان کا خط لے کر جانے اور واپس آنے کا عہد کیا تھا (اب اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیتے تو اس عہد کی خلاف ورزی ہوتی، اس لئے آپ نے ان کو واپس کر دیا) واللہ اعلم اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت نظر اور احتیاط ملاحظہ کریں کہ حالت اس میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ وہ کوئی اور بد عہدی سے پر ہیز فرمایا۔

(۲) المواساة (اظہار ہمدردی)

حالت اس میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات صرف عدل و انصاف اور وفاداری کی حد تک مختصر نہیں ہوتے، بلکہ یہ تعلقات اظہار ہمدردی اور احسان

(۱) معلم السنن للمعطاني ج: ۴ ص: ۶۳ المطبع العربي، الامور ۱۳۹۹

کرنے کی حد تک وہ بخوبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔
(المتحدة : ۸)

انہی میں سے وہ واقعہ ہے جو صحیح احادیث میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کو شدید قحط لاحق ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ جانوروں کی بہیاں اور کھانیں کھانے پر مجبور ہو گئے (حضرت) ابوسفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے، اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے یہ قحط ہٹا دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بارش کی دعا کی، جس کے بعد بارش ہوئی، اور قحط کی مصیبت ان سے دور ہو گئی۔ (۱)

حضرت اماماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں :

قدمت امی وہی مشرکة فی عهد قریش و مدتہم اذ
عاہدوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابیها، فاستفعت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت: ان اُمی قدمت وہی
راغبة، قال: نعم صلی امک۔ (۲)

حضرت اماماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میری والدہ جبکہ مشرک کہیں میرے پاس اس زمانے میں تشریف لا سیں۔ جس زمانے میں قریش مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، و تفسیر سورۃ الدخان، حدیث نمبر ۴۸۲۱ تا ۴۸۲۴

(۲) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب صلة المرأة امها، حدیث نمبر: ۵۹۷۹

کے ساتھ جنت میں ہو گا معاہدہ کیا تھا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے کہا: کہ میری والدہ میرے پاس ضرورت کے لئے آئی ہیں (میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صدر جی کرو۔

حضرت امام محمد بن الحسن الشیعی رحمۃ اللہ علیہ "السیر الکبیر" میں فرماتے ہیں:

عن ابن مروان الخزاعی قال: قلت للمجاهد: رجل من أهل المشرک بيني وبينه قرابة، ولی عليه مال، أدعه له؟ قال: نعم و صله، وبه نأخذ فنقول: لا يأْس بآن يصل المسلم الرجل المشرک قریباً كان او بعيداً، محاربًا كان او ذمياً، لحديث سلمة بن الاکوع قال: صليت الصبح مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت مس کف بين كتفی، فالتفت فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: هم أنت واهب لى ابنة أم قرفه؟ قلت: نعم، فوهبته لها، ثم بعث بها الى حاله حزن بن ابی وهب و هو مشرک، وهی مشرکة، وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس مائة دینار الى مکة حين قحطوا، و امر بدفع ذلك الى ابی سفیان بن حرب، و صفوان بن امية، ليفرقا على فقراء اهل مکة، فقبل ذلك ابی سفیان و ابی صفوان، وقال: ما يريد محمد بهذا الا ان يخدع شباننا . (۱)

(۱) شرح السیر الکبیر للسرخسی، باب صلة المشرک ج: ۱ ص: ۶۹

ابن سروان فرازی سے مردی ہے کہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے کہا کہ مشرکین میں سے ایک شخص کے ساتھ میری قرابت داری ہے، اور میر اس کے ذمے مال ہے، کیا وہ مال میں اس کے لئے چھوڑ دوں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اور اس کے ساتھ صدر جی کرو، اسی سے ہم دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک کے ساتھ صدر جی کرے، چاہے وہ مشرک قریبی رشتہ دار ہو، یا دور کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ حرbi ہو، یا ذمی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ پھیرا، جب میں ادھر متوجہ ہوا تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے فرمایا: کہ کیا تم مجھے اب قرفہ کی بیٹی بہہ کر دوں گے؟ میں نے کہا: ہاں، چنانچہ میں نے اب قرفہ کی بیٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پنجی ان کے ماموں حزن بن ابی وہب کے پاس بیج دی، حزن ابی وہب بھی مشرک تھا، اور وہ پنجی بھی مشرک تھی۔ اور جس زمانے میں کمکرمہ میں قحط پڑا، اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سو دینار مکہ مکرمہ بیجے، اور ابوسفیان ابن حرب اور صفوان بن امیہ کو دینے کا حکم دیا، تاکہ یہ دینار مکہ مکرمہ کے فقراء میں تقسیم کر دے جائیں، ابوسفیان نے ان دینار کو قبول کر لیا، لیکن صفوان بن امیہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مود (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے ذریعہ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔

تاریخ اسلام میں اس جیسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، ان سب کو ہم یہاں جمع کرنا نہیں چاہتے، جو مثالیں ہم نے اوپر ذکر کیں، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ کفر اور شرک سے بعض مسلمانوں کو غیر مسلمین سے صدر رحی چھوڑنے اور ہمدردی چھوڑنے پر آمادہ نہیں کرتا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ صدر رحی اور ہمدردی ان مکارم اخلاق میں شمار کرتے ہیں جب کی تھیں لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ کو مجموع کیا گیا۔

(۳) اپنے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

اسی طرح کفر و شرک کے ساتھ بعض و عناو مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیں، اور ظلم اور شرکو دور کرنے میں، اور کمزوروں، ضعیف اور ناداروں کے ساتھ مدد کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیں، بلکہ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون شریعت اسلامیہ کے ان مبادی میں سے ہے جس کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے، چنانچہ کفار پر ظلم اور تعدی نہ کرنے کے سیاق میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ
وَلَا الْهَذَى وَلَا الْقَلَبَى وَلَا آمِنَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ يَتَعَفَّفُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاضْطَادُوا وَلَا
يَجْرِي مِنْكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَغْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْأَئِمَّةُ وَالْعَدُوُانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(السادسة: ۲)

اک آیت کا شان نزول یہ ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حدیبیہ کے سال میں جب مشرکین کہنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اس لئے بعض مسلمانوں نے یہ چاہا کہ چونکہ مشرکین کہہ نے ایام صلح میں مناسک حج عمرہ دا کرنے سے ہمیں روک دیا تھا، اس لئے ہم ان سے انتقام لیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو انتقام لینے سے روک دیا، لہذا یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس آیت میں جس تعاون کا ذکر ہے وہ غیر مسلمین کے ساتھ تعاون کو بھی شامل ہے، بلکہ یہ آیت غیر مسلمین کے سیاق میں نازل ہوئی۔

لہذا اگر غیر مسلمین کے پاس انسانیت کے فرع کے لئے کوئی ایسا لائق عمل اور طریقہ کار ہو، جس میں شریعت اسلامیہ کے معارض کوئی بات نہ ہو تو مسلمانوں کے لئے اس طریقہ کار میں اور اس منصوبے میں شریک ہونا، اور اس بارے میں غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کرنا مستحسن ہے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”حلف الفضول“ میں غیر مسلموں کے ساتھ شرکت کر کے اس کو ثابت کر دیا۔

”حلف الفضول“ نبی ہاشم کے لئے بڑی باعث فخر چیز تھی، اس واقعہ سے پہلے اہل عرب تھب و نسلی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور دوسرے قبائل کے ساتھ اس پر معاہدہ کرتے تھے کہ حق پر ہونے یا باطل پر ہونے سے آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے ”حلف الفضول“ وہ پہلا معاہدہ تھا جو انصاف اور مظلوم کی نصرت کی بنیاد پر اہل عرب نے ایک دوسرے سے عہد لیا تھا، چنانچہ قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ زبرہ اور قبیلہ تم کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچا

زیر بن عبد المطلب کی دعوت پر عبد اللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیس سال تھی، چنانچہ ان قبیلوں نے اللہ کے نام پر یہ معاهدہ کیا کہ ”وہ ضرور بالضرور مظلوم کا ساتھ دیں گے، جب تک سندھ میں ایک اون کے برابر تری رہے، اور جب تک معاش میں ایک دوسرے کو تسلی دیجاتی رہے، یہاں تک کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے“

حضرت جب مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا:

ما احسن لی بحلف حضرتہ بدوار ابن جدعان حمر
النعم، و انى اغدر به، هاشم و زهرة و تيم تحالفوا ان
يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة، ولو دعيت به

لا جبت .^(۱)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دار ابن جدعان میں جو حلف ہوئی تھی اس کے عوض میرے پاس سرخ رنگ کے اوپٹ ہوں، اور میں اس حلف سے بیوقافی کروں، قبیلہ ہاشم، قبیلہ زہرا اور قبیلہ تیم نے آپس میں یہ معاهدہ کیا تھا کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے، جب تک سندھ میں ایک اون کے برابر تری رہے، اگر دوبارہ مجھے اس جیسے معاهدہ کے لئے دعوت دی گئی تو میں اس کو قبول کرلوں گا۔

حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد عبد الرحمن ابی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

(۱) طبقات ابن سعد ج: ۱ ص: ۱۲۸، ۱۲۹۔ پسند فی الواقعی، و راجع ایضاً: عمود الانزال ابن سید الناس ج: ۱ ص: ۹۴

فرمایا کہ :

لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعیت
بہ فی الاسلام لأجابت، تحالفوا أن يردو الفضول على
أهلها، والا يعز ظالم مظلوماً۔ (۱)

فرمایا کہ میں عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں حلف کے لئے حاضر ہوا، اگر
اسلام میں بھی مجھے اس طرح کی قسم کے لئے مجھے بلا یا گیا تو میں قبول کروں گا، اس
میں لوگوں نے اس بات پر قسم کھائی تھی کہ وہ فضل (مال) کو اس کے مالک پر واپس
لوٹائیں گے، اور ظالم کو مظلوم پر عزت نہیں دی جائے گی۔

امام حاکم[ؑ] نے متردک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ان الفاظ میں حدیث نقل کی ہے کہ :

شدهت غلاماً مع عمومتی حلف المطیفين فما یسرنی
ان لی حمر النعم وانی الکثہ۔ (۲)

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں
اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف المطیفين میں حاضر ہوا تھا، اور مجھے یہ بات خوش نہیں
کرتی کہ میرے لئے سرخ اوٹ ہوں اس کے بجائے کہ میں اس عہد اور حلف کو
توڑ دوں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں "حلف المطیفين" سے مراد
"حلف الفضول" ہے، اور جو "حلف المطیفين" مشہور ہے، وہ حضور اقدس صلی

(۱) السہرہ النبویہ لابن کثیر ج: ۱ ص: ۲۵۸ دار الحکایہ، التراث العربي

(۲) مستدرک الحاکم، آخر کتاب السکاتب، ج: ۲، ص: ۲۲۰، و آفرہ علیہ اللہ عاصی

الله عليه وسلم سے پہلے ہوئی تھی۔ (۱)
 بہر حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول میں حاضر ہونا، اور
 زمانہ اسلام میں اس کا اقرار کرتا بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ علامہ
 سیفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

وَكَانَ حَلْفُ الْفَضُولِ أَكْرَمُ حَلْفِ سَمِعٍ بِهِ، وَأَشَرْفَهُ فِي
 الْعَرَبِ، وَكَانَ أُولُّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَدَعَا إِلَيْهِ الزَّبَرِينَ عَبْدَ
 الْمُطَلَّبَ، وَكَانَ سَبِيلُهُ أَنْ رَجَلًا مِنْ زَيْدِ قَدْمَ مَكَةَ بِضَاعَةَ
 فَأَشْتَرَاهَا مِنْهُ الْعَاصِمَةُ أَبْنَ وَانْلَ، وَكَانَ ذَا قَدْرٍ بِمَكَةَ وَ
 شَرْفِهِ، فَحُبِسَ عَنْهُ حَقَّهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ الزَّبَرِيُّ
 الْأَحْلَافِ: عَبْدُ الدَّارِ وَمَحْزُومًا وَجَمِيعًا وَسَهْمًا وَعَدَى
 بْنُ كَعْبٍ، فَابْرَأُوا أَنْ يُعِينُوهُ عَلَى الْعَاصِمَةِ بْنُ وَانْلَ، وَزَبَرُوهُ،
 أَيْ انتَهَرُوهُ، فَلِمَّا رَأَى الزَّبَرِيُّ الشَّرَّ أَوْفَى عَلَى أَبِي
 قَيْسٍ عِنْدَ طَلْوَعِ الشَّمْسِ وَقَرِيشَ فِي اندِيَتِهِمْ حَوْلَ
 الْكَعْبَةِ، فَصَاحَ بِالْأَعْلَى صَوْتَهُ :

يَا آلَ فَهْرَ لِمَظْلُومٍ بِسَاءَتِهِ بِبَطْنِ مَكَةَ نَائِي الدَّارِ وَ النَّفَرِ
 وَمَحْرَمٌ أَشَعْتَ لَمْ يَقْضِ عُمْرَتَهُ يَا لِلرِّجَالِ وَبَيْنَ الْحَجَرِ وَالْحَجَرِ
 أَنَّ الْحَرَامَ لِمَنْ تَمَتَّ كَرَامَتَهُ وَلَا حَرَامَ لِثُوبَ الْفَاجِرِ الْغَلَرِ
 ”حلف الفضول“ عرب میں سب سے معزز اور سب سے زیادہ شرف والی
 حلف کبھی جاتی تھی، اس حلف کے بارے میں سب سے پہلے جس نے گفتگو کی، اور
 اس حلف کی دعوت دی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہ زیر بن مطلب
 تھے۔ اس حلف کا سبب یہ ہوا کہ قبیلہ ”زید“ کا ایک شخص سامان تجارت لے کر کہ

سکرمنہ آیا، عاص بن واہل نے وہ سامان اس سے خرید لیا، عاص بن واہل مکہ میں بڑے مرتبہ اور عزت والا شخص تھا، چنانچہ عاص بن واہل نے اس کا حقن (اس سامان کی قیمت) رکد لیا "زبیدی" نے اپنے حلقوں سے یعنی عبد الدار مخزوں اور جم اور سہم اور عدی بن کعب سے اس ظلم کے خلاف مدد طلب کی، ان سب نے عاص بن واہل کے خلاف مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کو ڈاٹ کر بھگا دیا، جب "زبیدی" نے یہ برائی دیکھی تو وہ طلوع مش کے وقت "جبل الی قیس" پر چڑھا، اس وقت قریش کعبہ کے پاس اپنی مجلس میں موجود تھے، چنانچہ "زبیدی" نے بلند آواز سے یہ اشعار پڑھے :

اے اہل فہر! مظلوم کی مدد کرو جس کو وادی مکہ میں برائی پہنچی، جو اپنے کمر سے اور اہل دعیاں سے دور ہے، اور محروم ہے، پر انگدہ ہے، جس کی زندگی ابھی پوری نہیں ہوئی، اے وہ لوگو! جو حجر اور حجر کے درمیان مقیم ہیں، پیشک بیت الحرام کی حرمت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، لیکن دھوکہ دینے والے فاجر کے لئے کوئی حرمت نہیں۔

فَقَامَ فِي ذلِكَ الْبَزَبِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ وَقَالَ: مَا الْهَذَا
مُتَرَكٌ؟ فَاجتَمَعَتْ هاشم وَ زَهْرَةٍ وَ تَيْمٌ بْنُ مَرْءَةٍ فِي دَارِ
ابْنِ جَدْعَانَ، فَصَنَعُ لَهُمْ طَعَاماً، وَ تَحَالَّفُوا فِي ذِي الْقَعْدَةِ
فِي شَهْرِ حَرَامٍ قِيَاماً، فَتَعَاقدُوا وَ تَعاهَدُوا بِاللَّهِ، لِيَكُونَنَّ
يَدُوا وَاحِدَةً مَعَ الظَّالِمِ عَلَى الظَّالِمِ حَتَّى يُؤْدِي إِلَيْهِ حَقَّهُ
مَابْلُ بِحَرَصُوفَةٍ وَ مَارْسَا حَرَاءَ وَ ثَبِيرَ مَكَانَهُمَا، وَ عَلَى
النَّاسِ فِي الْمَعَاشِ فَسَمِّتْ قَرِيشَ ذَلِكَ الْحَلْفَ
”حَلْفَ الْفَضُولِ“ وَ قَالُوا: لَقَدْ دَخَلَ هُؤُلَاءِ فِي فَضْلِ مَنْ

الامر، ثم مشوا الى العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة
الزبيدي فدفعوها اليه . (۱)

چنانچہ زبیر بن عبدالمطلب کھڑے ہوئے، اور کہا: کون اس مظلوم کی مدد
کرے گا؟ چنانچہ ان کی آواز پر ہاشم، زہرا اور قیم بن مرۃ ابن جدعان کے گھر میں
جمع ہوئے، ابن جدعان نے ان کے لئے کھانا تیار کیا، اور انہوں نے حرمت والے
مینے میں یعنی ذیقعدۃ کے مینے میں کھڑے ہو کر قسم کھائی، اور اللہ کے نام پر آپس
میں یہ معاهدہ کیا کہ وہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی مدد کے لئے یہ واحد کی طرح
ہو جائیں گے، جب تک سندھ میں ایک اون کے برابر تری رہے گی، یہاں تک کہ
مظلوم کو اس کا حق ادا کر دیا جائے، چنانچہ قریش نے اس معاهدہ کو ”خلف الفضول“
کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایک فضیلت والے کام کے لئے جمع
ہوئے، اس کے بعد وہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے، اور اس سے ”زبیدی“
کا سامان چھینا، اور زبیدی کے حوالے کر دیا۔

زبیر بن عبدالمطلب نے اس واقعہ کے بیان میں یہ دو شعر کہے :

ان الفضول تعاقدوا و تحالفوا الا يقيم بيطن مكة ظالم
أمر عليه تعاقدوا و تواثقوا فالجار المعتبر فيه سالم (۲)
یعنی اہل فضل میں آپس میں معاهدہ کیا اور قسم کھائی کہ وادی مکہ میں کوئی ظالم
قیام نہیں کرے گا، یہ ایسا معاملہ ہے جس پر انہوں نے آپس میں عہد دیا ہے کیا کہ
پناہ لینے والا اور معتز اس وادی میں سالم اور محفوظ رہے گا۔

(۱) الروض الانف للشهبلى ج: ۱ ص: ۱۵۶ دارالعرفة، بيروت، ۱۳۹۸ھ به قصہ سیرت ابن
کثیر میں بھی موجود ہے، ج: ۱ ص: ۲۰۹ (۲) ابضا

جہاں تک اس حلف کو "حلف الفضول" کا نام رکھنے کا تعلق ہے تو "سہیل" کی عبارت جو ابھی گزری، اس میں یہ ہے کہ وہ قسم کھانے والے ایک فضیلت والے کام کے لئے جمع ہو گئے تھے (اس لئے اس کو "حلف الفضول" کا نام دیا گیا) لیکن علامہ ابن قتبہ نے ایک دوسری وجہ بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا :

کان قد سبق فریشنا الی مثل هذا الحلف جرهم فی
الزمن الأول، فتحالف منهم ثلاثة، وهم و منتبعهم،
أحدهم : الفضل بن فضالة، والثانی : الفضل بن وداعة،
والثالث : فضیل بن حارث..... فلما أشبہ حلف قریش
الآخر فعل هولاء الجرهمین سمي "حلف الفضول"
والفضول جمع فضل، وهي اسماء أولئک الذين تقدم
ذکرهم، ذکرہ السهیلی أيضاً ثم قال: وهذا الذي قاله
ابن قتبة حسن . (۱)

اس جیسی قسم کی طرف پہلے زمانے میں قبیله "جرهم" قریش پر سبقت لے گئے، چنانچہ قبیله "جرهم" کے تین افراد نے آپس میں قسم کھائی، اور دوسرے لوگوں نے ان کی اتباع کی، ان میں سے ایک فضل بن فضالة تھے، دوسرے فضل بن وداعۃ تھے، اور تیسرا فضیل بن حارث تھے۔ جب قبیله قریش کی یہ قسم اہل "جرهمین" کی قسم کے مشابہ ہو گئی تو اس کا نام "حلف الفضول" رکھ دیا گیا، فضول فضل کی جمع ہے، یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن کا ذکر اور پر ہو چکا ہے۔ امام سہیل نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابن قتبہ حسن نے بھی یہی بیان کیا ہے۔

بعد کے زمانے میں "حلف الفضول" ایک اصل بن گئی، جس کو بطور جماعت اور بطور دلیل خیش کیا جانے لگا، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو درست قرار دیا، اور ظہور اسلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ :

لو دعیت بہ فی الاسلام لا جب

اگر زمانہ اسلام میں بھی مجھے اس قسم کے حلف اور معابدے کے لئے دعوت دی گئی تو میں اس کو ضرور قبول کرلوں گا۔ اسی لئے بہت سے لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے، اور جب ان کو مدد کے لئے بلا یا گیا تو انہوں نے مدد کی۔ چنانچہ علامہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ "حلف الفضول" کی بنیاد پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وَ إِن كَانَ الْإِسْلَامُ قدْ رَفَعَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ
يَا لِفَلَانَ عَنْدَ التَّحْزِيبِ وَالتَّعْصِبِ..... وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِخْرَوَةً، وَلَا يَقُولُ إِلَّا كَمَا قَالَ عَمَر
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، يَا إِلَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لَا نَهْمُ كُلَّهُمْ
حَزْبٌ وَاحِدٌ، إِخْرَوَةٌ فِي الدِّينِ، إِلَّا مَا خَصَّ الشَّرِعُ بِهِ أَهْلُ
حَلْفِ الْفَضُولِ، وَالْأَصْلُ فِي تَخْصِيصِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ دَعَيْتَ بِهِ الْيَوْمِ لَا جَبَتْ" يَرِيدُ: لَوْ قَالَ
قَائِلُ مِنَ الْمُظْلُومِينَ "يَا لِحَلْفِ الْفَضُولِ" لَا جَبَتْ، وَ
ذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ اِنْمَا جَاءَ لِاقْتَامَةِ الْحَقِّ وَنَصْرَةِ
الْمُظْلُومِينَ، فَلَمْ يَزْدَدْ بِهِ هَذَا الْحَلْفُ إِلَّا قُوَّةً، وَقَوْلُهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَمَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَنْ يَزْدَدْ
الْإِسْلَامُ إِلَّا شَدَّةً" لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ الْحَلِيفُ: يَا لِفَلَانَ

لحلفاء و في جيوبه، بل الشدة التي عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي راجعة إلى معنى التواصل والتعاطف والتآلف، وأما دعوى الجاهلية فقد رفضها الإسلام إلا ما كان من حلف الفضول كما قدمنا، فحكمه باق، والمدعوة به جائزة . (۱)

اگرچہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھیں، جیسے گروہ بندی، اور تعصّب کے طور پر اہل عرب کا یہ قول "یا للهlan!" یا اس لئے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنادیا ہے، لہذا ب وہ جملہ کہا جائے گا جو جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، وہ یہ کہ "یا للہ و للمسلمین" اس لئے کہ تمام مسلمان ایک گروہ ہیں، اور دین میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مگر "حلف الفضول" والوں کو شریعت نے خاص کر دیا، حلف الفضول کی تخصیص کی وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا: "ولو دعیت به الیوم لاجبت" آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مظلوم ان الفاظ سے پکارے "یا لحلف الفضول" تو میں اس کو قبول کر کے حاضر ہو جاؤں گا، اس لئے کہ اسلام تو حق کو قائم کرنے کے لئے اور مظلومین کی مدد کے لئے آیا ہے، اور اس حلف الفضول سے اسی کوتقویت ہوتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول "وما كان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الاسلام الا شدة" کہ زمانہ جاہلیت میں جو بھی تحالف ہوا، اسلام اس کے اندر اور شدت پیدا کر دیتا ہے،

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب حلیف ان الفاظ سے پکارے کہ ”یا لفلان“ تو اس کے حلفاء اس کی پکار پر حاضر ہو جائیں، بلکہ جس شدت کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اس سے مراد ایک دوسرے کے ساتھ صدر حجی، ایک دوسرے سے ہمدردی، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جہاں تک جاہلیت کے دعویٰ کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو خکرا دیا ہے، الایہ کہ وہ دعویٰ ”حلف الغفول“ کی طرح ہو، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا، لہذا اس کا حکم اب بھی باقی ہے، اور اس کی دعوت دینا جائز ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ”حلف الغفول“ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا برقرار رکھنا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے جائز، بلکہ محسن ہے کہ وہ غیر مسلمین کے ساتھ ایسے معاهدہ میں شریک ہوں جس کا مقصد مظلوم کی مدد کرنا، اور ظلم کو دفع کرنا ہو، اور دوسرے اچھے مقاصد ہوں جو انسانیت کے لئے مفید ہوں۔ اور جب مسلمان تعاون علی الخیر کے لئے اس طرح کے معاهدے میں شامل ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے، جو اس معاهدے کے تحت شامل ہو گا، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو۔

غزوہ فتح مکہ کی کامیابی کا سبب بھی یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلفاء نبی خزاعم کی مدد فرمائی تھی، جب کہ غیر مسلم تھے۔ یہ اس طرح ہوا کہ صحیح مذہبیہ میں یہ بات ملے ہو چکی تھی کہ عرب کے قبائل کو اختیار ہے کہ وہ اس معاهدہ میں جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں، یا قریش کے ساتھ ہو جائیں، قبلہ بنو خزاعم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاهدے میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ قبلہ بنو بکر قریش کی طرف ہو گیا

تھا، اور بھی بگرا اور بھی خزانہ کے درمیان پرانی دشمنی چل آ رہی تھی، اس معاهدہ صلح کے نتیجے میں اسن قائم ہو گیا تو قبیلہ بنو بکر نے یہ ارادہ کیا کہ اس امن کے زمانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزانہ سے اپنا انتقام لے لیں، چنانچہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے قبیلہ بنو خزانہ میں رات گزاری، اور چند لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس معاهدے کو توڑ دیا، اور قریش مکہ نے ہتھیاروں کے ذریعہ قبیلہ بنو بکر کی مدد کی، اور خفیہ طور پر قریش کے سرداروں نے ان کے ساتھ مل کر قتال کیا۔

اس واقعہ کے بعد قبیلہ بنو خزانہ کے ایک شخص عمرو بن سالم خزانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ کے اور قبیلہ بنو خزانہ کے درمیان جو معاهدہ ہوا تھا، اس کی یاد دھانی کرائی، اور آپ سے مدد اور نصرت طلب کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ”نصرت بیا عمرو بن سالم“ اے عمرو بن سالم تمہاری مدد کی جائے گی، اس کے بعد آپ نے قریش مکہ کو پیغام بھیجا کہ (چونکہ تم نے معاهدہ کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا) تمن پاؤں میں سے ایک کو اختیار کرو (۱) یا تو قبیلہ خزانہ کے مقتولین کی دیت ادا کرو (۲) یا قبیلہ بھی بکر جنہوں نے زیادتی کی ہے، ان کے معاهدہ سے بری ہو جاؤ (۳) یا ان کے درمیان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معاهدہ ہوا ہے اس کو ختم کر دو۔ قریش مکہ نے تیری بات یعنی معاهدہ توڑنے کو اختیار کر لیا، جس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، اور مکہ مکرمۃ فتح ہو گیا۔ (۱)

خلاصہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو خزانہ کی ہر طرح سے مدد

(۱) یقہ سیر کی تمام کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے، دیکھئے سیرہ ابن حشام ج: ۲ ص: ۳۹ زاد العاد ج: ۱ ص: ۴۱۹ فتوح البلدان للبلزاری ص: ۴۹، ۵۰ فتح الباری ج: ۸ ص: ۶

کی، اور صلح حدیبیہ میں جو امن معاہدہ ہوا تھا، اس کو توڑنا اس کا سبب بنا، جس کی انتہاء اس پر ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کی طرف مقابلے کے لئے اٹھ کر ہے ہوئے، اور بالآخر کہ فتح ہو گیا۔

بہرحال: یہ سارا اوقعہ مشترک مقاصد میں، اور ان کاموں میں جن کا نفع وسیع پیانے پر تمام نوع انسانیت کو پہنچتا ہے، ایسے کاموں میں مسلمانوں کا غیر مسلمین کے ساتھ تعاون کرنا اسلام اور مسلمانوں کی کشارادہ دلی پر دلالت کرتا ہے۔

غیر مسلم جنگ جوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے جہاد اور قیال کو "اعلام کملۃ اللہ" کے لئے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے، اور اللہ کے بندوں کو، مخلوق کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نکالنے کے لئے، اور مسلم ممالک اور دین پر قبضہ کے دفاع کے لئے مشروع اور جائز کیا ہے، اور تمام مذاہب اور ادیان میں حالت جنگ میں دشمن کے غلبہ کو، اور اس کی شان و شوکت توڑنے کو، اور جان و مال پر قبضہ کرنے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔

جس وقت دنیا میں اسلام آیا، اس وقت زمین کے مشرق و مغرب میں، کسی ضابطے کی قید کے بغیر، اور جنگ کے کسی دامیے اور سبب کے بغیر، اور دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے اور جنگ کی مہارت میں کسی خاص طریقہ کی اتباع کے بغیر لا ایسی کی آگ چاروں طرف روشن تھی۔ شاید اسلام کو اس کے اندر سبقت حاصل ہے کہ لا ایسی کے لئے ایک منضبط طریقہ کار جاری کرنے میں، اور جنگوں کو معلوم

قوانين کے تحت لانے کے لئے ایسا دینا وی کیا نظم قائم کیا، جو اس کو لا قانونیت سے نکال کر ایک منظم جائز مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔

(۱) جنگ کے مقاصد کی اصلاح

پہلی چیز جس کو جنگ کے معاملے میں اسلام نے بنیاد بنا�ا ہے، وہ یہ کہ وہ جنگ کسی جائز سبب کے لئے اور اچھے مقصد کے لئے ہو، اسی لئے اسلام نے ان تمام جنگوں کو لغو اور باطل قرار دیدیا جن کے پیچے ان کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ یا تو بھادری کا اظہار کرنا، یا شہرت حاصل کرنا، یا مال حاصل کرنا، یا زمین کا مالک بننا، یا سانی اور رعنی عصیت کا تحفظ کرنا مقصود تھا، اسلام میں قتال اور جنگ مشروع اور جائز نہیں، مگر یہ کہ اس کا مقصد اعلااء کلمة اللہ ہو، اور اسلام اور مسلمانوں کے قبضہ کے دفاع کے لئے ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَقْاتِلُ لِلْمَغْنِمِ، وَالرَّجُلُ يَقْاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يَقْاتِلُ لِلْيُرْبِّيِّ مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَياً، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . (۱)

ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ ایک شخص اس لئے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کو مال غنیمت حاصل ہو، ایک شخص شہرت حاصل کرنے کے لئے قتال کرتا ہے، ایک شخص عزت کے لئے قتال کرتا ہے، ان

(۱) بخاری، کتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حدیث نمبر: ۲۸۱

میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لئے قتال کرے تا اللہ تعالیٰ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، وہ شخص فی سبیل اللہ قتال کرنے والا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ :

ان رجلا قال: يارسول الله ارجل ي يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يتغنى عرضًا من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله صلی الله علیہ وسلم : لا اجر له . (۱)

ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یارسول اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنا چاہتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔

لہذا وہ جگئیں جو دنیاوی دشمنی کی لئے لڑی جائیں، یا عصی جذبات کے لئے لڑی جائیں، یا جن کا ہدف دوسروں کو غلام بناتا اور ملک گیری ہو، یہ ساری جگئیں وہ ہیں جن کا ”اسلامی جہاد“ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلامی جہاد سے دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں :

اول یہ کہ اسلام کا دفاع کرنا، یا اگر اسلامی حکومت پر کفار حملہ کر دیں تو اس کا دفاع کرنا، اس کی طرف اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے :

(۱) ابوداؤد، کتاب الجهاد، باب فیمن یبغزو و یلتمس الدلیل، حدیث نمبر ۲۵۱۶

أَذْنَ الْلِّيْلِيْنَ يَقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ، الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَعْبُرُ حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا
رَبُّنَا اللَّهُ
(الحج: ۴۹)

دوسراً جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِيْنَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ
(البقرة: ۱۹۰)

اور جہاد کا دوسرا مقصد ظلم اور فتنہ کو دفع کرنا، اور کفر کی ایسی شان و شوکت کو
توڑنا جو اسلام کی دعوت دینے اور اس کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو، اس کی
طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے، وہ اصدق
القالین :

وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُنَ فِتْنَةٌ وَلَا يَكُونُنَ الظَّيْنَ كُلُّهُ لِلَّهِ

(الانفال: ۳۹)

اسلامی جہاد کے یہ اہداف ہیں جن کو حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عن
نے ایران کے پہلوان "رستم" کے سامنے بیان کئے تھے، جس وقت مسلمانوں نے
کسری پر جملہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لے کر آئی
ہے، اس سوال کے جواب میں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا :

اللَّهُ ابْتَعَثَنَا نَخْرُجُ مِنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ،
وَمِنْ ضيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعْتِهَا، وَمِنْ جُورِ الْأَدِيَانِ إِلَى عَدْلِ
الاسلام . (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی

سے اللہ کی بندگی کی طرف نکالیں، اور لوگوں کو دنیا کی تنگی سے اسکی وسعت کی طرف نکالیں، اور مذاہب کے مظالم سے اسلام کے عدل کی طرف نکالیں۔

حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول "وَمِنْ جُورِ الْأَدِيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ" کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے پر زبر دستی کی جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم اور غلامی سے اس عدل و انصاف کی طرف نکالیں جس کو اللہ جل شانہ نے زمین پر اللہ کی شریعت جاری کرنے کے لئے مشروع کیا ہے، یہاں تک کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیدیا جائے، یا ظالمین کی شوکت کو توڑ کر ایسا ماحول تیار کیا جائے جس میں ہر انسان کھلی آنکھوں سے مذاہب کے درمیان موازنہ کر سکے، اور کفر اور ظلم کی شوکت حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔

مندرجہ اصول کے ذریعہ اسلام نے ان جنگوں کا راستہ بند کر دیا جن کا مقصد ملک پر قبضہ کر کے دوسروں کو غلام بنانا، اور ان کے اموال اور زمینوں پر تسلط جانا مقصود ہو۔

(۲) جنگ کے دوران جاری طریقوں کی اصلاح

پھر عین جنگ کے دوران جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں، اسلام نے ان کے لئے عادلانہ قواعد ضوابط وضع فرمائے ہیں، تاکہ وہ جنگ لا قانونہت کا معاملہ نہ بن جائے جو کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہ ہو، چنانچہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم جب چہاد کے لئے کوئی فوجی دستہ سمجھتے تو ان کے سامنے ان ضوابط کی وضاحت

فرماتے، اور اس دستے کو اس پر کار بند رہنے کی تاکید فرماتے، چنانچہ حضرت بریڈہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امیراً على
جیش او سریہ، او صاحب فی خاصته بتقوی اللہ، و من معه
من المسلمين خیراً، ثم قال: اغدووا باسم اللہ فی سیل
اللہ، قاتلوا من کفر باللہ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا
تمثروا ولا تقتلوا ولیداً . (۱)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر یا کسی دستے پر کسی شخص کو
امیر بناتے تو اس کو خاص طور پر اللہ سے ڈرنے، اور تقوی اختیار کرنے اور جو
مسلمان ان کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی وصیت فرماتے، اور
پھر فرماتے: اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو شخص اللہ تعالیٰ کے
ساتھ کفر کرے، اس سے قتال کرو، جہاد کرو، خیانت مت کرو، دھوکہ مت دو، مثلہ
مت کرو، اور کسی بچہ کو قتل مت کرو۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا بعث جیشا
قال: انتطقووا باسم اللہ، لا تقتلوا شیخاً فانیاً، ولا طفلاً
صفیراً، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا اغناكم، اصلحوا
واحسنوا، ان اللہ يحب المحسنين . (۲)

(۱) صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسبیر، باب ثامر الامراء على البعث

(۲) ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب دعاء المشرکین، حدیث نمبر ۲۶۱۴ و فی سنده عالد بن الغزر
الراوی عن انس، لم یوثقہ غیر ابن حبان، وبقیت حالہ ثقات، وله شواهد یتقوی بہا۔

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو آپ اس لشکر سے فرماتے کہ اللہ کے نام پر چل پڑو، کسی بوزھے گھوٹ کو قتل مت کرنا، کسی چھوٹے پچھے کو قتل مت کرنا، کسی عورت کو قتل مت کرنا، خیانت نہ کرنا، مال غیمت ایک جگہ پر جمع کرنا، اور لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔

عام دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی لشکر کسی مہم پر بھیجا جاتا ہے تو اس وقت کی مناسبت سے اس وقت لشکر کا قائد لشکر کے سامنے جذباتی انداز سے ان کو دشمن کے خلاف لڑائی پر ابھارتا ہے، دشمن کے مقابلے کے لئے ان کی غیرت کو برآئیجنتہ کرتا ہے، تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ دشمن سے لا ہیں..... لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو روانہ کرتے وقت اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ لڑائی کے دوران دشمن کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ :

وَجَدَتْ اُمَّرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبَيَانِ . (۱)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ میں ایک مقتولہ عورت پائی گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر نکیر فرمائی۔

(۱) بخاری، کتاب الحجہاد، باب قتل الصبیان فی الحرب، حدیث نمبر: ۳۰۱۴

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کی طرف لٹکر بیجے، اور ان پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور رخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلے، اور چلتے ہوئے مندرجہ ذیل وصیت کی :

انک ستجد قوماً زعموا انهم حبسوا انفسهم لله،
فدعهم، وما زعموا انهم حبسوا انفسهم له وانی
وصیک بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً
هرماً، ولا تقطع شجراماً همراً، ولا تخربن عامراً، ولا
تعقرن شاة و لا بعيراً الا لاماكله، ولا تغرقن نخلاً و لا
تحرقة، ولا تغلروا و لا تجبثوا . (۱)

فرمایا کہ آپ وہاں پر ایک ایسی قوم کو پائیں گے جن کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لئے اپنی جانوں کو روک رکھا ہے (اس سے مراد رامیں ہیں، جنہوں نے اللہ کی عبادت کے لئے رہبانیت اختیار کی ہے) تو ایسے لوگوں سے تعرض مت کرنا، اور میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، نہ کسی بڑی عمر کے بوڑھے کو قتل کرنا، کسی پھل دار درخت کو مت کا شنا، کسی آبادی کو دیران مت کرنا، کسی بکری کی اور کسی اونٹ کی کوچیں مت کا شنا، (اس کو زخمی مت کرنا) والا یہ کہ کھانے کا ارادہ ہو، کسی بھجور کے درخت کو مت کا شنا، نہ اس کو جلانا، اور مال غنیمت میں خیانت مت کرنا، اور بزرگی مت کھانا۔

اسلام سے پہلے جو عادات راجح تھی، وہ یہ تھی کہ لڑائی کرنے والے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے جو ذریعہ اختیار کرنا ان کی قدرت میں ہوتا، اس ذریعہ کو

(۱) انصرخہ مالک فی الموطا، کمائی جامع الاصول لابن کثیر ج: ۲ ص: ۵۹۸، ۵۹۹

اختیار کرنے کی ان کو اجازت ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے ان کے لئے یہ جائز طریقے جاری کئے، یہاں تک کہ ”احکام الجہاد اور قبال“ ایک مستقل علم بن گئے، اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، شاید اس موضوع پر سب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں ”کتاب السیر للاذاعی“ اور ”کتاب السیر الکبیر“ للامام محمد بن حسن الشیانی ہیں، جن میں جنگ کے احکام اور ملکی تعلقات کے موضوع پر بسط و تفصیل کے ساتھ لکھتے گئے، اور یہ سب احکام قرآن کریم، اور حدیث نبوی، اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے تعالیٰ کی بنیاد پر لکھتے گئے۔

(۳) جنگ کے دوران عدل والنصاف قائم رکھنا

بیشک اسلام نے قبال کے دوران جن ضوابط کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، جو ضوابط ہم نے اوپر بیان کئے، اسلام نے صرف ان کی تعلیمات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ حالت جنگ میں بھی باریک بینی کے ساتھ عدل قائم کرنے کا پورا اہتمام کریں۔

مثلاً تمام مذاہب اور ادیان میں یہ بات ملے شدہ ہے کہ جنگ کی حالت میں دشمن کا مال حلال اور مباح ہو جاتا ہے، لہذا جنگ لڑنے والوں کے لئے یہ جائز ہے کہ جس طریقے سے بھی بن پڑے، دشمن کے اموال پر قبضہ کر لیں، لیکن اسلام نے اس اجازت کو ان اموال تک محدود کیا ہے جن کو مسلمان اپنی قوت بازو سے حاصل کریں، لیکن دشمن کا وہ مال جوان کے پاس امامت کے طور پر آیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس مال پر زبردستی قبضہ کر لیں۔

اس اصول کی تطبیق کے لئے بہترین عملی مثالوں میں سے وہ واقعہ ہے جو غزوہ خیبر میں حضرت اسود عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ احادیث اور سیر کی کتابوں میں مختلف طرق سے مردی ہے، یہ واقعہ ہم یہاں امام نبیؐ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے امام المغازی حضرت موسی بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرمایا :

ثم دخلوا یعنی اليهود حصلنا لهم منيما يقال له العموص، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من عشرين ليلة، وكانت أرضًا و خمة شديدة الحر، فجهد المسلمين جهداً شديداً، فوجدوا أحمرة انسية ليهود، فذكر قصتها و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها.. قال: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خير، كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خير قد أخنوا السلاح سالهم: ما ت يريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم انهنبي، فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل بخنمه حتى عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: ماذا تقول؟ وما تدعوا اليه؟ فقال: أدعوا الى الاسلام، و ان تشهد ان لا اله الا الله، و انى رسول الله، و ان لا تعبد الا الله، قال العبد: فماذا الى ان أنا شهدت و آمنت بالله؟ قال: لك الجنة ان مت على ذلك فأسلما . (۱)

(۱) دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاه في قصة العبد الاسود اسلام يوم عبیر ج: ۴ ص ۲۱۹

یعنی وہ یہودی ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو گئے، جس کو "عموس" کہا جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً میں دن تک ان کا محاصرہ کیا، وہ زمین خراب اور شدید گری والی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی مشقت اٹھائی، صحابہ کرام نے یہودیوں کے پالتو گدھے پائے، ان کا واقعہ بیان کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے سے منع فرمایا۔

اسی موقع پر اہل خبر کا ایک سیاہ فام جوشی غلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو اپنے والک کی بکریاں چڑایا کرتا تھا، اس غلام نے اہل خبر کو دیکھا کہ انہوں نے تھیار پہنے ہوئے ہیں، اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اس غلام سے کہا کہ ہم اس شخص سے جنگ کر رہے ہیں جس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اس غلام کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں پیش گیا، وہ اپنی بکریوں کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئکر کی طرف چلا، بہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا، اور آپ سے کہا: آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہتم "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی گواہی دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس غلام نے کہا: اگر میں ان باتوں کی گواہی دوں، اور اللہ پر ایمان لے آؤں تو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے جنت ہے، اگر اس حالت میں تم مر جاؤ، چنانچہ وہ غلام اسلام لے آیا۔

اس غلام نے کہا: اے اللہ کے نبی! یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان بکریوں کو ہمارے لئکر سے نکال دو، اور اور لئکریوں کے ذریعہ ان کو مارو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے امانت پہنچادیں گے، اس غلام نے ایسا ہی کیا، اور بکریاں اپنے مالک کے پاس واپس چل گئیں۔

ایک دوسری روایت میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ :

فَقَالَ لَهُ أَنَّى قَدْ آمَنْتَ لَكَ وَبِمَا جَنَّتْ بِهِ، فَكَيْفَ بِالْغَنِيمَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَهِيَ لِلنَّاسِ الشَّاةُ وَالشَّاتَانُ
وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: احْصِبْ وَجْهَهَا تَرْجِعُ إِلَى
أَهْلِهَا، فَاخْتَدِ قَبْضَةً مِنْ حَصَابَاءَ أَوْ تَرَابٍ فَرِمِّيْ بِهِ
وَجْهَهَا، فَخَرَجَتْ تَشْتَدَّ حَتَّى دَخَلَتْ كُلَّ شَاهَ إِلَى
أَهْلِهَا، ثُمَّ تَقْدَمَ إِلَى الصَّفَ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فُقْتَلَهُ، وَلَمْ يَصُلْ
لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ادْخُلُوهُ الْخَيَّاءَ..... فَقَالَ لَقَدْ حَسِنَ اسْلَامُ صَاحِبِكُمْ، لَقَدْ
دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَأَنْ عَنْدَهُ لَزُوْجَتِينَ لَهُ مِنَ الْحَوْرِ الْعَيْنِ۔ (۱)

اس غلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: میں آپ پر اور جو چیز آپ لے کر آئیں ہیں اس پر ایمان لے آیا۔ یا رسول اللہ امیں ان بکریوں کا کیا کروں؟ یہ تو میرے پاس لوگوں کی امانت ہے، کسی شخص کی ایک بکری، کسی شخص کی دو بکریاں، اور کسی کی دو سے زیادہ ہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نکریاں اٹھا کر ان کے چہرے پر مارو، یہ بکریاں اپنے مالکوں کے پاس لوٹ جائیں گی، چنانچہ اس غلام نے ایک مخفی نکریاں یا مٹی لی، اور ان بکریوں کے منہ کی طرف پہنچی، وہ بکریاں تیزی سے دوڑتی ہوئی گئیں، اور ہر بکری اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی (چونکہ لڑائی کے لئے صافین بنی ہوئی تھیں) وہ غلام بھی لڑائی کی صاف میں شامل ہو گیا، اور اس کو ایک تیر آ کر لگا، اور وہ مر گیا، اور اس شخص نے اللہ کے لئے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو خیسے میں لے جاؤ..... بعد میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی کا اسلام کا کتنا اچھا رہا، میں اس کے پاس آیا اس کے پاس گوری چڑی والی اور بڑی آنکھوں والی اس کی دو بیویاں ہیں۔

ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرودی ہے :

فقال: يا رسول الله انى رجل اسود اللون، قبيح الوجه،
منتن الريح، لامال لى، فان قاتلت هؤلاء حتى أقتل
ادخل الجنة؟ قال: نعم، فتقدم فقاتل حتى قتل، فأتى
عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو مقتول فقال: لقد
أحسن اللہ وجهك، و طيب روحك، و كثیر مالك

لقد رأيت زوجتيه من الحور العين . (۱)

ایمان لانے کے بعد اس غلام نے کہا: یا رسول اللہ امیں سیاہ رنگ والا، قبیح
چہرے والا، گندی بدبو والا آدمی ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اگر میں ان
لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ میں قتل کر دیا جاؤں، کیا میں جنت میں داخل

ہو جاؤں گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں اچنانچہ وہ غلام آ کے بڑھا، اور قاتل شروع کر دیا، یہاں تک وہ قتل کر دیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ وہ مقتول پڑا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرہ کو حسین کر دیا، اور تیری روح کو پاکیزہ کر دیا، اور تیرا مال زیادہ کر دیا اور میں نے اس کے پاس گورے رنگ والی بڑی آنکھوں والی اس کی دو بیویاں دیکھیں ہیں۔

بہر حال: صحیح روایات اس بات کی صراحت کر رہی ہیں کہ اس غزوہ میں صحابہ کرام بڑی مشقت میں تھے، یہاں تک کہ وہ گدھے ذبح کر کے ان کے کھانے کی طرف مجبور ہو گئے، لیکن ان کو ان کے کھانے سے منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ دیکھیں الٹ دی گئیں، اس حالت میں ان کے پاس "اسود الرائی" ایک بکریوں کا ریوڑ لے کر آتے ہیں، جو دشمنوں کی ملکیت ہیں، اب اس حالت میں مسلمانوں کے لئے آسان صورت یقینی کہ وہ اس حالت میں ان بکریوں کو مال غیمت سمجھتے، اور یہ تاویل کر لیتے کہ یہ حالت جنگ ہے، اور حالت جنگ میں جو مال دشمن کی ملکیت ہو، وہ مسلمانوں کے لئے مباح ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ پوچش کرتے کہ وہ چہ داہماں مسلمان ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے، اور یہودیوں کے خلاف قاتل کے لئے تیار ہے، اور ان یہودیوں میں بکریوں کے مالک بھی ہیں (اس تاویل اور دلیل کے نتیجے میں وہ بکریاں حلال ہو جاتیں) لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے، اس لئے کہ اس چہ داہماں کے نے وہ بکریاں ان کے مالکوں سے عقد امانت کے تحت لی تھیں، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس چہرے اسے کو ان بکریوں کے مالکوں کو واپس کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ اس سخت حالت میں بھی جبکہ مسلمان ان بکریوں کے سب سے زیادہ ضرورت مند تھے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو یہ عادلانہ اصول جاری فرمادیے، صحابہ کرام غیر مسلمین کے ساتھ معاملات کرنے میں ان اصولوں کے عادی ہو چکے تھے، حتیٰ کہ حالت بچگ میں بھی وہ ان کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں قید تھے، جو کہ کافر تھے، کافروں کے بچوں میں سے ایک بچہ حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگیا، حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچہ کو اپنی ران پر بٹھایا، اس وقت حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں استراحتا، اس بچہ کی ماں یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی، حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس بات سے ڈر گئیں کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ (۱)

حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے یہ بھی ممکن تھا کہ اس موقع کو فیضت سمجھتے، اور کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ اس بچہ کو بطور "رہن" اپنے پاس رکھ لیتے، اور اس بچے کے عوض ان کی قید سے خلاصی حاصل کر لیتے، لیکن حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، اور اپنی جان دینے پر راضی ہو گئے، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کی طرف یہ بات منسوب کی جائے کہ یہ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، یا اپنی آزادی حاصل کرنے کیلئے بچوں کو غصب کر لیتے ہیں۔

امام ابو عیید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، صفوان بن عمرو سے اور سعید بن عبد

(۱) صحيح البخاری، کتاب السنناری، باب نمبر ۱۰، حدیث نمبر ۳۹۸۷۔

العزیز سے روایت کرتے ہیں :

ان الروم صالحٍت معاویة رضي الله تعالى عنه ان تؤذى
اليهم مالاً، وارتهن معاویة منهم رهنا، فجعل لهم
بعلبک، ثم ان الروم غدرت، فأبى معاویة وال المسلمين
ان يستحلوا قتل من في ايدهم من رهفهم، وخلوا
سبيلهم واستفتحوا بذلك عليهم، وقالوا : وفاء بغدر
خير من غدر بغدر . (۱)

یعنی رومیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پرصلح کر لی کر دے
ان کو مال ادا کریں گے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدہ پر ان سے
رهن مانگا، تو انہوں نے شہر ”بعلبک“ بطور رہن کے ان کو دیدیا۔ پھر رومیوں نے
غداری کی اور عہد تؤذی دیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں نے اس
بات کو ناپسند کیا کہ جو لوگ ان کے پاس بطور رہن کے ہیں، ان کے قتل کرنے کو
حلال کر لیں، بلکہ ان کے لئے جانے کا راستہ کھول دیا، اس طریقے سے ان پر نفع
حاصل کی، اور مسلمانوں نے کہا: غداری کے بد لے میں وفاداری کرنا، غداری کے
بد لے میں غداری کرنے سے بہتر ہے۔

اس مختصر مقالے کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تمام احکام عادلہ کا استقصاء
کر لے جو اسلام نے جاری کئے ہیں، اور تاریخ اسلام نے جو بلند مثالیں حالت
امن اور حالت جنگ میں غیر مسلمین کے ساتھ معاملات کرنے میں بیان کی ہیں،
ان سب کا احاطہ اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو کچھ ہم نے

بیان کیا ہے وہ ان احکام اور مثالوں کا بہترین نمونہ ہے جو دین اسلام کی اعلیٰ ظرفی پر دلالت کرتے ہیں، اور جو شخص اس موضوع پر چلے اس کیلئے پر کھنے کیلئے کافی ہے۔

جھگڑوں کے حل کیلئے صلح کے طریقوں کی فضیلت

علماء فقہ اور اصول فقہ اور مشکلین سب اس بات پر تفقی ہیں کہ قتال فی سبیل

”حسن لعیہ“ نہیں، بلکہ ”حسن لغیرہ“ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ضرورت کے وقت اس کو اختیار کیا جائے گا، اگر شریعت کے مقاصد صلح کے ذریعہ حاصل ہو جائیں تو پھر قتال کی ضرورت نہیں، اسی لئے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نزول کے بعد جنگ کو ساقط کر دیں گے، (۱) اسلئے کہ اس زمانے میں جنگ اور قتال کے بغیر ہی شریعت کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔

یہ بات اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر ملکی نزاعات صلح کے ذریعہ حل کرنا ممکن ہو تو جنگ اور قتال کے بھڑکانے پر یہ چیز فضیلت رکھتی ہے، جب تک کہ صلح کے یہ طریقے مصالح شریعت کے ضامن ہوں، اور اس کی اصل قرآن کریم کی آیت ہے :

وَإِنْ جَنَحُوا إِلَّا سُلِّمُ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

(الانفال: ۶۱)

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقاء سے صلح حدیبیہ سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ :

(۱) صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب نزول عيسى بن مرريم، حدیث نمبر ۳۴۴۸، فتح الباري ج: ۶، ص: ۴۹۱

اذا لم نجح لقتال احد، ولكننا جتنا معتمرین، وان فریشا
قد نهکتهم الحرب، و اضررت بهم، فان شاءوا ما دددُهم
سدة و يخلوا بینی و بین الناس، فان أظهروا فان شاءوا و ان
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، والا فقد جحروا، وان
هم أبوا فهو الذي نفسي بيدي لا قاتل لهم على امرى هذا
حصی تنفرد سالفتها، ولینقدن الله أمره . (۱)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم کسی سے قتال کے لئے نہیں
آئے، مگن عربہ ادا کرنے کے لئے آئے ہیں، قریش کو توجہ نے لاغر اور کمزور کر
دیا ہے، ان کو جنگ نے نقصان پہنچایا ہے، اگر وہ لوگ چاہیں میں ان کے لئے ایک
مدت تعین کر دوں، اور اس مدت میں قریش مجھے اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں،
اگر اسلام غالب آجائے تو ان لوگوں کو اختیار ہو گا کہ چاہیں تو دوسرے لوگ جس
میں داخل ہوئے ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہو جائیں، ورنہ یہ سب میرے خلاف
جمع ہو جائیں، اور اگر وہ اس بات سے انکار کریں تو قسم اس ذات کی جس کے قبضہ
میں میری جان ہے، میں ان سے اس معاملے میں ضرور قتال کرتا رہوں گا یہاں تک
کہ تباہ میری گردن باقی رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے حکم کو نافذ فرمائیں گے۔
افضل الفصحاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر پوری
قوت اور وضاحت کے ساتھ جاری ہونے والے بلیغ کلمات حالت جنگ اور
حالت اسن میں اسلام کا موقف کے بیان کے لئے بہترین نمونہ ہیں، اور حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ :

” ان قریشا قد نہ کتھم العرب، و اضرت بهم ”
 مکمل صراحت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے کہ ”جنگ“ فی نفس کوئی مستحسن
 چیز نہیں، اور اگر اسکن و امان قائم کرنا اس بغیر ممکن ہو تو پھر جنگ بھروس کانے کی
 ضرورت نہیں۔ لیکن صلح کے طریقوں کی فضیلت کو مقاصد شرعیہ کی قیمت پر حاصل
 کرنا یا ان بہترین اور سچے اصولوں کی قربانی دے کر حاصل کرنا، جن کو اسلام
 شریعت کی مضبوطی اور پاسیداری کے لئے لایا ہے، کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ اور اس
 کی اصل اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے :

فَمَا أَسْتَقْأَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِمُوا لَهُمْ (التوبہ: ۷۷)

لیکن اگر دشمن صلح کی بات چیت، اور گفت و شنید کوہاں مٹول کرنے کے لئے
 ایک حیله بنالے، اور اس صلح کو اپنے باطل پر دریتک جنم رہنے کے لئے ایک ذریعہ
 بنالے، اور اپنے ظلم پر ہمیشہ رہنے کے لئے، اور مستحق تک اس کا حق پہنچانے میں
 تاخیر کرنے کے لئے اس کو ایک وسیلہ بنالے، تو اس صورت میں صلح کے یہ انداز اور
 یہ طریقے فریب اور دھوکہ کے علاوہ کچھ نہیں، اور عادلانہ بنیاد پر صلح کی قیام میں
 مندرجہ بالاطریقے سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس صورت حال میں وہی
 طریقہ اختیار کیا جائے گا جو کسی شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ :

” وَالسَّيْفُ أَبْلَغُ وَخَاطِرٌ عَلَى أَمْمٍ ”

” تکوار امتوں پر بہترین نصیحت کرنے والی ہے ”

و آخر دعوا ان الحمد لله رب العلمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

”ان الذين يكسبون الائم سيعزون ما كانوا ايفتشون“
 (رسالة عام ١٣٠٠)

پیغمبر جو لوگ گناہوں کا رکاب کر کرے ہیں، قیامت کے روز
 ان کے ان اعمال کی زندگی جلائے گی جو وہ لوگ پہنچانے کی کرتے تھے۔

حرمت رضاعت

دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟

(۵)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمنی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبد اللہ تیمسین

میمن اسلامک پبلیشورز

(۵) ”حرمت رضاعت“ دو دھن کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟
یہ مقالہ حضرت والامام تلہم نے ”کملۃ فتح الملہم، جلد اول،
کتاب الرضاعة“ میں تحریر فرمایا ہے۔

حرمت رضاعت

دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟

چونکہ یہ مسئلہ فقهاء کے درمیان مختلف فہرے ہے، اس لئے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہؒ نے ”تمکملہ فتح الملهم“ میں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث فرمائی ہے، اس بحث کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على
رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان
إلى يوم الدين، أما بعد :

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم المقصة والمصتان ... حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اور دو مرتبہ چونا حرمت کو ثابت نہیں کرتا۔ **المقصة** 'مَصْنَعٌ، ن، يَمْسُعُ' کا اسم مرتبہ ہے، ایک مرتبہ چونا، اس حدیث سے "ظاہریہ" نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تین مرتبہ سے کم کی رضاعت غیر محروم ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ حدیث

مفسوخ ہے، جیسا کہ عنقریب حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت آرہی ہے، لہذا مطلق دو دھپلانے سے حرمت ثابت ہو جائیگی۔

اس مسئلے میں فقهاء کے چار مذاہب ہیں:

- (۱) پہلانہ مذهب : یہ ہے کہ حرمت رضا عنت ثابت کرنے میں قلیل رضا عنت اور کثیر رضا عنت دونوں برابر ہیں، اور دو دھپلے کی وہ مقدار جس سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جائے ”حرمت رضا عنت“ اتنی مقدار سے ثابت ہو جائے گی، یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا مسلک ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت ہے، یہی مسلک حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم بن عبد اللہ، حضرت طاؤس، حضرت قبیصہ بن ذؤیب، حضرت سعید بن الصیب، حضرت عروہ بن الزبریر، حضرت ربیعہ، حضرت ابن شہاب، حضرت عطاء بن ریاح، حضرت کعبوں رحمۃ اللہ علیہم سے منقول ہے (دیکھئی: المدونۃ الکبری لامام مالک ج ۵، ص ۸۷) ان کے علاوہ حضرت قاتدہ، حضرت حسن، حضرت حکم، حضرت حماد، امام او زانی، امام ثوری، حضرت لیث بن سعد کا بھی یہی مسلک ہے، اور حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قلیل رضا عنت اور کثیر رضا عنت دونوں سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے (المسنون لابن قدامة ج ۷، ص ۵۳۶) اور علامہ ابن منذر نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی بات نقل کی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح (ج ۱۰،

ص ۲۹) میں اس کو جمہور علماء کا ندہب قرار دیا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک یہی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ان کے صنیع اور طرز سے ظاہر ہو رہا ہے۔

(۲) دوسرا ندہب : یہ ہے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پینے سے حرمت رضاعت نہیں آتی، البتہ تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یہ امام ابوثور، ابو عبید، واکد ظاہری اور ابن المنذر کا ندہب ہے، اور امام احمدؓ کی ایک روایت اس کے مطابق ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات منقول ہے (دیکھئے : شرح المهدب، ج ۵، ص ۵۷)

(۳) تیسرا ندہب : یہ ہے کہ پانچ رضاعات سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ندہب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ندہب یہی ہے، اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت عبد اللہ بن زبیر، حضرت سعد بن جبیر، حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امام اسحاق بن راہو یہ اور علماء ابن حزم رحمۃ اللہ علیہم کا بھی مسلک ہے، اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت رعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عطاء، حضرت طاؤس سے بھی ایک روایت اسی کے مطابق منقول ہے (دیکھئے : شرح الہدب) اور انہی حضرات سے ایک روایت پہلے ندہب کے موافق بھی منقول ہے، جیسا کہ ہم نے ”المدوۃ الکبریٰ“ سے سابق میں نقل کی ہے۔

(۴) چوتھا ندہب : یہ ہے کہ دو رضاعات سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے (موٹا امام مالک)

بعض حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھی اس مذہب کی نسبت کی ہے، اس کی تحقیق انشاء اللہ آگے آجائے گی۔

پہلے مذہب والے حضرات کے دلائل اور استدلالات مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَمَهْتَكُمُ اللَّهُ أَرْضَنُكُمْ“ (سورہ النساء : ۲۳) (اور تمہاری وہ ما میں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ حرام ہیں) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق دودھ پلانے کو حرمت کا سبب قرار دیا ہے، اور وہ مطلق ہے، قلیل و کثیر سب کو شامل ہے، لہذا قرآن کریم کے مطلق کو اخبار احادیث سے یا قیاس سے مقید کرنا جائز نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بجمل تھی، اور حدیث نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، ان لوگوں نے غلطی کی ہے، اس لئے کہ ”إِرْضَاع“ کے معنی میں کوئی اجمال نہیں ہے، جو شخص بھی عربی زبان جانتا ہو گا وہ اس کو معنی کو سمجھ جائے گا، لہذا یہ آیت ”جمل“ نہیں، بلکہ یہ آیت ”حکم“ ہے، جس کے معنی بالکل ظاہر اور اس کی مراد بالکل واضح ہے، لہذا قرآن کریم اور حدیث متواترہ کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے اس آیت کی تخصیص اور تقدیم جائز نہیں (دیکھئی: احکام القرآن للحصاص: ج ۱۵۰، ص ۲)

(۲) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ”عن الحکم بن عتبیة عن قاسم بن المخیرمة عن شریح بن هانی، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحرِمُ مِنَ النِّسَابِ قَلِيلٌ وَ كَثِيرٌ“ ”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے ذریعہ حرام ہوتے ہیں، چاہے وہ

رضاعت قلیل ہو، یا کثیر ہو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب سے اسی طرح یہ حدیث روایت کی ہے (عقودالجواہر المنیفة للزبیدی ج ۱ ص

(۱۵۹)-۱)

یہ ضعیف بندہ عرض کرتا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، جہاں تک حکم ابن عثیمین کا تعلق ہے تو وہ جماعت کے رجال میں سے ہیں، ان کی شاہست ثابت ہے، فقیہ ہیں، البتہ کبھی "تدلیس" کر لیتے ہیں۔ جہاں تک قاسم بن مخیمۃ کا تعلق ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور تقطیق کے اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور پانچ راویوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں، ثقہ اور فاضل آدمی ہیں، جہاں تک شریح بن ہانی کا تعلق ہے، تو یہ حارث کوفی ہیں جو رجال خمسہ میں سے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے "ادب المفردة" میں ان کی روایت لی ہے "مخضر مین" میں سے ہیں، ثقہ ہیں (تقریب الہذا) یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ابو حیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے استدلال اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

(۳) صحیحین میں یہ روایت ہے کہ "عن عقبة بن الحارث قال: تزو جئت امرأة، فجاء تنا امرأة سوداء، فقالت لي : انى ارضعتكمما....."
حضرت عقبۃ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے ایک خاتون سے شادی کی تو ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی، اور مجھ سے کہا کہ میں

(۱) علامہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے "جامع مسانید الامام ج ۲، ص ۷۹ پر اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اخیر حجه ابو محمد البخاری عن المنذر بن سعید الھروی عن احمد بن عبد اللہ الکندي عن ابراهيم بن الجراح عن ابی یوسف عن ابی حنیفة رحمہم اللہ تعالیٰ۔

نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے فلاں بنت فلاں سے شادی کر لی ہے، تو ہمارے پاس ایک سیاہ قام عورت آئی، اور اس نے مجھ سے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، جبکہ وہ عورت جھوٹی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کرتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیا، میں دوبارہ آپ کے چہرے کی طرف آیا، میں نے کہا وہ خاتون جھوٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے اس کو اپنے نکاح میں رکھو گے جبکہ اس خاتون کا خیال یہ ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس خاتون کو اپنے پاس سے چھوڑ دو (بخاری شریف، باب شهادة المرضعه من النكاح، و باب الرحمة من العلم، و باب تفسير المشتبهات من البيوع، باب شهادة الاماء و العبيد من الشهادات) اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے عذر رضاعات کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا، بلکہ صرف رضاعات پر حرمت کا حکم لگادیا۔

(۲) اسی طرح وہ تمام احادیث حنفیہ کی دلیل اور محبت ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ نے مطلق دودھ پلانے پر حرمت کا حکم لگادیا، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ "حرم من الرضاع ما حرم من النسب" رضاعات سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "إن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة" رضاعات سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں..... وغیرہ

(۵) اسی طرح صحابہ کرام کے بہت سے آثار بھی حنفیہ کی جگہ اور دلیل ہیں، ان میں سے ایک اثر وہ ہے جو امام نسائی نے بیان فرمایا ہے (ج ۲، ص ۶۸)

”عن قتادة قال: كَبَّنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ التَّنْخُعِي نَسَالَهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ إِنْ شَرِّعَهُ حَدَثَنَا أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مُسْعُودَ كَانَا يَقُولُانِ: يَحْرُمُ مِنِ الرَّضَاعِ قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ“

حضرت قتادة سے مردی ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم تخریج رحمۃ اللہ علیہ سے رضاعت کے بارے میں لکھ کر سوال کیا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔

حنفیہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل وہ اثر ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مؤٹا میں بیان فرمایا ہے (ص ۲۷۲) اخیرنا مالک، اخیرنا ثور بن زید، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما کان یقہل: ما كان في الحولين و ان كانت مصة واحدة تحرم۔ یعنی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ جو دو دھو دو سال کے اندر پلا یا جائے، اگر چہ ایک مرتبہ چونے کے برابر ہو، وہ حرام کر دیتا ہے۔ اس اثر کے ایک راوی ”ثور بن زید الدیلسی“ مدینی مولیٰ ہیں، اور علامہ ابن معین اور ابو زرعة اور امام نسائی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، سن ۱۳۵ھ میں ان کا انتقال ہوا (التعليق السعید عن الاسعاف) علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اعلاء السنن“ (ج ۱۱، ص ۸۰) میں فرمایا کہ ”استنادہ صحیح“

حنفیہ کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ اثر ہے جو عبد الرزاق نے اپنی

مصنف میں (ج ۷، ص ۳۶۷، حدیث نمبر ۱۳۹۱۹) ابن جرتع کے طریق سے نقل کی ہے، فرمایا کہ عرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ کیا ایک مرتبہ اور دو مرتبہ کے پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے رضائی بہن کے بارے میں مگر یہ کہ وہ حرام ہو جائے گی، اس سوال کرنے والے شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین یعنی حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور دو مرتبہ پینا حرام نہیں کرتا ہے۔ جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے فیصلے سے اور امیر المؤمنین کے فیصلے سے بہتر ہے۔

نیز عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں ابن جرتع عن عطاء کے طریق سے بھی یہ بات ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عبد اللہ بن زبیر کی یہ بات پہنچی کہ وہ رضاعت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مسلک کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سات مرتبہ سے کم میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ جل شانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَأَنْهُوا أَنْكَمْ مِنَ الرِّضَا غَيْرَ“ کہ تمہاری رضائی بہنسن تم اپر حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ دو دھ پیا، یادو مرتبہ پیا (کوئی قید نہیں لگائی) (دیکھئے، مصنف عبد الرزاق ج ۷، ص ۳۶۶: حدیث نمبر ۱۳۹۱۱) اسی اثر کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرزاق کے طریق سے مختلف سندوں سے

تخریج کیا ہے (دیکھئے: ج: ۳: ص: ۱۸۳) اور خالد بن یوسف، عن حماد بن زید، عن عرب بن دینار کے طریق سے بھی نقل کیا ہے (دیکھئے: ج: ۳: ص: ۱۲۹: باب الرضاع، نمبر ۲۳) اور امام تیفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف طرق سے اس کی تخریج کی ہے (دیکھئے: ج: ۷: ص: ۲۵۸)

جبکہ تک دوسرے مذهب کے حضرات کا تعلق ہے، انہوں نے حدیث باب سے استدلال کیا ہے (حدیث باب یہ ہے: عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و قال سوید و زهید: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان)

تیرے مذهب کے حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے نقل کی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ: قالت: كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هن فيما يقرأ من القرآن (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دس رضعات معلومہ پر حرمت رضاعت کا حکم قرآن کریم میں نازل ہوا تھا، اور پھر بعد میں پانچ رضعات معلومہ والی آیت سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت تک پانچ رضعات والی آیت قرآن کریم میں پڑھی جا رہی تھی)

ان احادیث کا جواب یہ ہے کہ مقدار رضاعت کے بارے میں جتنی قیودات وارد ہوئی تھیں، وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ

مطلق رضاعت حرمت کرنے والی ہے، اور اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مقدار رضاعت کے بارے میں جو قیود وارد ہوئی ہیں ان کا منسوخ ہونا صرف دعویٰ کرنے سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ دلیل سے خالی نہیں، بلکہ قویٰ دلائل اس پر دلالت کر رہے ہیں، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

۱.....حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہم نے ماضی میں بیان کی

(ان علیاً و ابن مسعود کانا يقولان : يحرم من الرضاع قليله و كثيره) اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رجال سے روایت کیا ہے، جو کہ سب فقهاء اثبات میں سے ہیں، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمادی کہ حرمت کے ثبوت کے لئے قلیل رضاعت اور کثیر رضاعت برابر ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مندرجہ بالا حدیث سے یہ بات آپ نے جان لی ہے کہ مقدار رضاعت کی قیودات کثیر سے قلت کی طرف منتقل ہوئی ہیں، چنانچہ ابتداء میں دس رضعات پر حرمت ثابت ہونے کا حکم تھا، پھر یہ حکم دس سے پانچ رضعات کی طرف منتقل ہو، اس کے بعد حدیث باب (لا تحرم المصنة والمصندان) تین رضعات پر حرمت ثابت ہونے پر دلالت کر رہی ہے، جیسا کہ اہل الفتاہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اس سلسلے کی آخری حدیث ہو، اور اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام پر یہ بات مخفی رہ گئی ہو۔

۲.....حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مندرجہ بالامثلیت

کی صراحت فرمائی ہے، چنانچہ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ ان سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک رفعہ اور دو رضاعت حرام نہیں کرتے، جواب میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: پہلے ایسا ہی تھا، لیکن آج ایک رفعہ سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی (دیکھئے: احکام القرآن للحصاص، ج ۲: ص ۱۵۱۔ اس کی سند یہ ہے: عن ابی الحسن الکرخی، قال حدثنا الحضرمی، قال حدثنا عبد اللہ بن سعید، قال حدثنا ابو خالد، عن حجاج، عن حبیب بن ابی ثابت عن طاؤس (الخ) علامہ ابن هام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فتح القدری میں نقل کی ہے، البتہ اس کاماً خذ بیان نہیں کیا، اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ "آل امر الرضاع الی ان قلیلہ و کثیرہ بحرم" یعنی رضاعت کا معاملہ اس طرف لوٹ گیا ہے کہ اس کا قلیل اور کثیر دونوں حرمت ثابت کردیتے ہیں (فتح القدری، ج ۲: ص ۲۳) مندرجہ بالا روایت کاماً خذ بھجے نہیں مل سکا، البتہ علامہ ابن هام رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرنے میں اختیاط سے کام لیتے ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو اس کے خلاف بھی متفق ہے، چنانچہ امام تیہنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبری (ج ۷: ص ۳۵۸، ۳۵۹) میں حضرت عروۃ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عروۃ نے فرمایا کہ میں حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور ان سے رفعہ اور رضعتین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے

میں وہ بات کہوں گا جو بات حضرت عبد اللہ بن زیر اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کہی ہے، میں نے کہا کہ وہ دونوں کیا کہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں حضرات یہ کہا کرتے تھے کہ ”لا تحرم المقصة ولا المصتان، ولا تحرم دون عشر رضاعات فصاعدًا“، یعنی ایک مرتبہ چونسا اور دو مرتبہ چونسا حرام نہیں کرتا، اور دو رضاعات اور اس سے کم میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ امام تہجی اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ ”عزوة عن ابن عباس“ والی روایت ان کے مذہب میں سب سے صحیح روایت ہے۔

مندرجہ بالا روایت کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ ماردینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تردید فرمائی ہے وہ کافی اور شافی ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور روایت اس کے خلاف ہے، اور امام مالک، ابن الجیشہ، امام طبرانی نے مختلف صحیح اسانید سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس قلیل الرضاع اور کثیر الرضاع دونوں کی تحریم کے بارے میں کہا کرتے تھے اور خود امام تہجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”المعرفۃ“ میں یہ روایت نقل کی ہے: عن الدر اور دی عن ثور عن عکرمة عن ابن عباس ان قلیل الرضاع و کثیرها بحرم فی المهد۔ اور اس کے بعد امام تہجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”روی عن ابن عباس بخلاف ذلك فی القلیل“، یعنی قلیل رضاع کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے خلاف بھی مروی ہے، لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے (یعنی قلیل رضاع اور کثیر رضاع حرمت میں دونوں برابر ہیں) بہر حال! امام تہجی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المعرفۃ“ میں جس بات کا

اعتراف کیا ہے، وہ السنن الکبریٰ والی روایت کے باکل خلاف ہے (دیکھئے:

الجوادر النقی للماردینی علی هامش البیهقی، ج ۷: ص ۳۵۹)

۳..... مصنف عبد الرزاق میں ج ۷: ص ۳۶۷: حدیث نمبر ۱۳۹۱۳

۱۳۹۱۶ ہے، عن عبد الرزاق عن معمر، قال اخیرنی ابن طاؤس عن ابیه قال:

کان لا زواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم رضعات معلومات، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان قليلاً و كثيرة بحرم۔ یعنی ازواج مطہرات کے نزدیک حرمت رضاعت کے لئے چند رضعات متعین تھے، لیکن انہوں نے اس نہب کو ترک کر دیا اور بعد میں ان کے نزدیک قلیل و کثیر دونوں باعث حرمت تھے۔

اور علامہ ابن جریح نے نقل کیا ہے کہ: انہرنسی عبد الکریم عن طاؤس

قال: قلت له انهم يزعمون انه لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار ذلك الى خمس، فقال: طاؤس قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمر جاء التحرير، المرة الواحدة تحرم۔ ابن جریح فرماتے ہیں کہ عبد الکریم نے طاؤس سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ میں نے ان سے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ سات رضعات سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، پھر یہ حرمت پانچ رضعات پر آگئی، امام طاؤس نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا، البتہ بعد میں یہ معاملہ ہوا، وہ یہ کہ تحریر کا حکم آگئی، اور اب ایک مرتبہ کی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جائے گی (مصنف عبد الرزاق، ج ۷: ص ۳۶۷: حدیث نمبر ۱۳۹۱۶، ۱۳۹۱۳)

۴..... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پانچ رضعات کے حکم کو منسوخ کرنے پر دلالت کر رہی ہے، اس لئے کہ اگر پانچ رضعات پر حرمت کا حکم

منسوخ نہ ہوتا تو پانچ رضعات والی آیت قرآن کریم میں موجود ہوتی، اور نمازوں میں اس آیت کی تلاوت جائز ہوتی، حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ آیت قرآن کریم میں موجود نہیں، اور اس آیت کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں، اور اس آیت کو قرآن کریم میں درج کرنا حلال نہیں، بلکہ علامہ ماردینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور نہ حدیث میں موجود ہے، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد س رضعات کی قید کے ساتھ مقید آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی، پھر پانچ رضعات والی آیت نے دس رضعات والی آیت کو منسوخ کر دیا، اور پھر آخر میں رضعات کی تعداد کی قید کے بغیر آیت قرآن کریم میں باقی رہ گئی، اور اب مطلق دودھ پلانا حرامت کا باعث ہو چکا۔

اگر کوئی احتکال کرے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کے آخر میں یہ صراحت موجود ہے کہ پانچ رضعات والی آیت منسوخ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ الفاظ ہیں کہ ”فَتَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ“ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اس حدیث کے آخر کے الفاظ کی زیادتی میں عبد اللہ بن ابی بکر راوی متفرد ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ ان کا وہ ہے، اور اس کے مقامی وہ حدیث ہے جو مصنف عبد الرزاق میں عن ابن حجر عین نافع عن سالم سے روایت کی گئی ہے، اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ ”ثُمَّ ردَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، وَلَكِنَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قَبْضَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

علیہ وسلم ”اس سے ظاہر ہے کہ یہ زیادتی راوی کا وہم ہے، یا عبد اللہ بن ابی بکر کا ادراج ہے، جیسا کہ اسکی تحقیق اس حدیث کی تشریع میں انشاء اللہ آگے آجائے گی۔ اور اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہ زیادتی درست ہے، تو اس زیادتی کی مراد یہ ہے کہ خمس رضاعت والی آیت کی منسوخی کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بالکل جدید اور بہت قریب تھا، اس لئے بہت سے صحابہ کرام اس کی منسوخی پر مطلع نہیں ہو سکے، چنانچہ جن صحابہ کرام کو اس کی منسوخی کا علم نہیں ہوا تھا، وہ اس وقت اس کی تلاوت کیا کرتے تھے (فتح القدیر ج ۳ ص ۲۹، شرح النووی: ج ۱۰ ص ۲۹) ورنہ کیا کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا کوئی مکارا قرآن کریم میں لکھنے سے چھوڑ دیا ہو، جبکہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جانتی تھیں کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت نمازوں میں اس کی تلاوت بھی کرتی تھی، واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ پھر خود شوافع اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پانچ رضاعت والی آیت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت رحم والی آیت کی طرح منسوخ اتنا تلاوت ہے، اور اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اصل ضابطہ یہ ہے کہ کسی آیت کی تلاوت منسوخ ہونے کی صورت میں اس کا حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے، اور تلاوت منسوخ ہو جانے کے بعد حکم باقی رہنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور اس آیت کو رجم والی آیت پر قیاس کرنا بھی درست نہیں، اس لئے کہ رجم والی آیت کا حکم باقی رہتا

قطی اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں پوری تحقیق انشاء اللہ اپنے محل میں آجائے گی۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمایا، تو کیا احادیث میں کہیں یہ بات ثابت ہے کہ غص رضاعت والی آیت کی تلاوت منسوخ ہونے کے بعد دو حصہ پلانے پر حرمت کو پانچ متفرق رضاعت کی قید کے ساتھ مقید کیا ہو؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پانچ رضاعت کے حکم کے منسوخ ہونے پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے، جیسا کہ گزرچی، اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئے، ان میں پانچ رضاعت کی تقید بھی منسوخ ہو چکی ہے، لہذا اس آیت کو رجم والی آیت پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ثابت ہے کہ وہ قلیل رضاع سے حرمت ثابت ہونے کی قائل نہیں تھیں، انہوں نے یہ مذہب کیسے اختیار کیا؟ باوجود یہ وہی (عشرہ رضاعت والی) آیت کے منسوخ ہونے کی روایی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ امام ابو بکر جاص رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضاع الکبیر میں بھی حرمت رضاعت کی قائل تھیں، اور دوسرے ازواج (طہیرات) اس کی قائل نہیں تھیں، اور ہمارے (احتفاف) اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضاع الکبیر کی وجہ سے حرمت کا منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہے، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث میں تحدید رضاعت کا حکم بھی ساقط

ہو چکا (احکام القرآن للحصاص، ج: ۲ ص: ۱۶۲)

احقر عرض کرتا ہے کہ امام ابو بکر جاص رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر جو بیان فرمایا، اس کے صحیح ہونے پر دلیل وہ حدیث ہے جو ابن ماجہ میں باب رضاع الکبیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ”لقد نزلت آیة الرجم و رضاعۃ الکبیر عشرۃ“، یعنی رجم کی آیت اور کبیر کی رضاعۃ کی آیت عشراً کی قید کے ساتھ نازل ہوئی تھی، اس روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ”عشراً رضاعات“، والی آیت کبیر کے ساتھ متعلق تھی۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤظماً میں نقل کی ہے: عن نافع ان سالم بن عبد اللہ حدثه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرسلت به إلى اختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقالت: أرضعيه عشر رضاعات، حتى يدخل على، فارضعتني ثلاثة رضاعات، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاثة مرات، فلهم أكثن ادخل على عائشة من أحل ان ام كلثوم لم تتم لى عشر رضاعات۔۔۔ نافع سے روایت ہے کہ سالم بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بہن حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا، اور کہا کہ ان کو دس رضاعات دودھ پلا دو، تاکہ میرے پاس آ جائے (کیوں کہ میں اس کی رضائی خالہ بن جاؤں گی) حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے تین رضاعات دودھ پلا دیا، پھر وہ بیمار ہو گئی، اور بس ان تین مرتبہ کے علاوہ انہوں نے مجھے دودھ نہیں پلا دیا، تو چونکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے لئے دس رضاعات مکمل

نہیں کئے تھے، اس لئے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آنا جانانہیں کرتا تھا۔

دیکھئے! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سالم کو اپنے پاس آنے سے کیوں منع کیا؟ جب کہ وہ بڑے تھے، اس لئے کہ انہوں نے دس رضعات کی تعداد پوری نہیں کی تھی، باوجودیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلم شریف کی روایت میں دس رضعات کے منسوب ہونے کی صراحت کی ہے، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صغیر میں دس رضعات کے منسوب ہونے کی قائل تھیں، اور کبیر کے بارے میں اس کے باقی رہنے کی قائل تھیں، اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو امام تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صرن التي خمس يحرمن، وكان لا يدخل على عائشة الا من استكمل خمس رضعات۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ قرآن کریم میں دس رضعات معلومہ جو حرمت کا سبب تھیں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، پھر پانچ رضعات معلومہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی شخص نہیں آ جاسکتا تھا، سو اے اسکے جسکے پانچ رضعات مکمل ہو چکے ہوں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ صغیر اور کبیر کے درمیان تفریق کرنے کا کیا سبب ہے؟ باوجودیکہ وودھ پلانا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نزدیک صغیر اور کبیر دونوں میں حرمت رضاعت کا ذریعہ ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں

کہ شاید انہوں نے ان دونوں کے درمیان اس لئے فرق کیا ہو کہ وہ ارضاع الکبیر کے مسئلہ میں "سالم موی ابی حذیفہ" کے قصہ سے استدلال کرتی تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلت بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ "ارضعیہ خمس رضعات" ان کو پانچ رضعات دودھ پلا دو، جیسا کہ مؤٹا امام مالک کی روایت میں ہے، یا آپ نے حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ "ارضعیہ عشر رضعات" ان کو دس رضعات دودھ پلا دو، جیسا کہ احمد بن اہن اسحاق کی روایت ہے (فتح الربانی: ج ۱۶: ص ۱۸۵) اور یہ کہ دودھ پلانے کا حکم چونکہ قیاس کے مخالف تھا، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حکم کو اپنے مورد پر محدود رکھا تھا، اسی وجہ سے احتیاطاً اس شخص کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھیں، جس کے دس رضعات مکمل نہ ہوئے ہوں، اسی لئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"والاَظْهَرُ اَنَّ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ اَنَّمَا كَانَتَا تَذَهَّبَانِ إِلَى

عشر رضعاتٍ تُورِّعًا وَ تُشْفَىً لِلْخَاطِرِ، لَا مِنْ جَهَةِ

حُكْمِ الشَّرْعِ" (المسوی شرح مؤٹا: ج ۲۰: ص ۲۰)

زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشرہ رضعات کے قول کی طرف تورع اور تشفی خاطر کے لئے گئی تھیں، حکم شرعی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بہر حال! یہ وہ تفصیل تھی جو احرق کے نزدیک ظاہر ہوئی، واللہ بسجات و تعالیٰ اعلم -

اور اگر یہ بات تسلیم کری جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ارضاع الصغير میں بھی اس تحدید کی قائل تھیں، تو یہ ان کا اجتہاد تھا، اور فقہاء صحابہ جیسے حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال ان کی اس تحدید کے معارض ہیں، آخر میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہیں تھا، اور ان حضرات صحابہ کو اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم تھا، اور ثابت نافی پر مقدم ہوتا ہے (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نافی ہے، اور صحابہ کا قول ثابت ہے، اس لئے ان صحابہ کا قول راجح ہوگا)

.....پھر وہ حضرات جو خمس رضعات کی تقیید کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مذہب کے راوی ہیں، وہ سالم بن عبد اللہ اور عروۃ بن زبیر ہیں، اور یہ دونوں حضرات قلیل و کثیر دونوں کی تحریم کے قائل ہیں، جہاں تک سالم بن عبد اللہ کا تعلق ہے، ہم اس بحث کے شروع میں ”مدونۃ الکبریٰ“ سے یہ بات لفکر چکے ہیں کہ حضرت سالم مذہب اول والوں میں سے ہیں، جہاں تک عروۃ بن زبیر کا تعلق ہے تو امام مالک نے موطا میں یہ روایت نقش کی ہے کہ:

عن ابراهیم بن عقبة انه سأله سعید بن المسیب عن
الرضاعة فقال: كل ما كان في الحولين، وإن كان
قطرة واحدة فهو محرم، وما كان بعد الحولين فانما
هو طعام يأكله، قال ابراهیم بن عقبة: ثم سأله
عروة، فقال مثل ماقال سعيد .

ابراهیم بن عقبہ سے مردی سے ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن المسیب سے

رضاعت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دوسال کے اندر اندر اگر چہ ایک قطرہ دودھ پلایا ہو، وہ محرم ہے، اور دوسال کے بعد دوسرے دودھ کھانے کے شل ہوگا، حضرت ابراہیم بن عقبہ نے فرمایا کہ پھر میں نے عروۃ بن زبیر سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو حضرت سعید بن المسیب نے دیا تھا.....امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروۃ نے اپنی روایت کی مخالفت نہیں کی، مگر اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک اس کا منسوخ ہوتا ثابت ہے۔

(الجواهر النقی : ج ۷ : ص ۴۵۵)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَرِّفُ إِلَيْهِ سُورَةُ الْأَنْجَوْرَ

"تَعَاشِرُوا كَمَا لَمْ تَخْوَانُ،
تَعْامِلُوا كَمَا لَمْ تَجْاَبْ."

یعنی: بھائیوں کی طرف ہیوں
لیکن آپس میں معاملات اچیزوں کی طرف کرو

اسلام میں غلامی کی حقیقت

الرق فی الاسلام

(۶)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلیشورز

(۲) اسلام میں غلامی کی حقیقت
یہ مقالہ حضرت والامد ظلیلہم نے ”الرق فی الاسلام“ کے عنوان سے
”تکملة لفتح الملهم“ کی جلد اول میں تحریر فرمایا ہے۔

صلی اللہ علی النبی الامی

اسلام میں غلامی کی حقیقت (الرِّقُ فِي الْإِسْلَام)

چونکہ غلامی کے مسئلہ پر اہل مغرب کی طرف سے اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈہ کیا گیا ہے، اس نے حضرت مولانا محمد تقیٰ ھانی صاحب مدظلہ نے تحملہ فتحہ العالمہ میں اس پر تفصیلی مقالہ تحریر فرمایا ہے، اس مقالہ کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، میں

اہل مغرب اور ان کے مقلدین کی طرف سے اسلام کے جن مسائل کے خلاف پروپیگنڈہ کیا گیا ہے، ان میں سے ایک غلامی کو جائز قرار دینے کا مسئلہ ہے۔ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں موجودہ دور کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ”غلامی“ کا مسئلہ دین اسلام کی روشن پیشانی پر ایک بد نہادی ہے اور اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ اس وجہ سے ہم غلامی کی حقیقت اور اسلام میں اس کی حیثیت کو اس مقالہ میں بیان کریں گے، تاکہ لوگوں پر اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔

در اصل اہل مغرب اور ان کے مقلدین کی غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان معاشرے کے غلاموں کو یوتا نیوں، رو میوں اور اہل یورپ کے

غلاموں پر قیاس کر لیا جو انتہائی مظلومانہ اور کسپرسی کی زندگی گزارا کرتے تھے اور جنہیں انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی ان کے لئے حقوق تسلیم کئے جاتے تھے اور معاشرے میں ان کا ادنی مقام بھی نہیں تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں غلامی کا مسئلہ یورپ کے غلاموں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، اس چیز کا اعتراف خود بعض انصاف پسند اہل یورپ نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ ”غوستاف لی بون (G.Lebon)“ اپنی مشہور فرانسیسی زبان کی کتاب ”تمدن عرب“ (Civilizatio of Arab) میں لکھتے ہیں:

”ہماری کتاب کے یورپی پڑھنے والوں کے سامنے ”غلام“ کے لفظ کے ساتھ ہی ایک ایسے گروہ کی تصویر تھی جاتی ہے، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، غذا کی جگہ کھار ہے ہیں، اور مکان کی جگہ تہہ خانوں میں محبوس ہیں۔“

میں یہاں اس امر کی تحقیق نہیں کرنا چاہتا کہ یہ تصویر ان غلاموں کی ہے جو امریکہ کے انگریزوں کے پاس چند سال پہلے تھے، یہ بات درست ہے یا غلط، اور آیا یہ قرین قیاس ہے کہ ان غلاموں کے مالک ان کے ساتھ اس درجہ پہلو تھی کرتے تھے اور ایک ایسے سرمایہ اور بضاعت کو ضائع اور بر باد کر دیتے تھے۔ جیسے اس زمانہ کے جسمی تھے۔ مجھے اسی قدر کہنا ہے کہ مسلمانوں میں غلامی کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے جو عیسائیوں میں تھی۔ (۱)

(۱) ترجمہ: ما خود از ”تمدن عرب“ ص ۲۳۲، مترجم: ڈاکٹر سید علی بلگرای۔

بہر حال! جب اس عالم میں اسلام کی روشنی پھیلی، اس وقت پوری دنیا میں غلائی کا دور دورہ تھا، اور ان غلاموں کے ساتھ ایسا گھنیا سلوک کیا جاتا تھا، جس کوں کر انسانیت کی پیشانی عرق ریز ہو جاتی تھی۔ اسلام نے آنکر حکمت سے کام لیتے ہوئے ”غلائی“ کو سرے سے حرام قرار نہیں دیا، اور نہ ہی پاک پہ اس کو ختم کیا، بلکہ شریعت نے اس کے لئے خاص احکام اور خاص حدود مقرر کیں، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ انسان صلاح و فلاح میں انسانی معاشرے کی ترقی میں حصہ دار بن سکے۔

اسلام نے غلام بنانے کو اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا کہ جو شرعی جہاد کفار کے مقابلے میں ہو (اس میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو غلام بنایا جائے) جبکہ رومیوں کا یہ حال تھا کہ جنگی قیدیوں کے علاوہ ان کے بیہاں لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب کے نتیجے میں بھی غلام بنایا جاتا تھا۔ اور باندیوں سے پیدا ہونے والی اولاد کو غلام بنایا جاتا تھا۔ جبکہ اسلام نے اس کا اعلان کر دیا کہ جہاد شرعی جو کفار سے ہو، اس جہاد میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے علاوہ کسی کو غلام بنانا جائز نہیں۔

اور پھر جہاد شرعی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے لئے اسلام میں صرف یہی ایک راستہ نہیں ہے کہ ان کو ”غلام“ ہی بنایا جائے، بلکہ اسلام نے ان قیدیوں کے بارے میں امیر المؤمنین کو چار اختیارات دئے ہیں۔ ۱۔ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ۲۔ یا انہیں غلام بنایا جائے۔ ۳۔ یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ۴۔ یا ان سے معاوضہ لئے بغیر محض احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لہذا اسلام میں قیدیوں کو غلام بنانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ مندرجہ بالا چار مباح اختیارات میں سے ایک مباح اختیار ”غلام بنانا“ ہے۔

درحقیقت جنگ کا معاملہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اور بعض اوقات ایسے

حالات پیش آجاتے ہیں کہ ”غلامی“ کے علاوہ کوئی دوسری صورت حالات کے مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیدیں تو اس صورت میں افرادی وقت کو ضائع کرنا لازم آتا ہے۔ اور اگر سب قیدیوں کو چھوڑ دیں تو اس صورت میں کفر کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لئے کافروں کی اعانت لازم آتی ہے۔ اور اگر ان کو ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے تو اس صورت میں ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا اور بلا فائدہ ان پر مال خرچ کرنا لازم آتا ہے۔ لیکن اگر شرائط اور حدود کی پابندی کرتے ہوئے ان کو غلام بنا لیا جائے تو اس سے مندرجہ بالا خرابیاں لازم نہیں آئیں گی، چنانچہ اس کے ذریعہ نوع انسانی کی بقاء بھی ہو جائیگی، اور اس کے ذریعہ ان غلاموں کی اسلامی تربیت بھی ہو جائے گی دوسری طرف ان غلاموں کی خداداد صلاحیتوں سے معاشرے کی اصلاح میں تقویت حاصل ہوگی۔ اس لئے اسلام نے چار دروازے کھول دیے، اور امام وقت کو اختیار دیدیا کہ وہ ان چار صورتوں میں سے جو صورت حالات کے مناسب ہو، اس کو اختیار کر لے۔

پھر اسلام نے غلاموں کے ایسے حقوق بیان کئے ہیں کہ دوسرے مذاہب اور اقوام میں اس کی نظریہ بھی موجود نہیں ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَالْحَارِذِينَ الْقُرْبَى وَالْحَارِذِينَ وَالصَّاحِبِ بِالْحَسْبِ
وَأَئْبَنَ السُّبْلِ لَا وَمَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ طَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُجْحَدًا لَا فَخُورًا

اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، قرابت والوں کے ساتھ، اور تینیوں اور فقیروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں کے ساتھ اور تمہارے دامنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی غلام باندیوں کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اترانے والا، بڑائی کرنے والا (۱)

حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِخْوَانُكُمْ حَوْلُكُمْ، حَعْلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيهِنَّ، فَمَنْ كَانَ
أَخْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلَيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيَبْسُطَهُ مِمَّا يَبْسُطُ،
وَلَا تُكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنَّ كَلْفَتُهُمْ فَأَعْبُدُهُمْ۔

تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دیدیا ہے، جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اس کو چاہیئے کہ جو وہ خود کھائے، اس کو بھی کھلائے، اور جو خود پینے اس کو بھی پہنائے، اور ان سے ایسا کام نہ لے جس کا کرنا ان پر شاق ہو، اور اگر ایسا کام لیتا چاہو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو (۲)

حضرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمُلْكَةِ (يعني الذي يسيئ إلى مملوکه) قالوا: يا رسول الله: أليس اخبرتنا أن هذه

(۱) هدیۃ نبیاء، آیت ۳۷، ترجمہ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ

(۲) صحیح بخاری، کتاب الإيمان، باب المعاشر من أمر المحاملة، وكتاب

الحق، باب قول النبي ﷺ: العبد اخوانكم.

الامة أكثر الأسم مملوکین و يشامی؟ قال: نعم
فاکرموهم کرامہ اولاد کم و اطعموهم مسنا تاکلون۔
اپنے مملوک کے ساتھ بد خلقی کرنے والا شخص جنت میں نہیں
جائے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اکیا آپ نے
ہمیں یہ خبر نہیں دی تھی کہ اس امت کے لوگ غلام اور بیتیم کی
کثرت والے لوگ ہوں گے؟ (تو پھر کس طرح ان سب
کے ساتھ اچھا سلوک ہو سکے گا، بلکہ ان میں سے بعض کے
ساتھ اچھا سلوک ہو گا، تو بعض کے ساتھ بد خلقی بھی کرنی
پڑے گی) آپ نے فرمایا: یا ان کا ایسا ہی اکرام کرنا
جس طرح تم اپنی اولاد کا اکرام کرتے ہو، اور ان کو وہی چیز
کھلانا جو تم کھاتے ہو (۱)

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
من لطم مملوکه او ضربه فکفارته آن یعتقه (۲)
یعنی جو شخص اپنے غلام کو تھیر مارے، یا اس کی پٹائی کرے تو
اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے۔

غلاموں کے حقوق کا آپ ﷺ کو اتنا خیال تھا کہ وفات کے وقت
سب سے آخری کلام جو آپ ﷺ کی زبان مبارک پر جاری ہوا، وہ غلاموں
کے حقوق کی ادائیگی کی ترغیب کے بارے میں تھا چنانچہ حضرت انس دی اللہ علیہ السلام

(۱) ابن ماجہ، کتاب الادب، باب الاحسان الى الممالیک ۔

(۲) ابو داؤد، کتاب الادب، باب حق المملوک ۔

فرماتے ہیں کہ:

کانت عامة وصية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين
حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: "الصلة وما ملكت
أيمانكم".

یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالت نزع میں تھے،
اور غرگرہ کی کیفیت تھی، اس وقت آپ ﷺ نے اتنی وصیت
فرمائی کہ: "نماز کی حفاظت کرنا اور غلام لوٹھی کا خیال
رکھنا" (۱)

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں:

كان آخر كلام النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة وما
ملكت أيمانكم.

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی
حفاظت کرنا اور غلام لوٹھی کا خیال رکھنا (۲)

ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں:

عن علی رضی اللہ عنہ قال: كان آخر کلام رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة الصلاة، انقوا اللہ فيما
ملكت أيمانكم.

یعنی نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور غلام اور۔

(۱) ابن ماجہ، ابواب الرصاصیا، باب هل اوضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۲) البیضا

لوٹیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو (۱)

اس جیسی بیشمار احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان سب احادیث کو یہاں جمع کرنا ممکن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے ”غلامی“ کے نظام کو بالکل بدل کر مالک اور مملوک کے درمیان اخوت اور محبت اور بھائی چارہ قائم فرمادیا۔ جس کے نتیجے میں اسلام کے اندر ”غلامیت“ کا صرف نام ہی باقی رہ گیا۔ بلکہ اسلام نے ”غلامیت“ کے نام تک کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَقُولُنَّ أَحَدٌ كُمْ عَبْدِيْ وَأَمْتِيْ، وَلَا يَقُولُنَّ الْمُمْلُوكُ
رَبِّيْ وَرَبِّيْ، وَلِيَقُلِّ الْمَالُكُ: فَتَائِيْ وَفَتَائِيْ، لِيَقُلِّ
الْمُمْلُوكُ: سَيِّدِيْ وَسَيِّدِيْ، فَإِنَّكُمْ مَمْلُوكُوْنَ، وَالرَّبُّ
اللَّهُ تَعَالَى،

تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور باندی کو ”عبدی اور امتی“ کہہ کر ہرگز نہ پکارے۔ او کوئی مملوک اپنے آقا کو ”ربی اور ربتی“ کہہ کر نہ پکارے، بلکہ مالک اپنے مملوک کو ”فتائی اور فتاتی“ کہہ کر پکارے۔ اور مملوک اپنے آقا کو ”سیدی و سیدتی“ کہہ کر پکارے، کیونکہ تم سب مملوک ہو، اور ”رب“ صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ (۲)

غلاموں کے بارے میں مندرجہ بالا احکام صرف کتابوں کے اور اق کے

(۱) ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی حق الممْلوك۔

(۲) ابو داؤد، کتاب الادب، باب مَا لا يقول الممْلوك: ربی و ربی ج ۲ ص ۶۸۰

اندر محفوظ نہیں۔ بلکہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے ان پر عمل کر کے دھا دیا، چنانچہ مسلمان اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے، چنانچہ تاریخ اسلام میں آپ کو بہت سے غلام ایسے نظر آئیں گے جو غلام ہونے کے باوجود سرداری اور عزت کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچ گئے، بہت سے غلام علم اور معرفت کے ایسے مرتبے پر پہنچ کر آزاد لوگ ان کی طرف رجوع کرنے لگے، بہت سے غلاموں نے اسلام لانے کے بعد اسی زندگی گزاری کہ آزاد لوگ ان پر روشن کرنے لگے۔ ہماری پوری تاریخ اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، جو شہادت کے لئے کافی ہے۔

اس کے علاوہ یہ کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تاریخ اسلام کے کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں رہا، بلکہ پورا اسلامی معاشرہ ہر دور اور ہر زمانے میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حکم پر عمل کرتا رہا۔ جس میں اسلام میں غلام بنانے کو جائز قرار دینے کی حکمت اور صلحت صاف نظر آتی ہے۔ چنانچہ جس شخص نے اماء الرجال اور علماء اور رواۃ حدیث کے احوال کا مطالعہ کیا، اس نے دیکھ لیا کہ ان علماء اور رواۃ حدیث میں پیشتر افراد آزاد کردہ غلام تھے، چنانچہ مکرمۃ میں حضرت عطاء بن أبي رباح رض، یمن میں حضرت طاؤس بن کیسان رض، مصر میں حضرت یزید بن حبیب رض، شام میں حضرت بکھول رض، ججاز میں حضرت فحاک بن مزاحم رض، یہ سب آزاد کردہ غلام تھے۔ اور ان سب حضرات کا زمانہ بھی ایک ہے، اور اپنے اپنے علاقوں میں یہ سب علم اور فقہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

پھر اسلام نے غلاموں کے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ان کو کثرت سے آزاد کرنے کی بھی ترغیب دی، چنانچہ مصارف زکوٰۃ میں ایک مستقل مصرف

غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان فرمایا، اور ہر کفارہ کی ادائیگی کی صورتوں میں سب سے پہلے غلام کی آزادی کو مقرر فرمایا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا باندی کو تھپڑ مارنے کا کفارہ آزادی کو قرار دیا، جیسا کہ یہچے حدیث گزری، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے ایسے فضائل بیان فرمائے کہ بہت سے نیک اعمال پر ایسے فضائل بیان نہیں فرمائے، اور مذاق میں آزاد کرنے پر بھی واقعی آزادی کا حکم دیدیا، اور سورج گھن اور چاند گھن کے موقع پر کثرت سے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ بخاری شریف میں "كتاب العتق، باب ما يشتحب من العتقة في الكسوف" میں احادیث موجود ہیں۔

اسی ترغیب کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، اس کے لئے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ مِنْهُمَا، فَقَالَ: يَا
نَبِيَّ اللَّهِ اخْتَرْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مِنْ أَحْكَمِ النَّاسِ، خذْ هَذَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَصْلِيَ،
وَاسْتَوْصُ بِهِ مَعْرُوفًا، فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمَ إِلَى امْرَأَتِهِ،
فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَتْ
إِمْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِيَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا أَنْ تَعْتَقْهُ، قَالَ: هُوَ عَتِيقٌ، الْخَ.

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام آئے تو آپ نے حضرت ابوالہیثم رض سے فرمایا ان میں سے ایک لیو، انہوں نے فرمایا کہ یا نبی اللہ! آپ ہی ایک کو منتخب کر دیجئے،

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، (آپ نے ایک غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) تم یہ غلام لے لو، کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ حضرت ابوالہیثم رضی اللہ عنہ اس غلام کو لے کر اپنی الہیم کے پاس آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سن دیا، ان کی پیوی نے کہا کہ حضور اقدس ﷺ نے جو کچھ اس کے بارے میں فرمایا ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اسے آزاد نہ کر دو۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوالہیثم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ آزاد ہے۔ (۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يَرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غَلَامٌ، ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَابْوَهُرِيرَةَ حَالِسَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْوَهُرِيرَةً! هَذَا غَلَامٌ كَفَرَ أَنَاكَ، أَمَا إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّهُ خَرَّ.

یعنی جب وہ اسلام لانے کے ارادے سے آئے تو ان کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھر کچھ دونوں کے بعد وہ غلام آیا تو اس وقت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے

(۱) ترمذی، ابواب الزهد، باب ماجاء فی معیشة اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم

تھے، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! یہ تھا را غلام ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ ؓ نے فرمایا: میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ آزاد ہے۔ (۱)

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت ابوذر ۃشیعہؓ کو ایک غلام عطا فرمایا، اور آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابوذر ۃشیعہؓ نے اس غلام کو آزاد فرمادیا (۲)

حضرت عبد اللہ بن عمر ۃشیعہؓ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کسی غلام کے اندر کوئی ایسی صفت دیکھتے جو انہیں اچھی معلوم ہوتی تو اس غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے، چنانچہ غلاموں کو ان کی یہ بات معلوم ہو گئی، تو بعض اوقات کوئی غلام مسجد کو لازم کر لیتا، اور ہر وقت مسجد میں رہتا تو حضرت عبد اللہ بن عمر ۃشیعہؓ اس کی اس اچھی حالت کو دیکھتے تو اس کو آزاد کر دیا کرتے۔ لوگ آپ سے عرض کرتے کہ حضرت ایسا غلام آپ کو دھوکہ دینے کے لئے اور آزادی حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں، (حقیقت میں مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنی مقصود نہیں ہوتی) جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر ۃشیعہؓ فرماتے ہیں:

من خدعاً بالله انخدعناه

یعنی جو شخص ہمیں اللہ کے ذریعہ دھوکہ دے گا تو ہم اس کے

(۱) صحیح بخاری، کتاب العنق، باب اذا قال للعبد: هو ليه، ونوى العنق، ج ۱

۳۴۳

(۲) ادب المنفرد للبخاری، باب العفو عن العhad، حدیث نمبر ۱۶۳

دھو کے میں آ جائیں گے۔ (۱)

حضرت عثمان غنی رض کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر جمع کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔

بہر حال! یہ ان واقعات کا تھوڑا سا مفہوم ہے جن سے پوری تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ ان تمام واقعات کو یہاں جمع کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ ان چند واقعات کو اس لئے بیان کر دیا تاکہ اسلامی معاشرے کی صحیح صورت سامنے آجائے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب ”ابنجم الوعاج“ میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے سالوں کی تعداد کے مطابق تریسٹھ غلام آزاد کئے: اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہتر غلام آزاد کئے، اور ان کی عمر بھی انہتر سال ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیٹھار غلام آزاد کئے۔ حضرت عباس رض نے ستر غلام آزاد کئے۔ رواد الحاکم۔ حضرت عثمان رض جس زمانے میں حاصل رہے میں قید تھے آپ نے اس وقت میں غلام آزاد کئے، حضرت حکیم بن حزام رض نے چاندی کے طوق پہنے ہوئے سو غلام آزاد کئے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے ایک ہزار غلام آزاد کئے اور انہوں نے ایک ہزار عمرے کئے اور ساٹھج کئے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے ایک ہزار گھوڑے تیار کئے، حضرت ذوالکلام عییری رض نے ایک دن میں آٹھ ہزار غلام آزاد کئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رض نے تیس ہزار غلام آزاد کئے۔ (۲)

(۱) تہذیب الاساء، واللغات للنووی، ج ۱، ص ۴۸۰، طبقات ابن سعد، ج ۴،

ص ۱۶۷

(۲) فتح العلام شرح بلوغ المرام: کتاب العنق، ۳۳۲: ۲

مندرجہ بالا صرف آٹھ افراد نے انگلیس ہزار تین سو پانچس (۳۹۳۲۲) غلام آزاد کئے، اس تعداد کے ذریعہ غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی سخاوت کا اندازہ کر سکتے، جن مسلمانوں کا غلاموں کے آزاد کرنے میں یہ حال ہو، کیا وہ غلاموں کے ساتھ ایک شریف بھائی جیسا سلوک نہیں کریں گے؟

بہر حال! یہ اسلام میں ”غلامی“ اور اس کے نتائج تھے۔ اب ہم اسلام میں ”غلامی“ کے پارے میں ان اہل مغرب کے تاثرات پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام میں غلاموں کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے، چنانچہ فرانسیسی مصنف ”موسیو آبُو“ لکھتا ہے:

مالک اسلام میں غلامی کوئی معیوب چیز نہیں تھی، چنانچہ تمام سلاطین قسطنطینیہ جو امیر المؤمنین بنے، وہ سب باندیوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کی شجاعت اور بہادری میں کوئی فرق نہیں آیا، اکثر اوقات مصر کے امراء اور بادشاہ غلاموں کو خرید کر ان کی پرورش کرتے اور ان کو تعلیم دیتے، اور اپنی بیٹیوں سے ان کی شادی کر دیتے، اگر آپ قاہرہ کے امراء، وزراء، پہ سالار کے حالات میں غور کریں تو ان کی بڑی تعداد ایسی ملے گی جن کو بچپن میں آٹھ سو درہم سے لے کر بارہ سو درہم کے درمیان قیمت میں فروخت کیا گیا تھا۔

”لیڈی بلڈٹ“ جو ایک انگریزی خاتون ہیں جنہوں نے عرب ممالک کی سیاحت کی ہے، وہ اپنے نجد کے سفر میں ایک عرب سے جو مکالمہ ہوا، اس کے

بارے میں لکھتی ہے کہ:

”ایک چیز جو بالکل اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ یہ تھی کہ انگریز حکومت کو غلاموں کی تجارت بند کر دینے سے کیا فائدہ؟ ہم نے کہا کہ یہ محض حیثیت انسانی کا تقاضہ ہے۔ اس نے جواب دیا: یہ سچ ہے، لیکن غلاموں کی تجارت میں کسی قسم کی بے رحمی نہیں ہے۔ وہ باصرار کہتا تھا کہ کسی نے ہمیں غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے دیکھا ہے؟ فی الواقع ہم اسے اپنے تجربہ سے کوئی مثال عرب میں غلاموں کے ساتھ بدسلوکی نہ بتلا سکے، سچ یہ ہے کہ عربوں میں ”غلام“ نوکر نہیں ہے، بلکہ ایک لاڈلہ پچھے ہے۔

یہ وہ اقوال اور مثالیں ہیں جن کو ”ڈاکٹر گتاوی بان“ نے اپنی مشہور کتاب ”تمدن عرب“ میں بیان کیا ہے، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ: وہ اصل یورپ جو شرق میں غلاموں کی تجارت بند کرنا چاہتے ہیں، فی الواقع وہ نوع انسانی کے خیرخواہ ہیں، اور ان کی نیتیں درست ہیں۔ لیکن اہل مشرق اس بات کو قبول نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ خیرخواہ لوگ اہل جہش پر توڑے مہربان ہیں، لیکن دوسری طرف یہی لوگ چینیوں کو توپ و تفنگ کے ذریعہ اپیون خریدنے پر مجبور کرتے ہیں اور ایک سال کے اندر راتی جانوں کا خون کر دیتے ہیں کہ ”غلامی“ دس سال کے عرصہ میں بھی اتنا خون نہیں کرتی۔ (۱)

کیا "غلامی" کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟

اس آخری دور میں یورپ کے بہت سے لوگ اسلام میں "غلامی" کی شرائط اور اس کی حدود اور اس کی حکمت، اور اسلامی تاریخ میں اس کے بہترین نتائج سے ناواقفیت کی وجہ سے، یا ناواقف بن کر اسلام میں "غلامی" کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں مسلمانوں ہی میں سے ایک جماعت (ان اعتراضات سے متاثر ہو کر) اسلام کے "غلامی" کے حکم پر مغدرت پیش کرنے لگے اور اہل مغرب کی خواہشات کی موافقت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ: آج کے دور میں اسلام "غلامی" کی اجازت نہیں دیتا، ابتداء اسلام میں "غلامی" کی اجازت تھی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اس کی اجازت منسوخ ہو گئی تھی، ہندوستان میں اس نامعقول اور باطل دعوی کو اٹھانے والا اور پھیلانے والا شخص "چراغِ علی" تھا اور یہ شخص سرید احمد خان کے رفتاء اور ساتھیوں میں سے تھا، اور اس نے اس دعوی کو ثابت کرنے کے لئے اپنی کتاب میں ایک مقالہ "اعظم الكلام فی ارتقاء الاسلام" کے نام سے لکھا ہے، جس میں ایسے کمزور اور ریکیک قسم کے دلائل دئے ہیں، جن کو پڑھ کر غم زدہ ہوت کوہی نہیں آجائے، ہمیں ان دلائل کو بیان کرنے اور ان کو رد کرنے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ جس شخص کو دین اور علم دین سے ادنیٰ درجہ کا بھی لگاؤ ہو گا، وہ ان دلائل کے باطل ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کتاب میں مصنف صاحب ایک ایسا مخالف ط آمیز کلام لائے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت بعض لوگوں پر خنی رہ جائے، لہذا اس مخالف کو بیان کر کے اس کا جواب دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔
وہ مخالف یہ ہے کہ انہوں نے سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس آیت سے

استدلال کیا ہے:

حَتَّىٰ إِذَا أَنْخَسْتُمُوهُمْ فَشَدُّو الْوَنَاقَ، فَإِمَّا مَنًا بَعْدُ

وَإِمَّا فِدَاءً (۱)

یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خوازیزی کر چکو تو خوب
مضبوط ہاندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا، یا
معاوضہ لے کر چھوڑ دینا ہے۔

اس کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے
بارے میں صرف دو صورتیں ذکر کی ہیں، ایک یہ کہ بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا،
دوسرے یہ کہ فدیہ اور معاوضہ لے کر چھوڑنا، نہ تو جنگی قیدیوں کے قتل کرنے کا
ذکر کیا اور نہ ان کو غلام بنانے کا ذکر کیا، اس سے ظاہر ہوا کہ ابتداء اسلام میں تو
جنگی قیدیوں کو قتل کرنے یا ان کو غلام بنانے کا حکم تھا۔ لیکن بعد میں اس آیت نے
ان دونوں کو منسوخ کر دیا۔

چونکہ یہ مخالف الطایسا ہے جو بہت سے لوگوں کو غلط فہمی اور التباس میں ڈال
سکتا ہے، اس لئے ہم قدرے تفصیل سے اس کا جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت میں ”غلامی“ کی حرمت اور اس کی
اجازت کے منسوخ ہونے پر کوئی دلالت موجود نہیں، اس کی کئی دلیلیں ہیں۔

① اگر ہم اس آیت کے الفاظ میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس آیت
کے الفاظ ”غلامی“ کی کوئی نہیں کرتے، اس لئے کہ لفظ ”إِمَّا“ حصر ہے
بالکل دلالت نہیں کرتا، اس لئے کہ یہ لفظ جمع کے معنی کے لئے بھی

استعمال ہوتا ہے، جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ:
خالیشِ اماماً الحسن و اماماً زید

یعنی بیٹھنے والا شخص یا تو حسن ہے یا زید ہے، لیکن اس کلام سے ان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بیٹھنے کی نظر نہیں ہوتی۔

علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ "اما" پانچ معانی کے لئے آتا ہے، نبراک ① شک کے معنی دینے کے لئے، جیسے جاء نسی امازید و اماعمر، میرے پاس یا تو زید آیا ہے یا عمر و آیا، یہ جملہ اس وقت بولا جائے گا جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ آنے والا ان دونوں میں کون ہے۔

② دوسرے ابهام کے معنی کے لئے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے:
وَآخَرُونَ مُرْجَحُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ
عَلَيْهِمْ (۱)

یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک ملتا ہے کہ ان کو سزا دے گا، یا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔

③ تیرے یہ کہ امامت خیبر کے معنی کے لئے، یعنی دوسرے شخص کو دو کاموں میں سے ایک کام کا اختیار بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے:

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَحْدَثَ فِيهِمْ حُسْنًا (۲)

(۱) سورہ توبہ، آیت ۱۰۶

(۲) سورہ کہف، آیت ۸۶

یعنی تمہیں اختیار ہے، چاہے تم ان کو سزا دو، چاہے تم ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَنْ تُلْقِي وَإِنَّمَا أَنْ تُكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَنْتُ (۱)
يَا تَوَآپْ پُهْلے ڏالیں، یا ہم پُھلے ڏالنے والے ہیں۔

⑦ چوتھے یہ کہ ”اما“ اباحت کے بیان کے لئے آتا ہے، اور یہ اباحت یا فقہی اعتبار سے ہوگی، یا نحوی اعتبار سے، جیسے جالس اما الحسن و إِمَّا ابْنٌ سَيِّرِينَ، ⑧ پانچویں لفظ اما تفصیل بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے:

إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَهُورًا (۲)

یعنی ہم نے انسان کو رستہ بتلایا، یا تو وہ شکر گزار ہو گیا، یا ناشکر اور کافر ہو گیا (۳)

مندرجہ بالا تفصیل سے ظاہر ہوا کہ لفظ ”اما“ حصر کے معنی دینے کے لئے نہیں آتا، البتہ جب لفظ ”اما“ دو تناقض چیزوں کے درمیان آجائے تو اس وقت یہ ”حصر“ کے معنی دیتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ”اما“ کے معانی میں ”حصر“ کے معنی بھی ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ عقلاً ان دونوں چیزوں کے درمیان تناقض پایا جا رہا ہے۔ لہذا مذکورہ آیت میں جن دو چیزوں کا ذکر ہے (ان میں تناقض نہیں ہے، لہذا) تیری چیز کے ذریعہ عقلاً ان دونوں کا ارتقاء ممکن ہے،

(۱) سورۃ طہ، آیت ۶۵

(۲) سورۃ وہر، آیت ۳

(۳) معنی اللیب لابن هشام، ج ۱، ص ۶۰

اس سے ظاہر ہوا کہ اس آیت میں لفظ "اما" حصر کے معنی کے لئے نہیں ہے، بلکہ "اباحت" بطریقہ مانعہ الجمع کے معنی دینے کے لئے آیا ہے (یعنی "من" اور فداء کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے) دونوں کے درمیان حقیقی جدائی کے معنی دینے کے لئے نہیں لایا گیا ہے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں جنگی قیدیوں کے حکم کے بیان کے ضمن میں دو مباحث اور جائز طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان دو طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقوں کی نفعی نہیں کی گئی ہے، لہذا یہ آیت دوسرے طریقوں کے ذکر سے ساکت تو ہے، لیکن دوسرے طریقوں کی نفعی نہیں کر رہی ہے، اور جب جنگی قیدیوں کو غلام بنانا، یا ان کو قتل کرنا دوسرے شرعی دلائل سے ثابت ہے تو یہ آیت نہ تو ان دلائل کے معارض ہے، اور نہ ان کا انکار کر رہی ہے، اور جنگی قیدیوں کو "غلام" بنانے کا جواز دوسرے قطبی دلائل سے ثابت ہے، جن کا ذکر انشاء اللہ آگے آنے والا ہے، لہذا اس آیت کی بنیاد پر "غلام" بنانے کے جواز کو رد کرنا ممکن نہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف دو طریقوں یعنی "من" اور "فداء" کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے دو طریقوں یعنی "قتل" اور "غلامی" کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ "قتل" اور "غلامی" کے طریقے تو راجح تھے اور مشہور بھی تھے، نزول قرآن کے وقت کسی کو بھی ان دونوں طریقوں کے جواز میں شک نہیں تھا۔ البتہ "من" اور "فداء" کے جواز میں لوگوں کو شک تھا۔ اس لئے اللہ جل شانہ نے اس آیت میں ان دونوں کا جواز بیان فرمادیا۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریقے سے اس اعتراض کا

جواب دیا ہے، چنانچہ وہ اپنی تفسیر میں (ج ۷، ص ۵۰۸) فرماتے ہیں کہ: "إِمَّا" حصر کے لئے ہے، (۱) جبکہ کفار کے قید ہو جانے کے بعد ان کا معاملہ دو چیزوں میں مختصر نہیں ہے، بلکہ قتل کرنا، غلام بنانا، بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا، یہ سب صورتیں جائز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اصل حکم ہے، البتہ اس آیت میں صرف اس عام حکم کو بیان کیا گیا ہے جو تمام قسم کے قیدیوں میں جائز ہے، چونکہ "غلامی" کا حکم عرب قیدیوں میں جائز نہیں ہے، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی "عرب" تھے، اس لئے اس آیت میں "غلامی" کا ذکر نہیں کیا گیا، جہاں تک "قتل" کا تعلق ہے، تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ "قتل" کا حکم صرف خوزیری کے زمانہ تک محدود ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی دوسری آیت: "فَضَرُبَ الرِّقَابُ" میں قتل کا ذکر آچکا ہے (اس لئے بیہاں ان کو بیان نہیں کیا) لہذا ذکر کے لئے صرف دو چیزیں باقی رہ گئیں۔ (ایک بغیر فدیہ لئے چھوڑ دینا، دوسرے فدیہ لے کر چھوڑ دینا، ان دونوں کا بیہاں ذکر کر یا گیا)

۲۔ پھر جب ہم نے لفظ "مَنْ" میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ لفظ بعض اوقات "غلامی" کے معنی پر بھی مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ "مَنْ" کے معنی یہ ہیں کہ قیدی کو کسی مالی معاوضے کے بغیر چھوڑ دیا جائے اور اسے قتل نہ کیا جائے، اور بھی معنی غلام بنانے میں بھی حاصل ہو جاتے ہیں (اس لئے کہ غلام بنانے کی صورت میں نہ اس سے معاوضہ لیا جاتا ہے اور نہ قتل کیا جاتا ہے) اسی لئے علام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف میں (ج ۳، ص ۳۱۶) فرماتے ہیں کہ: "مَنْ" سے یہ معنی مراد لینا بھی جائز ہے کہ ان قیدیوں کے قتل کو ترک کر کے ان پر احسان کیا

(۱) جیسا یچھے گز روپ کا کہ "إِمَّا" حصر کے لئے نہیں آتا ہے، لہذا اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے تابع ہوا ہے۔

جائے، اور ان کو غلام بنالیا جائے، یا ان پر اس طرح احسان کیا جائے کہ ان کا جزیہ قول کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو "اصل الذمہ" میں شامل کر دیا جائے۔ اگر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ یہ تفسیری جائے، جبکہ یہ تفسیر لینے میں کوئی مانع بھی نہیں ہے۔ (۱) تو اس تفسیر کے مطابق "غلامی" کا ذکر اس آیت میں بھی موجود ہے، اور یہ آیت "غلامی" کے منافی، یا اس سے خاموش نہیں ہے۔

۳۔ اس آیت کے بعد بھی بہت سی آیات ایسی تازل ہوئی ہیں جو "غلامی" کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، اگر یہ "من" اور "فداء" والی آیت "غلامی" کے حکم کو منسوخ کرنے والی ہوتی تو دوسری آیات اس کے بعد "غلامی" کے بیان پر تازل نہ ہوتیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بعض تابعین جیسے حضرت سعید بن جبیر رض، امام محاک رض، امام الحنفی رض کے نزدیک کی ہے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر (ج ۱۶، ص ۳۲۳) میں بیان فرمایا ہے، اور

(۱) یہ تفسیر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے مستفاد ہے، کیونکہ وہ قیدی کے قتل کو ناپسند کرتے تھے، اور یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے کہ: إِنَّمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءً اس آیت سے اس طرح استنباط فرماتے تھے کہ امام کے لئے یہ مناسب نہیں کہ جب قیدی اس کے قبضہ میں آجائے تو وہ اس کو قتل کر دے، لیکن امام کو تمیں چیزوں کا اختیار ہو گا، یا تو اس قیدی پر احسان کرے، اور اس سے فدیہ لئے بغیر اس کو چھوڑ دے، یا اس سے فدیہ وصول کر کے چھوڑ دے، یا اس کو غلام بنالے (تفسیر قرطبی، ج ۱۶، ج ۲۲۸) اس تفصیل سے یہ لازم آیا کہ انہوں نے "غلامی" کو "من" میں داخل کر دیا ہے، تفسیر ابن جریر (ج ۲۶، ص ۲۲۳) میں غور کرنے سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کلام میں بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ لفظ "من" استرقاق کو بھی شامل ہے۔

جمهور مفسرین کے نزدیک سورہ محمد مدنی ہے، مگر یہ سورۃ غزوہ بدر کے آس پاس نازل ہوئی ہے، یا تو ”غزوہ بدر“ سے پہلے نازل ہوئی ہے، جیسا کہ ”تعریف المقیاس“ میں تفسیر ابن عباس رض اس پر دلالت کر رہی ہے۔ (۱) یا غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، (۲) لہذا اس سورت کے نزول کا زمانہ ۲ھ سے متوجہ نہیں ہے، جبکہ مندرجہ ذیل آیات اس کے بعد نازل ہوئیں:-

محمات والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ (۳)

یہ آیت ”قبیلہ او طاس“ کے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اسی کتاب میں ایک حدیث ”باب جواز وطنی المسبیة بعد الاستبراء“ میں حضرت ابوسعید خدری رض سے مردی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنی کے دن ایک لشکر قبیلہ او طاس کی طرف بھیجا، وہاں دشمنوں سے سامنا ہوا، اور قتال ہوا، اور دشکران پر غالب آیا اور قیدی ہاتھ آئے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے خواتین قیدیوں کے مشرک شوہروں کے موجود ہونے کی وجہ سے ان قیدی خواتین سے جماع کرنے میں حرج محسوس کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ

(۱) تفسیر ”تعریف المقیاس“ مطبوعہ درج مجموعہ چار تفاسیر، ج ۵، ص ۹۷، مشہور یہ ہے کہ تعریف المقیاس کی اسناد ابن عباس کی طرف درست نہیں ہے، بلکہ سبب الاتصال یہاں ذکر کر دیا۔

(۲) تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۷۳

(۳) سورہ نساء، آیت ۲۲

یعنی وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں وہ حرام ہیں۔ مگر یہ کہ وہ عورتیں تمہاری مملوک ہو جائیں تو عدت گزرنے کے بعد ایسی عورتیں تمہارے لئے حلال ہو جائیں گی۔ اس آیت کے ذریعہ اللہ جل شانہ نے جنکی قید یوں کو اپنے قید میں رکھنے اور ان کو غلام بنا نے کو مباح قرار دیا ہے، جبکہ مذکورہ آیت "مَنْ" اور "فَدَاء" والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر غلام بنا نا "مَنْ" اور "فَدَاء" والی آیت کے ذریعہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو یہ اباحت اور جواز ۸۷ میں کیسے نازل ہوتا۔

سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْضًا وَاجْلَكَ التَّنْبَىءَ آتَيْتَ أُجْوَرَ هُنْ وَمَا مَلَكْتَ بِمِيَّنْكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (۱)

یعنی اے نبی ﷺ ہم نے آپ کے لئے آپ کی یہ یہیاں، جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، حلال کی ہیں اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی مملوک ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوادی ہیں۔

اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان عورتوں کے باندی بنا نے کو مباح قرار دیدیا جو عورتیں مال غنیمت کے طور پر آپ کے حصے میں آئیں، اور یہ بات معروف و مشہور ہے کہ عورتیں بطور مال غنیمت کے غزوہ بدر میں نہیں آئیں، نہ غزوہ احمد میں، نہ غزوہ احزاب میں آئیں، بلکہ غزوہ خیر اور بند کے غزوہات میں آئیں تھیں، لہذا اس آیت کے

ذریعہ حکم دیا گیا ہے، وہ لا حالہ "مَنْ" اور "فَدَاءٌ" والی آیت سے متاخر ہے۔

پھر اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَا يَحِلُّ لِكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَأَنْ تَبْدِلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَلَوْ أَغْيَثَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكْتَ يَوْمَئِنُكَ (۱)

یعنی ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں، اور نہ آپ کے لئے یہ حلال ہے کہ آپ ان موجودہ یوں یوں کی جگہ دوسری یوں کر لیں۔ اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا معلوم ہو، مگر جو آپ کی مملوک ہو۔

علامہ ابن کثیر رض اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کئی علماء مثلاً حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت مجاهد رض، امام ضحاک رض، امام قداہ رض، حضرت ابن زید رض، امام ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے مال دولت کو اختیار کر لیں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخوت کو اختیار کریں، چونکہ ازواج مطہرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخوت کو اختیار کیا تھا، اس لئے اس بہترین عمل کے انعام کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی، جب ازواج مطہرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ازواج مطہرات کے ساتھ مختصر اور محدود کر دیا کہ اب ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا حرام کر دیا، اور نہ ہی ان کی جگہ دوسری عورت کو لاسکتے ہیں، اگرچہ اس دوسری عورت کا حسن آپ کو اچھا معلوم ہو، البتہ باندیوں اور جنگی قیدیوں کی

اجازت دیدی کہ ان کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ سے یہ پابندی بھی ختم فرمادی، اور اس آیت کا حکم منسوخ فرمادیا، اور آپ کو نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمادی، لیکن خود حضور ﷺ نے اس کے بعد نکاح نہیں فرمایا، تاکہ حضور اقدس ﷺ کا احسان از واج مطہرات پر برقرار رہے (۱)

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس بات پر صراحتاً دلالت کر رہا ہے کہ یہ آیت "تحبیر" والی آیت کے بعد نازل ہوئی، اور تحبیر والی آیت کے بارعے میں یہ طے ہے کہ وہ ۹۷ میں نازل ہوئی، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی تحقیق فرمائی ہے (۲)

لہذا مندرجہ بالا آیت یقیناً ۹۷ میں، یا اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں قیدی بنانے اور غلام بنانے کی اجازت موجود ہے۔

دوسرے طریقے سے یوں کہا جاتا ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا مندرجہ بالا قول صراحتاً اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اقدس ﷺ نے کسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، اور سب سے آخری خاتون جن سے حضور اقدس ﷺ نے نکاح فرمایا، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا تھیں، جن سے ۷۷ میں عمرۃ القضا کے موقع پر نکاح فرمایا (۳) لہذا یقیناً یہ آیت ۷۷ کے بعد

(۱) تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۵۰۱

(۲) طبقات ابن سعد، ج ۸، ص ۱۳۲

(۳) تفسیر سورۃ الاحزاب، ج ۸، ص ۲۰۱، و کتاب النکاح، باب مواعظة الرجل ابته، ج ۹، ص ۲۵۰

نازل ہوئی ہے، بہر حال ”مَنْ“ اور ”فَدَاء“ والی آیت کے بعد کئی آیات اسکی نازل ہوئی ہیں جن میں قیدی بنا نے اور غلام بنا نے کی اباحت موجود ہے۔

۷۔ ”مَنْ“ اور ”فَدَاء“ والی آیت کے نزول کے بعد بھی حضور اقدس ﷺ سے متعدد مواقع پر قیدیوں کو غلام بنا تا ثابت ہے، چنانچہ بونقریظ کی عورتوں اور ان کی اولاد کو قیدی بنا یا، جبکہ یہ غزوہ احزاب کے پچھے عرصہ کے بعد پیش آیا، اسی طرح خیر کی عورتوں کو قیدی بنا یا، انہی قیدیوں میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اور بنی المصطلق کی عورتوں کی قیدی بنا یا، اور ان قیدیوں میں ام المؤمنین حضرت جویر یہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اسی طرح قبیلہ او طاس کی عورتوں کو قیدی بنا یا، جن کا ذکر ماقبل میں گزرا، اور قبیلہ حوازن کی عورتوں کو قیدی بنا یا، اور ان کو عائمه کے درمیان تقسیم فرمایا۔

اور سب سے آخری کلمہ جو حضور اقدس ﷺ کی زبان سے ادا ہوا، وہ یہ

تحاکہ:

الصلوة وَمَا ملکت ايمانك

یعنی نماز کا اہتمام کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔

جیسا کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کے حوالے سے ماقبل میں گزر اس قول میں غلامی کا جواز بھی موجود ہے اور ملک تینیں کا اعتراف بھی موجود ہے اور اس آخری قول سے زیادہ مکمل حکم کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس کے اندر منسوخ ہونے کا کوئی اختلال موجود نہیں، اس لئے کہ یہ حضور اقدس ﷺ کا آخری کلام ہے۔

پھر صحابہ کرام کے دور میں اور بعد کے دور میں بھی امت کے اندر غلامی کے حکم پر سلسلہ عمل ہوتا رہا، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ تو کیا سب حضرات،

نحوذ باللہ، "مَنْ" اور "فَدَاءٌ" والی آیت سے ناواقف تھے؟ یا ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھا تھا؟ یا یہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہے پرواہ تھے؟ کیا کوئی حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور فقهاء و محدثین کے بارے میں ان باتوں کا تصور بھی کر سکتا ہے جنہوں نے دین حنفی کے چھیلانے میں اپنی جان اور مال کو لگا دیا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرے۔

لہذا واضح اور صریح حق یہ ہے کہ "غلامی" اسلام میں اپنے احکام اور حدود کے ساتھ۔ جن کا بیان اور ہو چکا۔ جائز اور مباح ہے، اس کی کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی، اس کا وہی حکم ہے جو ہم نے اور بیان کیا، اور اس کے منسوخ ہونے کا قول مردوں ہے، اور اجماع امت کے خلاف ہے اور اولہ شرعیہ کی موجودگی میں وہ قول جھٹ نہیں ہے۔

تنبیہ

یہاں ایک اہم بات کی طرف تنبیہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ دنیا کی اکثر اقوام نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ بات طے کر لی ہے کہ آئندہ کسی جنگی قیدی کو "غلام" نہیں بنایا جائے گا، اکثر اسلامی ممالک بھی اس معاہدہ میں شریک ہیں۔ خاص طور پر "اقوام متحدة" کے ممبر ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں، لہذا جب تک یہ معاہدہ باقی ہے، اس وقت تک اسلامی ممالک کے نئے بھی کسی قیدی کو غلام بنانا جائز نہیں۔ البتہ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا معاہدہ کرنا جائز بھی ہے؟ معتقد میں کے کلام میں تو مجھے اس کا حکم صراحتاً نہیں ملا۔ البتہ ظاہر یہ ہے کہ ایسا معاہدہ کرنا جائز ہے، اس لئے کہ "غلام" بنانا کوئی واجب اور ضروری

تونہیں، اور قیدی کے بارے میں چار مباحث صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس بارے میں امام اور حاکم کو اختیار ہے، اور آزاد کرنے کی فضیلت اور دوسرے احکام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں آزادی زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا جب تک دوسری اقوام اس معاہدے کی پابندی کریں، اور اس معاہدے کو نہ توڑیں، اس وقت تک اس قسم کا معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

وَاللَّهُ سَبَحَانَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَأْبُ

مَأْعُوذُ

از

تکملة فتح الملهم جلد اول ص ۲۶۳



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يُظْهِرُ كُمْ مِّنْ ضَلَالٍ إِذَا هُدَيْتُمْ
إِلَى اللّٰهِ مُوْجَعَكُمْ جَنِيْلَيْنِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“
(الْأَنْعَمُ: ۱۱۵)

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کی خبر لو، اگر تم سیدھے راستے پر آگئے
(تم نے ہدایت حاصل کر لی۔ صحیح راستہ اختیار کر لیا) تو جو لوگ گراہ ہیں۔
ان کی گراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹا ہے
وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔

حدود ترمیمی بل کیا ہے؟

تحفظ حقوق نسوں بل کی حقیقت

(۷)

اردو مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترتیب

محمد عبد اللہ سعید

میمن اسلامک پبلیشورز

(۷) حدود ترمیمی بل کیا ہے؟

توی اسبلی میں "تحفظ حقوق نسوں بل" کے نام سے حال ہی میں ایک بل منظور کرایا گیا ہے، اس بل کے قانونی مضرات سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو قانونی باریکیوں کی فہم رکھتے ہوں، عام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بل کے نتیجے میں تم رسیدہ خواتین کو سکھ اور چین فیض ہو گا۔ حضرت والا نے اس مقالہ میں اس بل کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، یہ مقالہ ماہنامہ "البلاغ" میں شائع ہو چکا ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حدود ترمیمی بل کیا ہے؟

(تحفظ حقوق نساں بل)

الحمد لله رب العلمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه
سيدنا و مولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه
الطيبين الطاهرين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم
الدين . اما بعد

حال ہی میں "تحفظ حقوق نساں بل" کے نام سے تویی اسٹبلی میں جو بل منظور کرایا گیا ہے، اس کے قانونی مضرات سے تو وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو
قانونی باریکیوں کی فہم رکھتے ہوں، لیکن عوام کے سامنے اس کی جو تصویر پیش کی
جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حدود آرڈیننس نے خواتین پر جوبے پناہ ظلم توڑ کئے تھے،
اس بل نے ان کا مادا اکیا ہے، اور اس سے نہ جانے کتنی تم رسیدہ خواتین کو سکھ پھین
نصیب ہو گا۔ یہ دعویی بھی کیا جا رہا ہے کہ اس بل میں کوئی بات قرآن و سنت کے
خلاف نہیں۔

آئیے ذرا صحیدگی اور حقیقت پسندی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اس بل کی بنیادی

باتیں کیا ہیں؟ وہ کس حد تک ان دعوؤں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، پورے بل کا جائزہ لیا جائے تو اس بل کی جو ہری (Substantive) باتیں صرف دو ہیں:

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ زنا بالجبر کی جو سزا قرآن و سنت نے مقرر فرمائی ہے، اور جسے اصطلاح میں ”حد“ کہتے ہیں، اُسے اس بل میں مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اس کی رو سے زنا بالجبر کے کسی مجرم کو کسی بھی حالت میں وہ شرعی سزا نہیں دی جاسکتی، بلکہ اُسے ہر حالت میں تعزیری سزا دی جائے گی۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں جس جرم کو زنا موجب تعزیر کہا گیا تھا، اُسے اب ”فُحشی“ (Lewdness) کا نام دے کر اس کی سزا کم کر دی گئی ہے، اور اس کے ثبوت کو مشکل تر نہ کیا گیا ہے۔

اب ان دونوں جو ہری باتوں پر ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں :

زنا بالجبر کی شرعی سزا (حد) کو بالکلیہ ختم کر دیا واضح طور پر قرآن و سنت کے احکام کی خلاف درزی ہے، لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ قرآن و سنت نے زنا کی جو حد مقرر کی ہے، وہ صرف اس صورت میں لا گو ہوتی ہے جب زنا کا ارتکاب دو مردوں عورت نے باہمی رضامندی سے کیا ہو، لیکن جہاں کسی مجرم نے کسی عورت سے اس کی رضامندی کے بغیر زنا کیا ہو، اس پر قرآن و سنت نے کوئی حد عائد نہیں کی۔

آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ دعویٰ کس حد تک صحتی ہے؟

(۱) قرآن کریم نے سورہ نور کی دوسری آیت میں زنا کی حد مقرر فرمائی ہے :

الرَّأْيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِذُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْأَنْوَارِ جَلَدَةٌ

جو عورت زنا کرے اور جو مرد زنا کرے، ان میں سے ہر ایک کو سو

کوڑے لگا۔ (النور: ۲)

اس آیت میں "زنہ" کا لفظ مطلق ہے، جو ہر جم کے زنا کو شامل ہے، اس میں رضامندی سے کیا ہوا زنا بھی داخل ہے، اور زبردستی کیا ہوا زنا بھی۔ بلکہ یہ عقل عام (Common Sense) کی بات ہے کہ زنا بالجبر کا جرم رضامندی سے کئے ہوئے زنا سے زیادہ سُکھیں جرم ہے، لہذا اگر رضامندی کی صورت میں یہ حد عائد ہو رہی ہے تو جبکہ صورت میں اس کا اطلاق اور زیادہ قوت کے ساتھ ہو گا۔

اگرچہ اس آیت میں "زنہ کرنے والی عورت" کا بھی ذکر ہے، لیکن خود سورہ نورہ میں آگے چل کر ان خواتین کو سزا سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے جن کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو، چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَمَنْ يُكَرِّهُ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اور جوان خواتین پر زبردستی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبردستی کے بعد (ان خواتین کو) بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ جس عورت کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو، اسے سزا نہیں دی جاسکتی، البتہ جس نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، اس کے بارے میں زنا کی وہ حد جو سورہ نور کی آیت نمبر ۲ میں بیان کی گئی تھی، پوری طرح نافذ رہے گی۔

(۲) سو کوڑوں کی مذکورہ بالا سزا غیر شادی شدہ اشخاص کے لئے ہے، سنت متواترہ نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر جرم شادی شدہ ہو تو اسے سنگار کیا جائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگاری کی یہ حد جس طرح رضامندی سے کئے ہوئے زنا پر جاری فرمائی، اسی طرح زنا بالجبر کے مرتكب پر بھی جاری فرمائی۔

”چنانچہ حضرت واکل بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلی، راستے میں ایک شخص نے اس سے زبردستی زنا کا ارتکاب کیا، اس عورت نے شور چھایا تو وہ بھاگ گیا، بعد میں اس شخص نے اعتراف کر لیا کہ اُسی نے عورت کے ساتھ زنا بالجگر کیا تھا، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد جاری فرمائی، اور عورت پر حد جاری نہیں کی“

امام ترمذی نے یہ حدیث اپنی جامع میں دو سندوں سے روایت کی ہے، اور دوسری سنڈ کو قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ (جامع ترمذی، کتاب الحدود باب ۲۲، حدیث ۱۳۵۲، ۱۳۵۳)

(۳) ”مجمع بخاری میں روایت ہے کہ ایک غلام نے ایک باندی کے ساتھ زنا بالجگر کا ارتکاب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرد پر حد جاری فرمائی، اور عورت کو سزا نہیں دی، کیونکہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی“
 (مجمع بخاری کتاب ۱۱، باب نمبر ۹)

لہذا قرآن کریم، سنت نبویہ علی صاحبہ السلام اور خلفاء راشدین کے فیصلوں سے یہ بات کسی شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ زنا کی حد جس طرح رضامندی کی صورت میں لازم ہے، اسی طرح زنا بالجگر کی صورت میں بھی لازم ہے، اور یہ کہنہ کوئی جواز نہیں کہ قرآن و سنت نے زنا کی جو حد (شریعی سزا) مقرر کی ہے، وہ صرف رضامندی کی صورت میں لا گو ہوتی ہے، جبکہ صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ پھر کس وجہ سے زنا بالجگر کی شرعی سزا کو ختم کرنے پر اتنا اصرار

کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل ایک انہائی غیر منصفانہ پروپیگنڈا ہے، جو حدود آرڈیننس کے نفاذ کے وقت سے بعض حلتے کرتے چلے آ رہے ہیں، پروپیگنڈا یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کے تحت اگر کوئی مظلوم عورت کسی مرد کے خلاف زنا بالجبر کا مقدمہ درج کرائے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ زنا بالجبر پر چار گواہ پیش کرے، اور جب وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکتی تو اتنا اسی کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، یہ وہ بات ہے جو عرصہ دراز سے بے شکن دہرائی جا رہی ہے، اور اس شدت کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے کہ ابھی خاصے پڑھے لکھے لوگ اسے بچ سکھنے لگے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جسے صدر مملکت نے بھی اپنی شری ثقیری میں اس بل کی واحد وجہ جواز کے طور پر پیش کی ہے۔

جب کوئی بات پروپیگنڈے کے زور پر گلی گلی اتنی مشہوری کر دی جائے کہ وہ بچ بچ کی زبان پر ہو تو اس کے خلاف کوئی بات کہنے والا عام نظریوں میں دیوانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جو حضرات انصاف کے ساتھ مسائل کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، میں انہیں دلسوzi کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ براہ کرم پروپیگنڈے سے ہٹ کر میری آئندہ معروضات پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں۔

واقعہ یہ ہے کہ میں خود پہلے وفاقی شریعت عدالت کے بچ کی حیثیت سے اور پھر سترہ سال تک پریم کورٹ کی شریعت اپلکٹ بنگ کے رکن کی حیثیت سے حدود آرڈیننس کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی برآہ راست سماعت کرتا رہا ہوں۔ اتنے طویل مر سے میں میرے علم میں کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں زنا بالجبر کی کسی مظلوم کو اس بنا پر سزا دی گئی ہو کہ وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکی، اور

حدود آرڈیننس کے تحت ایسا ہونا ممکن بھی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کے تحت چار گواہوں یا ملزم کے اقرار کی شرط صرف زنا بالجبر موجب حد کے لئے تھی، لیکن اسی کے ساتھ دفعہ ۱۰ (۳) زنا بالجبر موجب تعزیر کے لئے رکمی گئی تھی جس میں چار گواہوں کی شرط نہیں تھی، بلکہ اس میں جرم کا ثبوت کسی ایک گواہ، بھی معاشرے اور کیمیادی تجزیہ کا رپورٹ سے بھی ہو جاتا تھا، چنانچہ زنا بالجبر کے پیشتر جرم اسی دفعہ کے تحت ہمیشہ سزا ایاب ہوتے رہے ہیں۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مظلومہ چار گواہ نہیں لاسکی، اگر اسے کبھی سزادی گئی ہو تو حدود آرڈیننس کی کون سی دفعہ کے تحت رہی گئی ہوگی؟ اگر یہ کہا جائے کہ اسے قذف (یعنی زنا کی جھوٹی تمہت لگانے) پر سزادی گئی تو قذف آرڈیننس کی دفعہ ۳۰ راستہ نمبر ۲ میں صاف صاف یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جو شخص قانونی احتصار پیش کے پاس زنا کی فکایت لے کر جائے اسے صرف اس بنا پر قذف میں سزا نہیں دی جاسکتی کہ وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکا رکسکی۔ کوئی عدالت ہوش و حواس میں رجھے ہوئے ایسی عورت کو سزادے ہی نہیں سکتی، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اُسی عورت کو رضامندی سے زنا کرنے کی سزادی جائے، لیکن اگر کسی عدالت نے ایسا کیا ہو تو اس کی یہ وجہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خاتون چار گواہ نہیں لاسکی، بلکہ واحد ممکن وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عدالت شہادتوں کا جائزہ لیجع کے بعد اس نتیجے میں پر پیشی کر عورت کا جربرا دعویٰ جھوٹا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد پر یہ الزام عائد کرے کہ اس نے زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور بعد میں شہادتوں سے ثابت ہو کہ اس کا جربرا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ رضامندی کے ساتھ اس عمل میں

شریک ہوئی تو اسے سزا یا بکار نہیں کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عورت کو یقینی طور پر جھوٹا قرار دینے کے لئے کافی ثبوت عموماً موجود نہیں ہوتا، اسی لئے ایسی مثالیں بھی اگاہ دکا ہیں، ورنہ ۹۹٪ فیصد مقدمات میں یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ عدالت کو اس بات پرطمینان نہیں ہوتا کہ مرد کی طرف سے جبر ہوا ہے، لیکن چونکہ عورت کی رضامندی کا کافی ثبوت بھی موجود نہیں ہوتا، اس لئے ایسی صورت میں بھی عورت کو شک کا فائدہ دے کر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

حدود آرڈیننس کے تحت پچھلے ۲۷ سال میں جو مقدمات ہوئے ہیں، ان کا جائزہ لے کر اس بات کی تصدیق آسانی سے کی جاسکتی ہے، میرے علاوہ جن جن صاحبان نے یہ مقدمات سنے ہیں اُس سب کا تاثر بھی میں نے ہمیشہ بھی پایا کہ اس قسم کے مقدمات میں جہاں عورت کا کردار مغلوب ہو، تب بھی عورتوں کو سزا نہیں ہوتی، صرف مرد کو سزا ہوتی ہے۔

چونکہ حدود آرڈیننس کے نفاذ کے وقت ہی سے یہ شورپکثرت مبتار ہا ہے کہ اس کے ذریعہ بے گناہ عورتوں کو سزا ہو رہی ہے، اس لئے ایک امریکی اسکار چارلس کینیڈی یہ شورپکثرت کران مقدمات کا سروے کرنے کے لئے پاکستان آیا، اس نے حدود آرڈیننس کے مقدمات کا جائزہ لے کر اعداد و شمار جمع کئے، اور انہی تحقیقتوں کے نتائج ایک رپورٹ میں چھیس کئے جو شائع ہو چکی ہے، اس رپورٹ کے نتائج بھی ذکورہ بالا حقائق کے میں مطابق ہیں، وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے :

"Women fearing conviction under section 10(2) frequently bring charges of rape under 10(3) against their alleged partners. The

FSC finding no circumstantial evidence to support the latter charge, convict the male accused under section 10(2).....the women is exonerated of any wrong doing due to reasonable doubt' rule." (Charles Cannedy: the status of women in Pakistan in Islamization of laws P.74)

"جن عورتوں کو دفعہ ۱۰(۲) کے تحت (زن بال رضا کے جرم میں) سزا یاب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ اپنے مبینہ شریک جرم کے خلاف دفعہ ۱۰(۳) کے تحت (زن بال جبر) کا الزام لے کر آ جاتی ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو چونکہ کوئی ایسی قرائی شہادت نہیں ملتی جو زن بال جبر کے الزام کو ثابت کر سکے، اس لئے وہ مرد طوم کو دفعہ ۱۰(۲) کے تحت (زن بال رضا) کی سزا دیتا ہے..... اور عورت "شک کے فائدے" والے قاعدے کی بنا پر اپنی ہر غلط کاری کی سزا سے چھوٹ جاتی ہے"

یہ ایک غیر جانبدار غیر مسلم اسکالر کا مشاہدہ ہے جسے حدود آرڈیننس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور ان عورتوں سے متعلق ہے جنہوں نے بظاہر حالات رضامندی سے غلط کاری کا ارتکاب کیا، اور گھر والوں کے دباو میں آ کر اپنے آشنا کے خلاف زن بال جبر کا مقدمہ درج کرایا، ان سے چار گواہوں کا نہیں قرائی شہادت (Circumstantial evidence) کا مطالبہ کیا گیا، اور وہ قرائی شہادت بھی ایسی پیش نہ کر سکیں جس سے جبر کا غصہ ثابت ہو سکے۔ اسکے باوجود مراصرف مرد کو ہوئی، اور شک کے فائدے کی وجہ سے اس صورت میں بھی ان خاتون کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔

لہذا واقعہ یہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی رو سے زنا بالجبر کا شکار ہونے والی عورت کو چار گواہ پیش نہ کرنے کی بناء پر الناز ایاب کیا جاسکے۔

البتہ یہ ممکن ہے اور شاید چند اوقات میں ایسا ہوا بھی ہو کہ مقدمے کے عدالت تک پہنچنے سے پہلے تفییش کے مرحلے میں پولیس نے قانون کے خلاف کسی عورت کے ساتھ یہ زیادتی کی ہو کہ وہ زنا بالجبر کی شکایت لے کر آئی، لیکن انہوں نے اسے زنا بالرضامیں گرفتار کر لیا۔ لیکن اس زیادتی کا حدود آرڈیننس کی کسی خاصی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی زیادتیاں ہمارے ملک کی پولیس ہر قانون کی تنقید میں کرتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے قانون کو نہیں بدلا جاتا، ہیر وئں رکھنا قانوناً جرم ہے، مگر پولیس کتنے بے گناہوں کے سر ہیر وئں ڈال کر ان کو نٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہیر وئں کی ممانعت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے۔

زنا بالجبر کی مظلوم عورتوں کے ساتھ اگر پولیس نے بعض صورتوں میں ایسی زیادتی کی بھی ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلوں کے ذریعہ اس کا راستہ بند کیا ہے، اور اگر بالفرض اب بھی ایسا کوئی خطہ موجود ہو تو ایسا قانون بنایا جاسکتا ہے جس کی رو سے یہ طے کر دیا جائے کہ زنا بالجبر کی مستغاثۃ کو مقدمہ کا آخری فیصلہ ہونے تک حدود آرڈیننس کی کسی بھی دفعہ کے تحت گرفتار نہیں کیا جاسکتا، اور جو شخص ایسی مظلومہ کو گرفتار کرے، اسے قرار واقعی سزا دینے کا قانون بھی بنایا جاسکتا ہے، لیکن اس کی بناء پر ”زنا بالجبر“ کی حد شرعی کو ختم کر دینے کوئی جواز نہیں ہے۔

لہذا زیر نظر میں زنا بالجبر کی حد شرعی کو جس طرح بالکلیہ ختم کر دیا گیا ہے،

وہ قرآن و سنت کے دفعہ طور پر خلاف ہے، اور اس کا خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

فناشی

زیر نظر مل کی دوسری اہم بات ان دفعات سے متعلق ہے جو فناشی کے عنوان سے بل میں شامل کی گئی ہیں، حدود آرڈیننس میں احکام یہ تھے کہ اگر زنا پر شرعی اصول کے مطابق چار گواہ موجود ہوں تو آرڈیننس کی دفعہ ۵ کے تحت مجرم پر زنا کی حد (شرعی) جاری ہوگی، اور اگر چار گواہ نہ ہوں، مگر فی الجملہ جرم ثابت ہوتا سے تجزیری سزا دی جائے گی۔ اب اس بل میں حدود آرڈیننس کی دفعہ ۵ کے تحت زنا بالرضاء کی حد شرعی تو باقی رکھی گئی ہے، جس کے لئے چار گواہ شرط ہیں، لیکن مل کی دفعہ ۸ کے ذریعے اسے ناقابل دست اندازی پولیس قرار دے کر یہ ضروری قرار دیدیا گیا ہے کہ کوئی شخص چار گواہوں کو ساتھ لے کر عدالت میں ہٹکایت درج کرائے۔ پولیس میں اس کی ایف آئی آر (FIR) درج نہیں کی جاسکتی، اور اس طرح قابل حد ثابت کرنے کے طریق کارکومز یہ دشوار بنادیا گیا ہے، اسی طرح چار گواہوں کی غیر موجودگی میں زنا کی جو تجزیری سزا حدود آرڈیننس میں تھی، اس میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی گئی ہیں :

- (۱) حدود آرڈیننس میں اس جرم کو ”زناموجب تجزیری“ کہا گیا تھا، اب زیر نظر مل میں اس کا نام بدل کر ”فناشی“ (Lewdness) کر دیا گیا ہے، یہ تبدیلی بالکل درست اور قبل خیر مقدم ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت کی رو سے چار گواہوں کی

غیر موجودگی میں کسی کے جرم کو زنا قرار دینا مشکل تھا، البتہ اسے ”زنہ“ سے کم تر کوئی نام دینا چاہیے تھا، حدود آرڈیننس میں یہ کمزوری پائی جاتی تھی جسے دور کرنے کی سفارش علماء کمیٹی نے بھی کی تھی۔

(۲) حدود آرڈیننس میں اس جرم کی سزا اس سال تک ہو سکتی تھی، بل میں اسے گھٹا کر پانچ سال تک کر دیا گیا ہے، بہر حال! چونکہ یہ تعزیر ہے، اس لئے اس تبدیلی کو بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہا جاسکتا۔

(۳) حدود آرڈیننس کے تحت ”زنہ“ ایک قابل دست اندازی پولیس (Cognizable) جرم ہا، زیر نظر بل میں اسے ناقابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اس جرم کی ایف آئی آر تھانے میں درج نہیں کرائی جاسکتی، بلکہ اس کی شکایت (Complaint) عدالت میں کرنی ہوگی، اور شکایت کے وقت دو یعنی گواہ ساتھ لے جانے ہوں گے، جن کا بیان طبقی عدالت فوراً قلمبند کرے گی، اس کے بعد اگر عدالت کو یہ اندازہ ہو کہ مزید کابر روائی کے لئے کافی وجہ موجود ہے تو وہ ملزم کو سکن جاری کرے گی، اور آئندہ کابر روائی میں ملزم کی حاضری یقینی بنانے کے لئے ذاتی چکلہ کے سوا کوئی ضمانت طلب نہیں کرے گی، اور اگر اندازہ ہو کہ کابر روائی کی کوئی بیاناد موجود نہیں ہے تو مقدمہ اسی وقت خارج کر دے گی۔

اس طرح فاشی کے جرم کو ثابت کرنا اتنا دشوار ہنا دیا گیا ہے کہ اس کے تحت کسی کو سزا ہونا عملًا بہت مشکل ہے۔

اول تو اسلامی احکام کے تحت زنا اور فاشی کا جرم معاشرے اور اسٹیٹ کے خلاف جرم ہے، محسن کسی فرد کے خلاف نہیں، اس لئے اسے قابل دست اندازی

پولیس ہونا چاہیے، بلاشبہ اس جرم کو قابل دست اندازی پولیس دیتے وقت یہ پہلو ضرور مد نظر رہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں پولیس کا جو کردار رہا ہے، اس میں وہ بے گناہ جوڑوں کو جاویجا ہر اسال نہ کرے۔ اس بارے میں فینڈرل شریعت کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں، جن کے بعد یہ خطرہ بڑی حد تک کم ہو گیا تھا، اور ستائیں سال تک یہ جرم قابل دست اندازی پولیس رہا ہے، اور اس دوران اس جرم کی بنا پر لوگوں کو ہر اسال کرنے کے واقعات بہت ہی کم ہوئے ہیں، لیکن اس خطرے کا مزید سد باب کرنے کے لئے یہ کہا جاسکتا تھا کہ جرم کی تفتیش اسی پی کے درجے کا کوئی پولیس افسر کرے، اور عدالت کے حکم کے بغیر کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، ان اقدامات سے یہ رہا خطرہ ختم ہو سکتا تھا۔

دوسرے شکایت کرنے والے پر یہ ذمہ داری عائد کرنا کہ وہ فوراً حد کی صورت میں چار اور فاشی کی صورت میں دو عینی گواہ لے کر آئے، ہمارے فوجداری قانون کے نظام میں بالکل نرالی مثالی ہے، ہمارے پورے نظام شہادت میں حدود کے سوا کسی بھی مقدمے یا جرم کے ثبوت کے لئے گواہوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ کسی چشم دید گواہ کے بغیر صرف قرائی شہادت (Circumstantial evidance) پر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، چنانچہ زیرنظر جرم میں طبی معائنے اور کیمیاوی تجزیہ کی روپورثیں شہادت کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں، شرعاً تجزیہ کسی ایک قابل اعتقاد گواہ پر بھی جاری کی جاسکتی ہے، اور قرائی شہادت پر بھی، لہذا تجزیہ کے معاملے میں میں شکایت درج کرتے وقت دو گواہوں کی شرط لگانا فاشی کے مجرموں کو غیر ضروری تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے۔

ای طرح ایسے ملزم کے لئے یہ لازم کر دینا کہ اس سے ذاتی چکلے کے سوا کوئی ضمانت طلب نہیں کی جاسکے گی، عدالت کے ہاتھ باندھنے کے مترادف ہے، مقدمے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور اسی لئے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۲۹۶ کے تحت عدالت کو پہلے ہی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حالات مقدمہ کے تحت اگر چاہے تو صرف ذاتی چکلے پر ملزم کو رہا کر دے، اور اگر چاہے تو اس سے دوسروں کی ضمانت بھی طلب کرے، بلکہ سے بلکہ جرم میں بھی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن ”فاشی“ جیسے جرم پر عدالت سے یہ اختیار سلب کر لینا کسی طرح مناسب نہیں ہے، رہی یہ بات کہ اگر مقدمے کی کافی وجہ موجود نہ ہو تو عدالت مقدمہ خارج کر دے گی، سو عدالت کو مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۳۰۳ کے تحت پہلے ہی یہ اختیار حاصل ہے، اس سے اس مل کا دوبارہ حصہ بنانے کا مقصد غیر واضح ہے۔

(۲) حدود آرڈیننس کے تحت اگر کسی شخص کے خلاف زنا موجب حد کا الزام ہو، اور مقدمے میں حد کی شرائط پوری نہ ہوں، لیکن فی الجملہ جرم ثابت ہو جائے تو اسے دفعہ ۱ (۳) کے تحت تعزیری سزا دی جاسکتی تھی، لیکن زیر نظر بل کی رو سے ضابطہ فوجداری میں دفعہ ۲۰۳ (۵) کا جواضافہ کیا گیا ہے، اس کی شق نمبر ۶ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جوز نا موجب حد کے الزام سے بری ہو گیا ہو، اس کے خلاف فاشی کو کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا جاسکتا۔

اب یہ بات ظاہر ہے کہ زنا موجب حد کے لئے جو خت ترین شرائط ہیں، وہ بعض اوقات محض فی وجود سے پوری نہیں ہوتیں، ایسی صورت میں جبکہ مضبوط شہادتوں سے فاشی کا جرم ثابت ہو تو اس پر نہ صرف یہ کہ زنا کا مقدمہ سننے والی

عدالت کوئی سزا جاری نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے خلاف فاشی کی کوئی نئی شکایت بھی درج نہیں کی جاسکتی، سوچنے کی بات ہے کہ ایسے شخص کے خلاف فاشی کا مقدمہ دائر کرنے پر کلی پابندی عائد کر دینا فاشی کو تحفظ دینے کے سوا اور کیا ہے؟ اسی طرح مجوزہ بل کی دفعہ (۱۲۱) میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر زنا بالجبر (موجب تعریر یعنی ریپ) کا الزام ہو تو اس کے مقدمے کو کسی بھی مرحلے پر فاشی کی شکایت میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے خلاف عورت نے زنا بالجبر کا الزام عائد کیا ہو، اور جبر کے ثبوت میں کوئی شک رہ جائے تو ملزم بری ہو جائے گا، اور اس کے خلاف فاشی کی دفعہ کے تحت بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاسکے گی۔

جس زمانے میں زنا بالرضاء کوئی جرم نہیں تھا، اس زمانے میں زنا بالجبر کے مطہر مان اپنے دفاع میں موقف اختیار کرتے تھے کہ زنا بے شک ہوا ہے، لیکن عورت کی رضامندی سے ہوا ہے، چنانچہ اگر عورت کی رضامندی کا عدالت کو شبہ ہو جاتا تو وہ ملزم کو بری کر دیتی تھی۔ حدود آزاد نہیں میں زنا بالجبر کے ملزم کے لئے اپنے دفاع میں یہ کہنے کی منجائش نہیں رہی تھی، کیونکہ عورت کی رضامندی کے باوجود زنا جرم تھا، اور جو عدالت زنا بالجبر کے مقدمے کی ساعت کر رہی ہے، وہی اس کو زنا موجب تعریر کے تحت سزا دے سکتی تھی، لیکن اس نئی ترمیم کے بعد تعریر یا وہی صورت لوٹ آئی ہے کہ اگر ملزم دھڑکے یہ کہہ کہ میں نے عورت کی مرضی سے زنا کیا تھا، اور عورت کی عورت کی مرضی کا کوئی شبہ پیدا کر دے تو کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، وہ عدالت جو اس کا یہ اعتراف سن رہی ہے، وہ تو اس نے اس کے خلاف

کارروائی نہیں کر سکتی کہ مذکورہ بالا دفعہ نے اس کا یہ اختیار سلب کر لیا ہے کہ وہ زنا بالجبر کے مقدمے کو کسی وقت فاشی کی شکایت میں تبدیل کرے، اور اگر اس کے خلاف ازسرنو فاشی کا مقدمہ دائر کیا جائے تو اس امکان کے بارے میں دفعہ کے الفاظ بھل ہیں، لیکن اگر کوئی اور وجہ بھی موجود ہو تو دائرہ کر سکتے کی یہ وجہ بھی کافی ہے کہ اس کے لئے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دو عینی گواہوں کے ساتھ جا کر عدالت میں استشاہ (Complaint) دائر کرے، اور یہاں دو عینی گواہ موجو نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہے ایسا شخص جرم سے بالکلیہ بری ہو جائے گا، اور اس کے خلاف کسی بھی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔

سوال یہ ہے کہ جس فاشی کو جرم قرار دیا گیا ہے وہ واقعہ کوئی جرم ہے یا نہیں؟ اگر جرم ہے تو اس کو تحفظ دینے اور مجرم کا اس سزا سے بچاؤ کرنے کے لئے یہ دنیا سے نہ اسے قواعد کیوں وضع کئے جا رہے ہیں؟

حدود آرڈیننس میں کچھ مزید ترمیمات

زیرنظر بل کے ذریعہ حدود آرڈیننس میں کچھ ترمیمات بھی کی گئی ہیں، مثلاً:

- (۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب کسی شخص کے خلاف عدالتی کارروائی کے نتیجے میں حد کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی سزا کو معاف یا کم کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ حدود آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ شق ۵ میں کہا گیا تھا کہ ضابطہ فوجداری کے باب ۱۹ میں صوبائی حکومت کو سزا معطل کرنے، اس میں تخفیف کرنے یا تبدیل کرنے کا جواختیار دیا گیا ہے، وہ حد کی سزا پر اطلاق پذیر نہیں

ہو گا۔ زیرِ نظر بُل کے ذریعہ حدود آرڈیننس میں ایک اور اہم اور تکمیلی یہ کی گئی ہے کہ حدود آرڈیننس کی اس دفعہ ۲۰ شق ۵ کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عدالت کسی کو سزا دیدے تو حکومت کو ہر وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سزا میں تبدیلی یا تنفیف کر سکے۔

یہ ترمیم قرآن و سنت کے واضح ارشادات کے خلاف ہے، قرآن کریم کا

ارشاد ہے :

مَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَن يَنْكُونُ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِنَّ

جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ پھر بھی اس معاملہ میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔

(الاعزاب: ۳۶)

اور آخر پر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ مشہور و معروف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کے حق میں سفارش کرنے پر، جس پر حد کا فیصلہ ہو چکا تھا، اپنے محبوب صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر فرمائی، اور فرمایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ (صحیح بخاری، کتاب الحدود، باب: ۱۲، حدیث: ۲۷۸۸)

اس بنا پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حد کو معاف کرنے اور اس میں تنفیف کا کسی بھی حکومت کو اختیار نہیں ہے۔

لہذا بُل کا یہ حصہ بھی صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

(۲) حدود آرڈیننس کی دفعہ ۳ میں کہا گیا تھا کہ اس آرڈیننس کے احکام دوسرے قوانین پر بالا رہیں گے، یعنی اگر کسی دوسرے قانون اور حدود آرڈیننس میں کہیں کوئی تضاد ہو تو حدود آرڈیننس کے احکام قابل پابند ہوں گے، زیر نظر بل میں اس دفعہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔

یہ وہ دفعہ ہے جس سے نہ صرف بہت سی قانونی پیچیدگیاں دور کرنا مقصود تھا، بلکہ ماضی میں بہت سی تم رسمی خواتین کی مظلومیت کا سد باب اسی دفعہ کے ذریعہ ہوا تھا۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عائلی قوانین کے تحت اگر کوئی سرداپی بیوی کو طلاق دیدے تو وہ طلاق اس وقت تک موثر نہیں ہوتی جب تک اس کا نوٹس یونین کو نسل کے چیزیں مونہ بھیجا جائے، اگر چہ شرعی اعتبار سے طلاق کے بعد عدت گزار کر عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن عائلی قوانین کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک یونین کو نسل کو طلاق کا نوٹس نہ جائے قانوناً وہ طلاق دینے والے شوہر کی بیوی ہے، اور اسے کہیں اور نکاح کی اجازت نہیں ہے، اب ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ شوہر نے طلاق کا نوٹس یونین کو نسل میں نہیں بھیجا، اور عورت نے اپنے آپ کو مطلقہ سمجھ کر عدت کے بعد دوسری شادی کر لی، اب اس ظالم شوہر نے عورت کے خلاف زنا کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ عائلی قوانین کی رو سے وہ ابھی تک اس کی بیوی تھی، جب اس قسم کے بعض مقدمات آئے تو پریم کورٹ کی شریعت نجی نے حدود آرڈیننس کی دوسرے امور کے علاوہ اس دفعہ ۳ کی بنیاد پر ان خواتین کو بارائی دلوائی، اور یہ کہا کہ آرڈیننس چونکہ شریعت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور شریعت میں

اس عورت کا دوسرا نکاح جائز ہے، اس لئے اس کے نکاح کے بارے میں عالیٰ قانون کا اطلاق نہیں ہو گا۔ کیونکہ یہ قانون دوسرے تمام قوانین پر بالاتر ہے۔

اب اس دفعہ کو ختم کرنے کے بعد، اور بالخصوص آرڈننس میں نکاح کی جو تعریف تھی، اسے بھی بل کے ذریعہ ختم کر دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر خواتین کے لئے دشواری پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔

علماء کمیٹی میں ہم نے یہ مسئلہ انھایا تھا، اور بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ اس کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ لکھی جائے گی :

"In the interpretation and application of this Ordinance the injunctions of Islam as laid down in the Holy Qur'an and Sunnah Shall have effect, notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force"

یعنی "اس آرڈننس کی تشریع اور طلاق میں اسلام کے وہ احکام جو قرآن کریم اور سنت نے متعین فرمائے ہیں بہر صورت مؤثر ہوں گے چاہے راجح الوقت کسی قانون میں کچھ بھی درج ہو"۔

لیکن اب جو بل تو می اس بھی سے منظور کرایا گیا ہے، اس میں سے یہ دفعہ بھی غائب ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے سائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(۳) قذف آرڈننس کے دفعہ ۱۲ میں قرآن کریم کے بیان کئے ہوئے لعan کا طریقہ درج ہے، یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو عورت کے مطالبے پر اسے لعan کی کارروائی میں قسمیں کھانی ہوں

گی۔ اور میاں بیوی کی قسموں کے بعد ان کے درمیان نکاح فتح کر دیا جائے گا۔ قذف آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ اگر شوہر لعan کی کارروائی سے انکار کرے تو اس وقت تک حرست میں رکھا جائے گا، جب تک وہ لعan پر آمادہ نہ ہو، زیر نظر میں میں یہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر لعan پر آمادہ نہ ہو تو عورت بے بی سے لگی رہے گی۔ نہ اپنی بے گناہی لعan کے ذریعہ ثابت کر سکے گی، اور نہ نکاح فتح کر سکے گی۔

نیز قذف آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ اگر لعan کی کارروائی کے دوران عورت زنا کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی سزا جاری ہوگی۔ زیر نظر میں یہ حصہ بھی حذف کر دیا گیا ہے، حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد سزاۓ زنا کے جاری نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں، جبکہ لعan کی کارروائی عورت کے مطالبے پر ہی شروع ہوتی ہے، اور اسے اعتراف کرنے پر کوئی جبو نہیں کرتا۔

الہاذاب کا یہ حصہ بھی قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہے۔

(۲) زنا آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدالت کو شہادتوں سے یہ بات ثابت ہو کہ ملزم نے کسی ایسے عمل کا ارتکاب کیا ہے جو حدود آرڈیننس کے علاوہ کسی اور قانون کے تحت جرم ہے، تو اگر وہ جرم عدالت کے دائرة اختیار میں ہو تو وہ طریم کو اس جرم کی سزا دے سکتی ہے۔

یہ دفعہ عدالت کی کارروائیوں میں چیزیگی ختم کرنے کے لئے تھی، لیکن زیر نظر میں عدالت کے اس اختیار کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔

زیر نظر میں صورتحال یہ ہے کہ زنا سے ملتے جلتے تمام تحریری جرائم کو

حدود آرڈننس سے بکال کر تعریفات پاکستان میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور حدود آرڈننس میں صرف زنا بالرضام موجب حد کا جرم باقی رہ گیا ہے۔ لہذا اس ترمیم کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اگر کسی مرد پر زنا موجب حد کا الزام ہو، لیکن شہادتوں کے نتیجہ میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ مرد نے عورت پر زبردستی کی تھی، یا زنا ثابت نہ ہو، لیکن عورت کو اخواء کرتا ثابت ہو جائے تو عدالت ملزم کون ریپ کی سزا دے سکے گی، نہ عورت کو اخواء کی، اور عدالت یہ جانتے ہو جائے اسے چھوڑ دے گی کہ اس نے عورت کو اخواء کیا تھا، اور اس پر زبردستی کی تھی، اس کے بعد یا تو ملزم بالکل چھوٹ جائے گا، یا اس کے لئے ازسرنو اخواء کی ناش کرنی ہو گی، اور عدالت کا درروائی کا نیا چکر نے سرے سے شروع ہو گا۔

قانون سازی برا نا زک عمل ہے، اس کے لئے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ اور یکسوئی اور غیر جانب داری سے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پروپیگنڈے کی فضائیں صرف نعروں سے متاثر اور مرجووب ہو کر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ اس قسم کی صورتحال کی ٹکل میں ظاہر ہوتا ہے، پھر عدالتیں نے قانون کی تعبیر و تشریع کے لئے عرصہ دراز تک قانونی موشکافیوں میں الجھی رہتی ہیں، مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اور مظلوموں کی دادرسی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ چند جزوی خامیوں کو چھوڑ کر جنکا مفصل ذکر پیچھے آگیا ہے،

زیرنظر مل کی اہم خرابیاں یہ ہے :

- (۱) زیرنظر مل میں "زنابالجبر" کی حد کو جس طرح بالکلیہ ختم کر دیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت کے احکام کے بالکل خلاف ہے۔ خواتین کے ساتھ پولیس کی زیادتی کا اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کا سد باب اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ زنابالجبر کی مستغیثہ کو مقدمے کی کارروائی عدالت میں پوری ہونے تک حدود آرڈیننس کی کسی بھی دفعہ کے تحت گرفتار کرنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیدیا جائے۔
- (۲) جب ایک مرتبہ زنا کی حد کا فیصلہ ہو جائے تو صوبائی حکومت کو سزا میں کسی قسم کی معافی یا تخفیف کا اختیار دینا قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، لہذا زیرنظر مل میں زنا آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ شق ۵ کو حذف کر کے حکومت کو سزا میں تخفیف وغیرہ کا جواختیار دیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔
- (۳) "زنابالرضاموجب حد" اور "فاشی" کو ناقابل دست اندازی پولیس قرار دے کر ان جرائم کو جو مختلف تحفظات دیے گئے ہیں، وہ ان جرائم کو مبدأ ناقابل سزا ہنادینے کے مترادف ہیں۔
- (۴) عدالتوں پر یہ پابندی عائد کرنا کہ شہادتوں کے مطابق مختلف جرائم سامنے آنے پر وہ دوسرے جرائم میں سزا نہیں دے سکتیں، مجرموں کی حوصلہ افزائی ہے، یا اس کے نتیجے میں مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوں گے، اور عدالتی چیਜیں گیاں بھی پیدا ہوں گی۔

- (۵) "فتوف" آرڈیننس میں ترمیم کر کے مرد کو یہ چھوٹ دینا کہ وہ عورت کے مطالبے کے باوجود لعان کی کارروائی میں شرکت سے انکار کر کے عورت

کو معلق چھوڑ دے، قرآن کریم کے حکم کے منافی ہے۔

(۲) ”قذف آرڈیننس“ میں یہ ترمیم بھی قرآن و سنت کے منافی ہے کہ عورت کے رضا کار ارادہ اقرار جرم کے باوجود دادے سزا نہیں دی جاسکے گی۔

اگر کان پار لیفت اور ارباب اقتدار سے ہماری درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ ان گذارشات پر خندے دل سے غور کر کے بل کی اصلاح کریں، اور قوم کو اس تجھے سے نجات دلائیں جس میں وہ بتلا ہو گئی ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

اجتماعی اجتہاد

اور اس کی ضرورت

(۸)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ و تلخیص

جناب ابوسفیان سعید صاحب

میمن اسلامک پبلیشورز

(۸) اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

رباطہ عالم اسلامی نے "فتوى" کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس کمکرمه، سعودی عرب میں ہمارت ۲۰ محرم تا ۳۰ محرم ۱۴۲۳ھ منعقد کرائی تھی، اس کانفرنس کے لئے حضرت والامد ظلہم نے "الفتوی الجماعتی" کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر فرمایا، اردو میں اس مقالہ کی ترجمیں جناب ابوسفیان سعید صاحب کی ہے، یہ ترجمیں پہلے سعودی عرب کے اردو اخبار "روشنی" میں شائع ہوئی، بعد میں یہ ترجمیں ماہنامہ البلاغ میں شائع ہوئی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجتہاد اور اسکلی ضرورت

گذشتہ سال ۱۴۲۰ھ تا ۱۴۲۰ھ (۱۷ جنوری ۱۹۰۱ء) کو رابطہ علم اسلامی نے فتویٰ کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس مکہ کرمہ میں منعقد کی تھی، جس میں نائب رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا سفی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم نے "الفتویٰ الجماعی" کے عنوان سے فتح عربی میں ایک ویع مقالہ پیش فرمایا تھا، اردو میں جسکی تلخیص ابو سفیان سعید نے کی ہے، سعودی عرب کے اردو اخبار "روشنی" میں اسکی تلخیص شائع کی گئی، افادہ عام کیلئے یہ تلخیص مقالات کا حصہ بن کر شائع کی جا رہی ہے... (بلکر یہ بالآخر میں)

کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے جو کوششیں کی جاتی ہیں لفت میں انہیں اجتہاد کہتے ہیں، اسی طرح کسی شرعی حکم کو جانتے کے لئے جو کوششیں کی جاتی ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں انہیں بھی اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، علماء اصول فقہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ "فقیہ کسی مسئلہ کے شرعی حکم کے لگان تک پہنچنے کے لئے اپنی تمام تر ملاحتیں صرف کر دے" (کشف الاسرار ۱۱۳۳:۳ والسلویح للفتازانی ۶۲۱:۲) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ "شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنے میں مجتہدین جو عنت اور جانشناہی کرتے ہیں اسے اجتہاد کہتے ہیں" (الستصنی للغزالی: ۱)

پہلی تعریف میں علم کے بجائے لفظ ظن (گمان) استعمال کیا گیا ہے، اس لئے کہ اجتہاد سے علم قطعی حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس سے علم ظنی کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔

درحقیقت اجتہاد، شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے، محدثین کرام نے حضرت معاذؓ بن جبل کے اصحاب سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذؓ بن جبل کو ملک یمن روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ”اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آجائے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟“ انہوں نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ”اگر اس کے متعلق کوئی حکم کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟“ تو انہوں نے جواب دیا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ”اگر تمہیں یہاں بھی کوئی صریح حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟“ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اجتہاد کروں گا، اور اس میں کوئی دیقانہ فروغ نہیں کروں گا، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا ”ساری تعریفیں اس رب کائنات کیلئے ہیں جس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جسے اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پسند کرتا ہے“ (ترمذی، نسائی، درویش، ابو داؤد) اگرچہ بعض محدثین نے حضرت حارث بن عمرو اور دیگر راویوں یعنی اصحاب حضرت معاذؓ بن جبل کے مجھوں ہونے کے باعث اس حدیث کی سند کو مغلوب کہا ہے

لیکن اسکے باوجود ہر زمانے اور شہر کے علماء نے اسے شرف قبولیت سے نوازا ہے۔
علامہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں :

اس حدیث میں اگرچہ اصحاب معاویہؓ کے اساما کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن اس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لئے کہ یہ حدیث شہرت کے اعلیٰ مقام پر قائم ہے، نیز حضرت حارث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب معاویہؓ کی ایک جماعت سے یہ حدیث روایت کی ہے نہ کہ ان میں سے کسی ایک شاگرد سے۔ کسی حدیث کو جماعت سے روایت کرنا شہرت کے اعتبار سے زیادہ بلیغ ہے، اس سے کہ ان میں سے کسی ایک سے روایت کی جائے اور اس کے نام کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ حضرت معاویہؓ بن جبل کے اصحاب علم و فضل، صدق و صفا، تقویٰ و پرہیز گاری اور دیانتداری و امانتداری میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، جو کسی سے ذہکی چھپی بات نہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی کذب، دروغ گوئی اور اس قسم کی کسی ناشائستہ حرکت کا الزام نہیں لگایا گیا، بلکہ وہ سب کے سب امت کے بہترین اور چنیدہ افراد تھے، اہل علم نے ان پر اعتماد کیا ہے، ان سے احادیث روایت کی ہیں، اس حدیث کے پرچم کو بلند کرنے والے شعبہ نے بھی ان سے روایت کی ہے، بعض ائمہ حدیث کا کہنا ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں شعبہ کو دیکھو تو اپنے ہاتھ کو اس سے باندھ لو، ابو بکر الخلیف کا کہنا ہے کہ "حضرت عبادہ بن نُعْمَانَ نے یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عثیم سے اور انہوں نے حضرت معاویہؓ بن جبل سے روایت کی ہے اور یہ سند متصل ہے اس کے تمام روایت اللہ تھے ہیں، تمام محمد شین نے یہ روایت نقل کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، ہم بھی اس حدیث کی صحت پر یقین رکھتے ہیں۔ (اعلام المؤمنین)

اس حدیث کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو شیخین یعنی حضرت امام بخاریؓ اور حضرت امام مسلمؓ نے اپنی صحابہؓ میں حضرت معاویہ بن العاصؓ سے روایت کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنائے کہ "جب حاکم کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے وہ را ثواب ملے گا، اور اگر اجتہاد میں غلطی سرزد ہو جائے تو بھی اسے اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا" (بعماری) حضرت معاویہ بن جبل کی حدیث کے معانی و مفہوم کی تائید و حمایت متعدد صحابہ کرام کے مجموع سے بھی ہوتی ہے۔

امام دارالحکمؓ نے اپنی سfen میں حضرت شریعؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے ان (شرع) کے پاس ایک مکتوب ارسال فرمایا جس میں انہیں تاکید فرمائی گئی تھی کہ "اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کا حکم کتاب اللہ میں موجود ہو تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور اس سلسلہ میں لوگوں کی قطعاً پرواہ نہ کریں، اگر کسی مسئلہ کا حکم کتاب اللہ میں موجود نہ ہو اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جس حکم پر لوگوں کا اجماع ہوا سے اختیار کرو، اور اگر کسی مسئلہ کا حکم کتاب اللہ میں ہو، نہ احادیث مبارکہ میں، اور نہ ہی سلف صالحین میں تو دونوں امور میں سے جسے چاہو اختیار کرو، اگر تم نے اجتہاد کر کے عمل کرنا چاہا تو اس پر عمل کرو، اور اگر اجتہاد کر کے عمل سے گریز کرنا چاہا تو تمہارا عمل سے گریز کرنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے"

امام دارالحکم حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب تم سے کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا جائے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس کا حکم تلاش کرو، اگر اس میں نہ پاہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم میں اسے تلاش کرو، اگر وہاں بھی موجود نہ ہو تو اجماع پر عمل کرو، اگر اجماع بھی نہ ہو تو پھر اجتہاد کرو۔

انہوں نے حضرت عبد اللہ بن زید سے روایت کی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس سے کسی مسئلے کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے، وہاں اس کا حکم موجود ہوتا تو سائل کو اس سے آگاہ کرتے، اگر قرآن پاک میں حکم موجود نہ ہوتا تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے، اگر وہاں بھی اس کا حکم نہ پاتے تو صحابہ کرام کے معمولات کی طرف التفات فرماتے، اگر یہاں بھی مسئلے کا حکم پانے میں ناکامی ہوتی تو اپنی رائے کا استعمال فرماتے۔ (بعاری : ۷۳۵۲)

علامہ نبیقیؒ نے حضرت مسلم بن مخلدؓ سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس گئے، اور فرمایا اے میرے چچا کے صاحبزادے! اگر ہمیں فیصلے پر مجبور کیا جائے تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت زیدؓ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اگر کتاب اللہ میں اس کا حکم موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کریں، اگر وہاں بھی نہ ملے تو اہل رائے کو جمع کر کے اجتہاد کریں، اجتہاد کے بعد فیصلہ کرنے میں کوئی حرخ نہیں، اسی طرح امام نبیقیؒ نے حضرت ابوالاودی سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید بن ابو بردہ ہمارے پاس ایک مکتب لے کر آئے اور کہا کہ یہ وہ مکتب ہے جسے حضرت عمرؓ نے حضرت ابوالمویؑ کے پاس ارسال کیا تھا، جس میں یہ نذکر تھا کہ اگر کسی مسئلہ کا حکم قرآن و سنت میں نہ پاڑتا اپنے فہم و فراست سے اس کا حکم تلاش

کرو، امثال و تشابهات کا خیال رکھ کر مسئلے میں غور کرو اور جو اللہ تعالیٰ نے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوا سے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ (سن حیری للیہمی)

حدیث معاذ بن جبل میں جو پکھہ بیان کیا گیا ہے اس پر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا جس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے، اور علامہ ابن قیم الجوزیؒ کے قول کی توثیق ہوتی ہے کہ تمام سلف صالحین نے حدیث معاذ ”عمل کیا ہے، اس حدیث میں انفرادی اجتہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں بہت سی ایسی نصوص موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مجتہد کے لئے مناسب ہے کہ وہ زیر غور مسئلہ میں اصحاب الرائے سے مشاورت کرے اور یہی اجتماعی اجتہاد سے مقصود و مطلوب ہے۔

اس میں اصل بات وہ ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس کے متعلق شریعت میں کوئی حکم موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں آپ ﷺ کی حکم فرماتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”فَقَهَاءُ اُولُو الْعِيْنِ لَوْكُوْنَ سَعْيَهُ كَرُو، اور کسی کی خاص رائے پر عمل مت کرو“ (طبرانی فی الاوسط) خطیب نے بھی یہ حدیث اپنی سند سے روایت کی ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت مالک بن انسؓ نے حضرت یحییٰ بن سعیدؓ سے، انہوں حضرت سعید بن الحسینؓ سے، اور انہوں نے حضرت علیؓ بن ابی طالب سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ، آپ ﷺ کے بعد ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کے متعلق قرآن کریم میں کوئی حکم موجود نہ ہو، اور نہ ہی اس کے متعلق آپ ﷺ سے کچھ سننا ہو تو میں کیا کروں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مقتوی اور

پڑھیز گار لوگوں کو جمع کرو، اور ان سے مشورہ کرو، اور کسی ایک رائے پر فیصلہ مت کرو۔ (الفقیہ والمتفقہ للخطیب ۲:۷۳، ۲۷۷:۲)

داری نے یہ حدیث حضرت ابو سلمہ سے تخریج کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسے مسئلہوں میں فقہائے امت غور و فکر کریں۔ (سنن دارالمری)

خلافے راشدین کا معمول تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہوتا تو وہ اہل علم اور اہل فتوی سے مشاورت کرتے اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ امام یہعنی "نے اپنی سنن میں حضرت جعفر بن بر قان سے، انہوں نے حضرت میمون بن مہران سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع فرماتے، اگر وہاں کوئی حکم موجود ہوتا تو آپ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے، اگر کتاب اللہ میں اس کا حل موجود ہوتا تو سنت رسول اللہ ﷺ میں اس کا حل تلاش کرتے، اگر وہاں موجود ہوتا تو اس پر عمل کرتے، ورنہ صحابہ کرام سے رابطہ کرتے، اور فرماتے کہ میرے سامنے فلاں مسئلہ آیا ہے، میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں اس کا حکم تلاش کیا، لیکن ناکامی ہوئی، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ میں کیا فیصلہ فرمایا تھا، تو بعض اوقات صحابہ کرام کی ایک جماعت کھڑی ہوتی، اور کہتی ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلہ کے بارے میں یہ حکم

ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کو اختیار کرتے، اور ان کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے۔

حضرت جعفرؑ نے فرمایا کہ حضرت میمونؓ کے علاوہ وسرے صحابی نے بھی مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے سزاوار ہیں جس نے ہمارے درمیان ایسے افراد مخصوص فرمائے، جنہوں محبوب آقا عالمؑ کی احادیث کو محفوظ کر لیا ہے، اگر اس مسئلہ کے بارے میں کسی صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور ان سے مشاورت کرتے، جس حکم پر وہ لوگ متفق ہو جاتے اس کے مطابق فیصلہ صادر فرمادیتے۔

حضرت جعفرؑ نے فرمایا کہ حضرت میمونؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ بن خطاب کا بھی یہی معمول تھا، اگر کسی مسئلہ کا حکم وہ قرآن و سنت میں نہ پاتے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے فیصلوں کی طرف رجوع فرماتے، اگر وہاں حکم مل جاتا تو آپؓ اس پر عمل کرتے، ورنہ صحابہ کرام سے شورہ کرتے، اور تشقیق علیہ فیصلہ پر عمل کرتے۔ (سنن کبیری البیهقی ۱۱۴: ۱۰)

روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے متعدد مسائل کے احکام کے استنباط کے لئے فقہاء صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور ان کے اجماع کے بعد احکام نافذ کئے، مثال کے طور پر انہوں نے عراق کی اراضی کی تقسیم اور ان پر خراج وصول کرنے کے معاملات طے کرنے کے لئے شوریٰ کا انعقاد کیا، جس میں فقہاء انصار، مہاجر صحابہ کرام کو شامل کیا گیا تھا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا،

تمام حضرات اس بات پر تتفق ہو گئے تھے کہ عراق کی اراضی پر خراج وصول کیا جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ ”کتاب الخراج“ میں بیان کیا ہے۔

اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نے شرب خرکی حد متعین کرنے کے لئے بھی صحابہ کرام کو جمع فرمایا تھا، امام طحاویؒ نے حضرت ابراہیمؑ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد لوگوں میں نماز جنازہ کی تکمیرات کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا تھا۔ ایک شخص کہتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات تکمیرات کہتے ہوئے سناء، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تکمیرات کہتے تھے، جبکہ تیسرا شخص کا دعویٰ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں چار تکمیرات کہتے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ اختلاف حضرت ابو بکر صدیقؓ کے انتقال تک موجود تھا، جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ مقرر ہوئے اور لوگوں میں اختلاف دیکھا تو انہیں یہ بہت شاق گزرا، انہوں نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا کہ آپ لوگ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر کسی معاملے میں آپ کے درمیان اختلاف پایا جائے گا تو آپ کے بعد لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، جس معاملے میں آپ لوگ مجتمع ہوں گے تو آپ کے بعد بھی لوگ اس پر مجتمع ہوں گے، اور ان میں اختلاف نہیں ہوگا، اس لئے آپ لوگ نماز جنازہ کی تکمیرات پر تتفق ہو جائیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ میں مشورہ دیں، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، آپ لوگ مجھے مشورہ دیں تو ان لوگوں نے اس مسئلہ پر غور و خوض کیا، اس کے بعد تمام

صحابہ کرام چار تکبیرات پر متفق ہو گئے۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے تمام لوگوں کو نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہنے کا حکم فرمادیا۔ (شرح معانی الآثار للطحاوی)

امام تیہنیؒ نے حضرت ابو والی سے مختصر روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس مسئلہ پر صحابہ کرام میں اختلاف تھا، بعض صحابہ کرام نماز جنازہ میں سات تکبیریں، بعض چھ، بعض پانچ یا چار کے قائل تھے، حضرت عمر بن خطاب نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ان سے مشورہ طلب کیا، چنانچہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو چار تکبیرات پر جمع فرمادیا۔ (سنن کبریٰ للبیہقی)

اسی طرح صحابہ کرام جدید مسائل کے شرعی احکام جانے یا مختلف فیہ مسائل پر اختلاف کم کرنے کے لئے مشاورت کرتے تھے، اجتماعی اجتہاد سے یہی مقصود ہے۔

مذکورہ روایت دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں کسی جدید مسئلہ کا حکم تلاش کرنے کے لئے اجتماعی اجتہاد کا طریقہ اقتیار کیا جاتا تھا، تاہم بعض تابعین ایسے بھی تھے جو بعض مسائل میں انفرادی رائے رکھتے تھے، اور دوسروں کی آراء قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔

امام تیہنیؒ نے ابو حصین سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کسی مسئلے میں فتویٰ دیتا، اگر وہی مسئلہ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے پیش آتا تو آپ اس کا حکم تلاش کرنے کے لئے بدری صحابہ کرام کو ضرور جمع فرماتے۔

(المدخل الكبير للبیہقی، ص ۴۳۴)

اسی طرح عہد صحابہ کرام کے بعد ائمہ مجتہدین بھی باہم مشاورت کر کے کسی جدید مسئلے کے حکم کا تفیین کرتے تھے، بعض ائمہ مجتہدین نے جدید فقہی مسائل پر غور و

خوض کرنے کے لئے اکیڈمی قائم کی تھی، جس میں وہ جمع ہوتے اور فقہی مسائل پر مذاکرات کرتے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کے لئے شوری کا نظام قائم کیا تھا، الموقوف المکن فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک ہی شورائی نظام پر قائم کیا تھا، وہ اپنے اصحاب سے مذاکرات کے بعد ہی کسی مسئلہ کا حکم متعین کرتے، ان کے بیہاں ایک ایک مسئلہ پر کئی کئی روز بلکہ مہینوں تک بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رہتا۔ (منافب ابی حنیفہ للموقوف المکن)

سابقہ روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید مسائل کے شرعی احکام تلاش کرنے کے لئے ہمارے پاس اجتماعی اجتہاد، بہترین طریقہ ہے، عصر حاضر میں بہت سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن کے متعلق قرآن و سنت میں واضح احکام موجود نہیں، اسی طرح ان کے بارے میں فقہائے متقدمین بھی خاموش ہیں۔ بعض جدید مسائل ایسے ہیں جن کا تذکرہ بعض فقہائے متقدمین کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کے احکام کا از سرنو جائزہ لیا جائے، اس لئے کہ جن اسباب و علل کی بنیاد پر احکام مستبط کئے گئے تھے وہ اب باقی نہیں رہے۔ حضرت علیؓ بن ابی طالب کی روایت کردہ حدیث ہر زمانے اور ہر جگہ کے علماء کو دعوت دیتی ہے کہ جدید مسائل کے شرعی احکام کے لئے سرجوڑ کر بیٹھیں، مذاکرات کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل حل کریں، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”فقہاء اور نیک و متقی علمائے کرام سے مشورہ کرو اور خاص رائے اختیار مت کرو“

(صحیح الزوائد: ۴۲۸) عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد سے یہی مقصود ہے، لیکن اجتہاد کے طریقہ کار

کے بارے میں گفتگو کرنے سے قبل میں بعض لوگوں کے غلط افکار و خیالات سے متنبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مغربی تہذیب و ثقافت سے اس قدر متاثر اور اس کے اتنے زیادہ دلدادہ ہیں کہ وہ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ تمام شرعی احکام از سر نو مرتبط کئے جانے چاہئیں۔ ان کی خواہش ہے کہ تمام شرعی احکام میں اجتہاد کا عمل الٹ بے سے شروع کیا جائے، وہ لوگ قدیم فقہی سرمائے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ صدیوں سے تمام فقہاء کرام مسلم شرعی اصول و مبادی پر متفق ہیں، ان لوگوں کے دعوؤں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم آج ہی نازل ہوا ہے، اور فقہاء احادیث مبارکہ سے آج ہی واقف ہوئے ہیں، ان مغرب زدہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چودہ سو سال کے دوران کسی کو بھی قرآن و احادیث مبارکہ میں تذہیر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، یا فقہاء کرام اور تلمذ مجتہدین نے فہم قرآن اور احادیث مبارکہ میں غلطیاں کی ہیں، اس قسم کے باطل خیالات فقہائے امت اور ائمہ مجتہدین کی قرآن و سنت میں گراں قدر خدمات سے ناواقفیت، بحث و تحقیق میں ان کے اعلیٰ معیار سے علمی اور ان کے علم و فضل، تقوی و طہارت، صدق و صفا اور دیانتداری و امانتداری سے نابلد ہونے کے باعث پیدا ہو رہے ہیں، اس سے ان لوگوں کا مقصد پوری شریعت سے افکار کرنا، ہر چیز میں تشکیک پیدا کرنا اور جدید نسل کو گمراہ کرنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مطلق اجتہاد کی دعوت دینے والوں کی تعداد کم نہیں، لیکن آج تک ان میں سے ایک شخص بھی ایسا کھڑا نہیں ہوا، جو اس نو قرآن و حدیث سے شرعی احکام مرتبط کرنے کی کوشش کرتا

اور وہ طہارت سے فرائض تک کے تمام احکام ایک کتاب میں جمع کر دیتا۔ ہم اجتماعی اجتہاد کی دعوت اس لئے نہیں دے رہے کہ ہم مشرقی افکار و خیالات کے مطابق اسلامی احکام کو ڈھالیں، ایسی بات ہرگز نہیں، ہمیں اجتماع اجتہاد کی اس وقت اس لئے ضرورت ہے کہ اس وقت انسانی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آگئی ہیں، بہت سے جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور جدید تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، اس صورتحال کے پیش نظر ہمارے لئے ضروری ہے کہ فقہاء متقدمین اور ائمہ مجتہدین کے وضع کردہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں قرآن و سنت میں غور و خوض کر کے جدید مسائل کے احکام کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔

بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ فقہی مسائل میں اجتہاد کرنے کا حق پاریمنٹ کو سونپ دیا جائے، اس لئے کہ یہ ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، جہاں قوم کے منتخب نمائندے موجود ہوتے ہیں، جو مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی جدید فقہی مسئلہ کے حل میں یہ ادارہ ہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ رائے دینے والے لوگ فقہی اجتہاد کے مقابلہم و معافی اور اس کے تقاضوں سے بالکل ناہل ہیں، اس لئے وہ اس قسم کی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ شرعی امور میں اجتہاد کا دار و مدار عقل پر نہیں، بلکہ اس کی اساس قرآن و سنت پر ہے، فقہی اجتہاد کے لئے قرآنی علوم، احادیث مبارکہ، فقہ اور اصول فقة میں مہارت رکھنا نہایت ضروری ہے، یہ عظیم الشان کارنامہ وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو ان علوم میں دسترس رکھتے ہوں۔ یہ مبارک عمل وہ لوگ کس طرح انجام دے سکتے ہیں جو شرعی علوم کے اصول و مبادی سے بھی واقف نہ ہوں، ہر شخص اس حقیقت

سے واقف ہے کہ آج ارکان پارلیمنٹ کا انتخاب شرعی علوم سے واقف ہونے کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، اگر انہیں فقہی مسائل میں اجتہاد کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی تو گویا کہ انہیں ایک ایسے کام کا ذمہ دار بنانا ہو گا جس کے وہ بالکل اہل نہیں۔

اسلام کی بالغ حکمت عملی یہ ہے کہ اس نے کاہنوں، برہمنوں، اور عیسائیوں میں "کیلووں" کی طرح فقہی اجتہاد کے لئے کوئی سرکاری ادارہ قائم نہیں کیا، ایسا اس لئے ہوا کہ اکثر دیپٹریٹ ادارے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ شروفساد کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ان پر تسلط و غلبہ ہو جاتا ہے جو معاشرے میں طاقت و قوت کی بنیاد پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، رفتہ رفتہ ان اداروں پر سیاست، علاقائیت اور رنگ و نسل کے رجحان غالب ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ نصاریٰ کی بابویہ تاریخ میں پیش آیا، اسلام نے فقہی اجتہاد کے لئے سرکاری ادارہ کے قیام کے بجائے اس کے لئے صرف شرائط وضع کے، جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، وہی فقہی اجتہاد کے اہل ہوں گے۔

اجتہاد کا بہتر اور افضل طریقہ وہی ہے جس کی طرف آج سے چودہ سو سال قبل محبوب آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جسے حضرت علیؓ بن ابی طالب نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "فقہاء اور عابدین سے مشاورت کرو، اور کسی کی خاص رائے پر عمل مت کرو، اور خلافائے راشدین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال و اعمال کو مد نظر رکھو"۔

نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے کے دو شرطیں وضع فرمائی ہیں:

(۱) فقہاء تفقہہ فی الدین کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، وہ ہمہ وقت

قرآن و احادیث کے مطالعہ میں غرق ہوں، جیسا کہ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ”فَلَمَّا لَأْتَنَّهُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لَيَشْفَقُهُوا فِي الدِّينِ“ سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہربڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ (نوبہ: ۱۲۲)

(۲) فقهاء متقدی، پرہیزگار اور تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جن سے انسان حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرتا ہے، خواہشات نفسانی سے دور رہتا ہے، اور احکام الہی کو واضح کرنے میں ثالث مولیٰ سے کام نہیں لیتا۔

ارشد باری تعالیٰ ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقَبَّلُوا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا“ اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ذرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا۔ (انفال: ۲۹)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری اور اعلیٰ اخلاقی قدروں سے متصف ہونا بہت ضروری ہے، حضرت امام ترمذیؓ نے حضرت جبیر بن نفیر سے ایک حدیث تخریج کی ہے جو حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ”ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں سے علم اٹھ جائے گا، وہ لوگ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے“ حضرت زیاد بن لبید الانصاریؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہم سے علم کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور اللہ کی قسم اس کی

تلاوت کرتے رہیں گے، اور اپنی خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے زیاد! تمہاری ماں تم کو نہ بخٹی، میں تو تم کو بدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا، یہود و نصاری بھی تو تورات و انجلیل رکھتے ہیں، اور ان کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن انہیں اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے“ حضرت جبیرؓ نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت عبادہ بن الصامتؓ سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا کہ آپ کے بھائی حضرت ابوالدرداءؓ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر میں نے ان کی بات انہیں گوش گزار کر دی تو حضرت عبادہ بن الصامتؓ نے کہا کہ ابو الدداء صحیح کہہ رہے ہیں، اگر چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ علم میں سب سے پہلے لوگوں سے خشوع اٹھ جائے گا، تم بھری مسجد میں دیکھو گے کہ ان میں ایک بھی شخص خشوع و خضوع والا نہیں ہو گا۔ (جامع ترمذی، کتاب العلم)

اس لئے ضروری ہے کہ جو لوگ اجتماعی اجتہاد میں شرک ہوں ان کے اندر دونوں مذکورہ شرائط موجود ہوں، ان کا انتخاب تلقہ فی الدین اور تقویٰ و پرہیز گاری کی بنیاد پر کیا جائے، وہ حکومت یا کسی سیاسی پارٹی کے دباؤ کا شکار نہ ہوں، وہ فیصلہ کرنے میں با اختیار ہوں، اور وہ مشاورت میں کھلے ذہن سے شریک ہوں، اور وہ ہر تعصّب سے پاک ہوں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی رائے پیش کریں۔

موجودہ دور میں اجتماعی اجتہاد کے لئے متعدد اکیڈمیاں اور ادارے قائم کئے گئے ہیں، ان میں بعض حکومتی سطح پر کام کر رہے ہیں، جیسے سعودی عرب میں سربرا آورده علماء بورڈ، پاکستان میں فکر اسلامی کونسل اور ہندوستان میں اسلامی فتنہ اکیڈمی ہیں، اسی طرح بعض اکیڈمیاں میں الاقوامی سطح پر بھی قائم کی گئی ہیں، ان

میں اسلامی کانفرنس تنظیم کے زیر انتظام میں ان الاقوامی اسلامی فقہاء کیڈی اور رابطہ عالم اسلامی کی فقہاء کیڈی شامل ہیں، ان اداروں اور اکیڈمیوں نے جدید مسائل کے حل کرنے میں اہم کردار ادا کئے ہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان اکیڈمیوں اور اداروں کی قراردادوں کو اجماع امت کی حیثیت دیدی جائے، لیکن ہم ان کی تجویز سے اتفاق نہیں کرتے، میں ان اداروں اور اکیڈمیوں کی خدمات کا بہت زیادہ معرف ہوں، ان اداروں اور اکیڈمیوں نے امت کے بڑے بڑے مسائل حل کئے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے بچایا، جس کی وجہ سے وہ پوری امت کی جانب سے شکریے کے متعلق ہیں، تاہم ان کی قراردادوں کو اجماع امت کی حیثیت نہیں دی جانی چاہیے، اس لئے کہ اسلام اجتماعی اجتہاد میں "کھوتی نظام" کو تسلیم نہیں کرتا، ہماری روشن اسلامی تاریخ میں ایسا ایک بھی ادارہ نہیں پایا جاتا جس نے اجتہاد کا دروازہ دوسروں کے لئے بند کر دیا ہو، اسی وجہ سے امام مالکؓ نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ لوگ ان کے ہی اجتہاد کی پابندی کریں، ابن سعد نے امام مالکؓ سے ایک روایت تخریج کی ہے، امام مالکؓ نے فرمایا کہ "جب ابو جعفر منصور فریضہ حج ادا کرنے ارض مقدس آئے تو انہوں نے مجھے طلب کیا، میں ان کے پاس آیا، مختلف موضوعات پر جادلہ خیال کیا، اس دوران انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی "مؤٹا" کے ذریعہ نفعیے کروں، چنانچہ آپ اس کے متعدد شیخ تیار کریں تاکہ میں انہیں تمام شہروں میں بھیج دوں، اور تمام لوگوں کو اس بے مطابق عمل کرنے کا حکم صادر کر دوں اور دوسری کتابوں کو ترک کر دیں، تو میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! ایسا امت

کریں، لوگوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو شدید اختلاف رونما ہو جائے گا، اس لئے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ (الطبقات الکبریٰ لابن سعد)

کسی فقہاً کیڈی یا ادارے کے لئے ممکن نہیں کہ وہ پوری دنیا کے فقہاء کو جمع کر سکے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دیگر فقہاء کرام کو اپنی آراء کا اظہار کرنے سے روک دیا جائے، جب یہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اکیڈی یا ادارہ اپنی قرار دادوں کا دوسروں کو پابند بنائے، یا ان کی قرار دادوں کو اجماع امت کی حیثیت دیدی جائے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ قرار دادوں میں نہایت مفید ہیں، جدید مسائل کو حل کرنے میں ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، اور ان کے مضبوط دلائل و برائیں کو مرہجیت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب یہ قرار دادوں میں شائع ہوں گی، اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی تو خاص طور پر مذکورہ بالامسئلہ پر اجماع کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فقہاً کیڈی میوں اور اداروں کی قرار دادوں میں ضرور شائع کی جانی چاہئیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کرنے سے شاذ اور غیر شرعی فتوے صادر کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ادارے کے فتاویٰ کو تمثیل ہو گوں پر لازم کرنا ممکن نہیں، ہماری تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کمزور دلائل کی توجیہ پر فتاوے صادر کئے گئے تو ان کی طرف توجیہیں دی گئی، اور آج وہ صرف صفحات میں موجود ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں نہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

مکمل فہرست فقہی مقالات

جلد (۱)

عنوان

عنوان

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| ۱۱ | ۱ کاغذی نوٹ اور کرنی کا حکم |
| ۷۲ | ۲ کرنی کی قوت خرید |
| ۷۹ | ۳ قطبوں پر خرید و فروخت |
| ۱۳۹ | ۴ شیئرز کی خرید و فروخت |
| ۱۵۷ | ۵ حقوق مجردہ کی خرید و فروخت |
| ۲۲۹ | ۶ مغربی ممالک کے چند جدید مسائل |
| ۲۶۷ | ۷ اسلامی بینکنگ کے چند مسائل |

جلد (۲)

عنوان

- | | |
|-----|--|
| ۷ | ۱ مروجہ موزوں پر ضع کا حکم |
| ۲۵ | ۲ تاخیر کن کی وہ مقدار کیا ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے |
| ۳۳ | ۳ رمضان میں نفل کی جماعت |
| ۵۷ | ۴ پیغکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ کا مسئلہ |
| ۱۳۵ | ۵ اسلام میں ضلع کی حقیقت |
| ۱۹۳ | ۶ مستقبل کی تاریخ پر خرید و فروخت |
| ۲۱۷ | ۷ ہاؤس فائینانس کے جائز طریقے |

صفحہ نمبر

عنوان

- ۱۸۵ غیر سودی کا ذریعہ، یعنی پی، ایل، ایں اکاؤنٹ کی حقیقت
- ۲۶۳ فاران ایکچھے، پیر رئیس پریقلیش کا شرعی حکم
- ۲۸۳ ووٹ کی اسلامی حیثیت
- ۳۰۱ قانون میعاد ساعت کی شرعی حیثیت
- ۳۱۱ کوئے کی حلت پر تحقیق

جلد (۳)

- ۱ بینک ڈپارٹمنٹ کے شرعی احکام
- ۲ برآمدات کے شرعی احکام
- ۳ غیر عربی زبان میں خلبہ جمع
- ۴ زکوٰۃ کے جدید مسائل
- ۵ تین طلاقوں کا حکم
- ۶ جھیلنگ کی شرعی حیثیت
- ۷ بیع باتفاقی کا حکم
- ۸ بیع الاجر اکار کا حکم
- ۹ مضاربہ پریقلیش
- ۱۰ جہاد، اقدامی یاد فائی

جلد (۳)

- ۱ قناء عربی کی حقیقت
- ۲ جیلوں، چھاؤنیوں اور ایئر پورٹس پر نماز جمع

صفحہ نمبر

عنوان

- ۳۹ پرودہ اور اس کی شرعی حدود
- ۸۹ اسلام میں تصور پر کا حکم
- ۱۳۵ ۵ حرام اشیاء سے علاج کا حکم
- ۱۵۳ ۶ جانوروں کے ذبح کے احکام
- ۲۵۱ ۷ جدید آلات سے ذبح کرنے کے طریقے اور ان کا حکم
- ۲۹۱ ۸ غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کا حکم

جلد (۵)

- ۱ موجودہ عالمی بحران اور اسلامی تعلیمات
- ۷۵ ۲ اس عضو کی پیوند کاری، جس کو حدیاً قصاص میں علیحدہ کر دیا گیا ہو
- ۱۲۷ ۳ کسی چیز کو ادھار خرید کر کم قیمت پر نقد فروخت کرنا
- ۱۸۳ ۴ مبتوتہ کے لئے نفقہ اور سکنی کا حکم
- ۲۰۱ ۵ احتہا اور اس کی حقیقت
- ۲۲۳ ۶ کیا حالات زمانہ بد لئے سے احکام میں تبدیلی آتی ہے؟
- ۲۲۹ ۷ المرأة کا لقاضی کا مطلب
- ۲۶۳ ۸ الہدی انٹریشنل کے افکار و عقائد کا حکم

جلد (۶)

- ۱ شریف کے حادثات اور ان کا شرعی حکم
- ۷۵ ۲ دین اور مالی دستاویز کی فروخت

صفحہ نمبر


عنوان

- ۱۷۱ ۳ مرکز اسلامیہ کی طرف سے فتح نکاح
- ۱۶۱ ۲ اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک
- ۲۲۱ ۵ حرمت رضاعت دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟
- ۲۲۵ ۶ اسلام میں غلامی کی حقیقت
- ۲۶۷ ۷ حدود ترمیی بُل کیا ہے؟
- ۳۰۱ ۸ اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

جلد (۷)

(نوت) انتظار فرمائیے۔ جزاکم اللہ

مکتبہ ایضاً پستھن



E-mail : memonip@hotmail.com
 Memon Islamic Publishers